

UNIVERSAL
LIBRARY

OU-234225

UNIVERSAL
LIBRARY

القاموس الجارید

نعتی بی جدید

(جہان میں)

جدید عربی زبان اور اس کے مختلف لہجات کے تحت بیبا (دس) ہزار الفاظ و اصطلاحات جو دنیا
 مصر، شام و عرب وغیرہ میں متوج و مستعمل ہیں، نظم و شعر اور علوم و فنون کی صد ہا کتب اور
 صحائف سے کما ہوا سال کے وسیع و غائر مطالعے کے بعد منقح کر کے ان کے تاخذ و معانی اردو زبان
 میں شرح و ربط کے ساتھ لکھے گئے ہیں

مؤلف

راجہ راجیسور اواصفغر (وزیر) خلف کبر راجہ اویات راوہا بھوبھادراستہا و

مصنف و مؤلف و مترجم

محبوب الاخلاق، حدیقہ الاخلاق، کلین دانش، گلزار دانش، ریاض دانش،
 کشف الاسرار، بدیع الملوک، لہاج جہانگیری، معانیات القلب، اتمام بارش،
 اتمام نواہر سہلی، تفسیر الفرس، گنجینہ امثال، کارنامہ، نغم اللغات، فصیح اللغات
 افسہ اللغات، نور خندہ آفاق، قرآن السعیدین، مجمع البحرین، لغز و عناول، لہاج نہ
 مجمع الفاظ، فرہنگ فارسی جدید وغیرہ

۱۳۲۲ھ

اصل کتاب مطبع آؤن میں ہو مائل اور مقدس پرنٹ چھپا

القاموس الجريد

لغتي بنی جدید

جندیہ میں

جدید عربی زبان اور اس کے مختلف لہجات کے تلفّز پر (دس) ہزار الفاظ واضعاً اجاڑیئے گیا
 مصر، شام و عرب وغیرہ میں مروج و مستعمل میں نظم و نثر اور علوم و فنون کی صد ہا کتب اور جرائد
 و صحائف سے لے کر ہر سال کے وسیع و غائر مطالعے کے بعد منقح کر کے ان کے آخذ و معانی اردو زبان
 میں شرح و بسط کے ساتھ لکھے گئے ہیں

مؤلف

راجہ راجیسور او اصر (وزیر) خلف اکبر راجا واپت و مہاراجا بہار و مستہار و
 مصنف و مؤلف و مترجم

محبوب الاخلاق، حدیقہ الاخلاق، گلشن دانش، گلزار دانش، ریاض دانش،
 کشف الاسرار، پدیۃ الملوک، تاج جہانگیری، معالجات الکلب، اتحاد پارسی،
 استیلاء نوار سہلی، شرح الفرس، کتبۃ امثال، کارنامہ، نظم اللغات، مفتاح اللغات
 افسر اللغات، فرخندہ آفاق، قرآن السعید، مجمع البحرین، نغمۃ عدول، تاج نہر
 مجمع الفاظ، فرنگ فارسی جدید وغیرہ

جلد ۱۳

مستطاب طبع آدن میں بنی بوائل اور مقرب پرنٹ چھپا

نوٹ: اس کتاب کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

الہی نامہ را آغاز کردم بنامت نامہ را باز کردم

مقدمہ

نیاز مند نے بد شعور سے اپنی زبان کی اصلاح و ترقی کی جانب توجہ کی اور ملک و قوم کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا چنانچہ لگا تار تیس سال سے ادب و انشاء، نظم و نثر، اخلاق و تواریخ اور علوم و فنون کے متعلق کم و بیش تیس کتابیں تصنیف و تالیف کیں جن میں خدا کے فضل و احسان سے قبول عام و بقائے دوام حاصل ہوا لیکن راقم کی آخر اور معرکہ آرا تالیف عربی و فارسی اور اردو کا نہایت ہی جامع و مستند لغت ہے جو میں برسوں کی ان تھک اور جانگاہ کوشش و محنت کے بعد ہر طرح کمال سے جوکا ہے اور عنقریب طبع کیا جائے گا یہ لغت مفصلہ زبانوں کے الفاظ پر مشتمل ہے۔

(الف) پندرہ ہزار جدید فارسی الفاظ جو تیرہویں صدی ہجری میں مولد و مفرس ہو کر فارسی زبان میں رائج ہیں۔

(ب) پندرہ ہزار جدید الفاظ جو تہدین جدید کے اختراعات و انخشافات نے ہم پہنچائے ہیں۔

(ج) ایک لاکھ عربی و فارسی الفاظ جو عربی و فارسی اور اردو ادب میں مستعمل ہیں۔

(۷) ہندوستان کی مشترک و عام زبان اردو کے ایک لاکھ الفاظ جو اردو نظم و نثر میں رائج ہیں۔

(۸) چالیس ہزار وہ الفاظ جو سنسکرت کی قدیم علمی و ادبی کتب اور جدید اردو تراجم سے مطالعہ کر کے مجتمع کئے گئے ہیں۔

(۹) دس ہزار انگریزی ترکی اور دوسری زبانوں کے الفاظ جو فارسی وارد ہیں لکھے اور بولے جاتے ہیں۔

(۱۰) کئی ہزار محاورات و امثال جو فارسی وارد ہیں مستعمل ہیں۔

چونکہ اس ضخیم و حجم کتاب کے طبع اور شائع ہونے کے لئے ایک عرصہ درکار ہے اور جدید فارسی و عربی کی تعلیم کی احتیاج کا سخت احساس اساتذہ و تلامذہ اور حکام معارف عمومیہ کو ابتدا سے تھا چنانچہ ان کی تمہیل کے لئے مختلف تدابیر و انتظامات بھی کئے گئے۔ لہذا اس ضرورت عاجلہ نے مجھے اپنے لغت کے حصص (الف) اور (ب) کو علیحدہ علیحدہ طبع کرنے کی جانب متوجہ کیا پس میں نے اولاً فرنگ فارسی جدید کو چھاپ دیا۔

یہ فرنگ منقطع ہوتے ہی ہندوستان کے تمام طول و عرض میں مقبول عالم ہو گئی۔ جسکے ایران نے اس کا استقبال بڑی مسرت کے ساتھ کیا اور اسکو نہایت امتحان کی نظر سے دیکھا۔ ناظم معارف عمومیہ حیدرآباد دکن کی مجلس انتقادی نے بھی اس کو کامل العیار ٹھہرا کر مدارس ثانویہ، رشیدیہ اعدادیہ اور جامع عثمانی کے مدارس کلیہ کے کتب (کتب خانوں) کے لئے منظور فرمایا۔ انہیں قدر و انیوں اور بہت انعامیوں کی بنا پر مولف نے اپنی فرنگ

فارسی جدید کی ترمیم و تہذیب کر کے اس میں دو چند توسیع و اضافہ کر دیا ہے جس کا نسخہ ثانی (سکنڈ اڈیشن) عنقریب طبع ہو کر شائع ہونے والا ہے۔
 مع ہذا عامۃ الناس (پبلک) نے مذکورہ بالا وعدوں (حصص) بی غش و
 کے ایفا کے لئے اپنی روز افزوں دلچسپی بے انتہا شوق و شغف اور مفرط
 اعتناء سے مؤلف کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اپنے مؤلفہ جدید عربی
 کے لغت حصہ (ب) کو بھی بجالت ممکنہ شائع کر دے پس نہایت اذیت
 کے ساتھ القاموس الحدید جو فی الواقع علامہ فیروز آبادی کے مشہور
 و معروف قاموس کا مترجم ہے قارئین کرام کے لئے پیش کیا جاتا ہے
 اس لغت کی تدوین و تالیف میں ہمچراں نے جس قدر دماغی محنت کی ہے
 اور کتب و صحائف علمیہ اور جرائد یومیہ وغیرہ میں جو قسم قسم کی
 اس کا کیا سنجی احساس تو لگوئیں و لسانین ہی کر سکتے ہیں تاہم اگر
 مطالعین بھی اس کو بہ نظر امعان دیکھیں تو ان کو معلوم ہو گا کہ محکمہ عالی
 نموتیں دولتِ خدیویہ مصر کے عہد سے تالیف کتاب ہذا کی تاج تک
 یعنی تقریباً صد سالہ دورِ علمی میں جس قدر لسانی ارتقا اور علمی تقدیم ہوا
 اس کا عطر نکال کر قاموس ہذا میں بھر دیا گیا ہے۔ اس مسلم الثبوت

میرے خیال میں مولانا محمد عبد الحمید صاحب معین شخصی نائب صدر اعظم بہادر
 کی رائے کے بموجب اور بادی تمدن حدیث کا آغاز بھی پائے نہوج کی ادارہ مصر
 سے ہوتا ہے اور عربی اچھا و ترقی کا سہرا تو اسی والی کے سر رہا

اسلامی مدبر و سیاسی نے جو علمی و ادبی خدمات انجام دی ہیں وہ مجھ کے لیے
 میں فلسفہ و علوم ریاضی جغرافیہ و ادب کے متعلق اس زمانے کی چالیسین پچاسین
 کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں جو اس سہ ماہیہ خصوصاً فرانس سے ترجمہ کی گئی
 ہیں۔ قاہرہ کی تقلید اسکندریہ اور شام کے کئی شہروں دمشق بیروت وغیرہ
 میں کی گئی۔ مؤخر الذکر میں تو کئی مکاتب و مطابع جبالقہ نے قائم کئے
 انہیں مدارس کے نتائج و حاصلات سے بطرس بُستانی۔ وان دیکل میر
 کافی۔ سلیمان بُستانی وغیرہ ہیں۔ بطرس نے ابتداءً حساب وغیرہ کے متعلق
 چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں۔ پھر محیط المحيط اور قطر المحيط جیسا مستند لغت
 مدون کیا۔ کتاب مقدس کے عربی ترجمہ میں شریک رہا۔ بعد ازاں ہارۃ
 المعارف کو شروع کیا تھا کہ موت نے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے
 یہ شخص محض ناقل تھا۔ تحقیق سے نا آشنا چنانچہ وادی الحجارہ کو کوار الحجرا اور
 نظریہ وغیرہ کو الگامو لکھا ہے۔ سنا ہے کہ سلیمان بُستانی سے جو الیاذہ کا
 معرب ہے۔ اس انسانی کلویڈیا کی تکمیل کرائی گئی ہے لیکن ہمارے پاس
 تو حرف میں تک وصول ہوا اور زمانہ تدوین القاموس الجدید میں ہمارے
 پیش نظر رہا۔ وان دیک کی کتب علمیہ سے بھی ہیں کئی قدر فائدہ پہنچا
 ایک اور علمی کتاب تحفہ سعیدیہ نہایت مفید ہے کا توثیقی مطبع کی بعض
 کتابیں کارآمد ثابت ہوئیں۔ ان میں سے منجد۔ فرایدِ درّیہ۔ اقرب الملوک
 یوحنا۔ درتبات کالغت وغیرہ ہمارے ماخذ میں سے ہیں۔ افسوس ہے
 کہ مصر کے ولایت نے جو خدیو کے لقب سے لقب تھے۔ علم و ادب کی طرف

کچھ زیادہ اعتنائیں کی مدارس میں فرنی۔ المانی۔ طلیانی۔ اور انکلیستی
 وغیرہ کی تعلیم ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقول علامہ عبدالقادر صاحب صدیقی
 رئیس (پرنسپل) جامع عثمانی، تمام افرنجی (یورپین) الفاظ معرب نہیں محض
 ہو کر زبانوں پر چڑھ گئے، کوئی بروغرام کوئی بروجرام (نامہ) کہنے لگا۔ ان
 الفاظ کو ہم سوتی یا دواج سمجھ کر ترک کر دیتے لیکن سب جرائد و صحائف میں
 مصحف الفاظ سے معمور نظر آتے ہیں اور لغوی کا فریضہ اولیٰ یہ ہے کہ ہر قسم
 کے الفاظ کی خواہ عامی (بتذیل) ہی کیوں نہ ہوں تفہیم معنی (نہ تقلید)
 کے لئے تشریح و تصریح کرے لہذا ہم نے اس قسم کے کثیر الاستعمال الفاظ شکر
 کر لئے ہیں۔ ۱۹۲۰ء تک مصر کا یہی حال رہا حتیٰ کہ حسن قسمت سے عباس حلمی
 خدیو مصر ہوئے۔ انہوں نے عربی کی اصلاح و ترقی میں خاص توجہ مبذول
 کی۔ ان کے عہد میں علم و ادب اور صحافت نے اس قدر ترقی کی ہے کہ اسکی
 تفصیل کے لئے ایک متقی کتاب کی ضرورت ہے۔ مختصراً یہ کہ ہر قسم کے علوم
 و فنون اور آداب کے متعلق کوئی سو کتابیں ہمارے کتب خانے میں ہیں جتنا
 و جرائد کا کوئی حد و احصا نہیں۔ ان میں سے مقسّم۔ ہلال۔ مقطّم وغیرہ
 خصوصاً منار (قاہرہ) اور جواب (قسطنطنیہ) قابل ذکر ہیں۔ اہل ہند نے
 جدید عربی کی جانب بہت ہی کم توجہ کی۔ یہ تعلقات ہی سے نکلنے ہے جریر

۷۰ اہلال کے مدیر جریری زیدان نے عربی کی بڑی خدمت کی متعدد کتابیں تالیف کیں۔ برسوں ساڑھ لاکھ
 لیکن علامہ و صوف کو تھمت سے کچھ تعلق نہ تھا سروسہ کو شرطہ کہہ دینے میں تامل نہیں کیا ۱۲

تنبی وغیرہ کی پرانی لکیریں پٹیا کئے۔

غرض اگر میری قصیدہ النظری قاطبی نہ کرے تو ہندوستانیوں نے جدید عربی کے جو کتب و لغت لکھے ہیں ان کی کل کائنات اسی قدر ہے۔

(۱) پہلے پہل ایک مختصر لیکن بہت ہی مفید لغت مولانا سید عبدالرحمن صاحب مرحوم ٹونکی نے لکھا جو نواب محمد علی خان کے عہد کا معلوم ہوتا ہے اب ناہا ہے (۲) پنجاب یونیورسٹی نے دو کتابیں عربی بول چال کے متعلق لکھنؤ میں بعض الفاظ جدید ہیں لیکن کتابیں کسی مصری یا شامی کتاب کی نقل معلوم ہوتی ہیں۔ واٹس اعظم

(۲) مولانا سید محمد احمد صاحب حکیم و مقصد خلیلیہ کالج ٹونک نے قدیم و حدیث عربی کا ایک جامع لغت لکھا۔

(۴) کلکتہ سے نئے شائع کی۔

(۵) مولوی شبلی نے اپنے سفر نامے میں سات آٹھ صفحے کا ایک ضمیمہ

وجہ کیا۔

(۶) پروفیسر نیدرگھاٹ (حیدرآباد) نے بول چال (مکالمہ) کی ایک مفید کتاب انگریزی عربی میں لکھی۔

(۷) مولوی سید عبدالقدیر صاحب پروفیسر جامع عثمانی نے ایک مختصر سی فرہنگ مفید اللغات کے نام سے لکھی۔

(۸) مدیر پیہ اخبار نے (عربی بول چال) انگریزی و عربی سے ترجمہ کی۔

(۹) حافظ عبدالرحمن خاں امرتسری نے بول چال کے نام سے دو

چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھیں۔

(۱۰) پروفیسر تو ما آرنلڈ اور مولوی قاضی ظفر الدین احمد نے سوا اسی

لکھی یہ کتاب نہایت قابل قدر ہے اس کا ماخذ یورپ کے معتبر و مستند فرسی
المانی انگریزی مستشرقین ہیں۔ فی الواقع بڑی جانکاہی اور لیاقت کا کام کیا
لیکن اس میں اکثر و بیشتر قدیم معرب و وخیل الفاظ اور فرسودہ باتیں ہیں۔

(۱۱) لغات عربی فی سروزہ اور

(۱۲) فیروز اللغات عربی

(۱۳) لغات جدیدہ مولوی سید سلیمان صاحب ندوی نے جدید عربی کے

کوئی چار ہزار الفاظ کا مجموعہ اس نام سے شائع کیا۔ یہ کتاب قابلیت اور
محنت سے لکھی گئی ہے۔ اس کے ماخذ مؤلف کے مطالعہ کتب کے علاوہ
انگریزی مستشرقین کی فرہنگیں خصوصاً پادری ہوا کی عربی انگریزی ڈکشنری ہے

(۱۴) علامہ سما (اس۔ ام۔ احمد) کا جدید دائرۃ المعارف۔ یہ کتاب

کئی ضخیم جلدوں میں مدون ہوئی ہے۔ حقیقت میں قدیم و جدید ہر قسم کے
علوم و فنون، ادب و تاریخ کا نہایت ہی مستندان سائنسی کلکولپڈیا ہے۔

(۱۵) مجلہ البیان جو لکھنؤ سے علامہ حضرت عبداللہ عیاضی کی ادارت میں

کئی سال تک نہایت حسن و خوبی سے جاری ہوتا رہا۔ مولانا عیاضی نہ صرف

ہندوستان کے مسلم البشوت ادیب و مورخ ہیں بلکہ تمام عالم اسلامی میں ان کا

کوئی نظیر موجود نہیں اختصاراً یہ کہ ایسا ادبی رسالہ قاہرہ اور آستانہ کو بھی

نصیب نہ ہوا آفتوں ہے کہ ملک کی بد مذاقی سے یہ رسالہ چل نہ سکا۔

(۱۶) جناب مولانا مولانا بخش صاحب ام۔ اے ڈھی لٹ افسر سرشت شہ جگلا
سرکار نظام نے ماڈرن عربی کے متعلق اس قدر حیرت انگیز مواد فراہم کیا ہے
کہ پروفیسر ڈوزی کے مستدرک کو بھی گرو کر دیا۔

(۱۷) شمس الاطبا ڈاکٹر غلام بیگانی صاحب کا طبی لغت مخزن الجواہر اس میں
جدید عربی کی بہت سی طبی اصطلاحات ہیں۔ یورپ کے عربی تقدم ادبی
کا حال کتاب اندا کے مقدمہ میں لکھنا موجب طوالت ہے۔ اس لئے ہم نے
تمام افرنجی مستشرقین کی تالیفات و تصنیفات کو قاموس اندا کے ماتخذ کی
فہرست کتب میں شریک کر دیا ہے کیوں کہ یہ عربی زبان کے ادب
کی تاریخ یا لسانی تخلیط (لنگوٹک سروے) یا الہ سامیت کا حال لکھنا
منظور نہیں ہے جس کے لئے بیسوں ضخیم ضخیم جلدوں کی ضرورت ہوگی اہتتاماً
ہم زبان عربی کے منطقہ نفوذ (دائرہ اثر) کے متعلق علامہ سما (اس۔ ام۔
اے) کے قابل قدر عالمانہ مضمون کی تلخیص درج کرتے ہیں جس سے مطالعین
گرام کو عربی کے انتشار کی حیرت انگیز وسعت کے علاوہ اس زبان کے تمام
لہجات بھی معلوم ہوں گے۔

علامہ مدوح لکھتے ہیں کہ عربی کا منطقہ نفوذ کالیہ (جو انگلستان کے
بندرگاہ ڈور کے مقابل ساحل فرانس پر واقع ہے) سے شروع ہو کر جزائر
الملوک (جو اوقیانوسیا میں واقع ہیں) تک ممتد ہے۔ یہ عربی مالک پر
منطبق ہوتا ہے اسکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اوپر با (یورپ) فرانہ (اس پر آٹھویں صدی مسیحی میں کچھ دنوں سلا

قبضہ رہا اس لئے فرانسیسی زبان میں صدہا مفرد کس عربی الفاظ پائے جاتے ہیں، اسپانیا (اندلس) موجودہ اسپانی زبان میں خمس عربی الفاظ داخل ہیں اور بواسطہ اسپانی۔ امیرکائی میں بھی کثیر الفاظ شریک ہو گئے ہیں۔ جنوبی ایشیا پر مسلمانوں نے کئی دفعہ قبضہ کیا پس زبان استعمال میں بتک عربی الفاظ و تخیلات ایتالی (طلیانی) میں داخل ہو گئے۔ سواحل ہندو بحر (مجاہرتان) بلا وجہ (جہان) مالک بلقان (جوسابق میں دولت عثمانیہ کے حصّے تھے بلاولہ یا (ہمتان) پولینڈ۔ قرم۔ قفقاسیہ (گرجان) ان ممالک میں بواسطہ ترکی عربی نے نفوذ کیا۔

جزائر بحر متوسط، بلیارہ، قرقشہ، سردانیہ، صقلیہ، مالطہ۔ اتریش، قبرص و غیرہ ان خبریوں پر عربی قبضہ ہوا۔ ان کی زبانوں میں عربی عنصر موجود ہے۔ صقلیہ، مالطہ، وغیرہ کی زبان تو مصحف عربی کہی جاتی ہے۔ یورپ کی اور زبانوں المانی، ہولندی، انگریزی، روسی، ترکی، اسبوجی، دانیارقی وغیرہ میں جو بہرا عربی الفاظ پائے جاتے ہیں وہ تعلیم و تدریس کی وجہ داخل ہوئے۔

افریقا۔ مراکش۔ الجزائر۔ تونس۔ قرآن۔ طرابلس الغرب۔ برقہ مصر۔ صحرائے عظمیٰ کے تمام واحات (مختان) مثلاً سیوہ۔ جنوب ایشیا کو از یہ سب اسلامی ممالک و خطے سمجھے جاتے ہیں ان کی اصلی زبانیں بربری ہیں اور مصر کی قبطی ہے۔ لیکن عربی عنصر اس قدر غالب ہے کہ یہ عربی زبان کے مختلف لہجے (مراکشی، جزائری، تونسہ۔ قرآنی۔ طرابلسی وغیرہ) کہے جاسکتے ہیں۔

اور مصر کی زبان تو (جہاں قدیم الايام میں السنہ حامیہ یعنی ہیر و غلفی، میتریقی اور قبطی بولی جاتی تھیں) اسٹانڈرڈ (کسالی یا فصیح عربی سمجھی جاتی ہے) صحرا میں تو ارک (طوارق) رہتے ہیں جن کی زبانیں اصلاً بربر (حامی) ہیں لیکن عربی نے بہت نفوذ کیا ہے۔ سوڈان غربی (جو خانہ - ساحل عاج - ساحل نوب - ساحل عبید - داہومی - تمبکتو وغیرہ پر مشتمل ہے) سوڈان اوسط (جس میں بحیرہ شاد کے آس پاس کئی اسلامی ریاستیں - ادموا - ماسنہ وغیرہ اب تک قائم ہیں) سوڈان مصری جس کے اکثر ریاست بحرالغزال - کرفان - دارفور وغیرہ میں عربی ملکی زبان سمجھی جاتی ہے حبشی (جسٹہ) زبان کے کئی لہجے غنداری وغیرہ میں جنہیں سے غازی لہجہ السنہ سامیہ (سامی زبانوں) میں داخل ہے - شرقی افریقیہ میں - سومال - زنجبار سے موزمبیق تک عربی کا کمال نفوذ ہے ارض ما فون، مقدشو، کلوہ، وغیرہ عربوں کے قدیم الايام سے تجارتی مرکز رہے ہیں جزائر قرم اور دارالسلام کی زبان عربی ہے جنوبی افریقیہ کی ایک بڑی غیر مسلم قوم کا نام کفرہ ہے اور یہ کافر کی جمع ہے اس سے عربی نفوذ ظاہر ہے۔

آسیا - عرب - شبہ جزیرہ سینا - فلسطین و شام - بادیاہ اشام بلاد الجزیرہ و عراق عرب میں تو عربی ملکی زبان ہے۔ آسیا الصغریٰ (ترکی) کی زبان عربی ترکی یا عثمانی کہلاتی ہے۔ اس میں تمام علمی و انتظامی الفاظ عربی ہیں۔ ایران، افغانستان، و بلوچستان میں فارسی کے صدہا لہجے بولے جاتے ہیں جن میں تمام تر عربی بھری ہوئی ہے۔ ہم نے جو جدید فارسی

کی فرہنگ لکھی ہے اس پر سرسری نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ تمام جدید لغات و اصطلاحات عربی ہی عربی ہیں۔ ترکستان سے لیکر خطا تک عربی کا نفوذ بہت قوی ہے۔ لیکن ان سے پرے مغولستان و سیلا میں بہت ہی ضعیف ہو گیا ہے۔ ہندوستان پر (بجز ہندو کے موقت احتلال کے) کبھی بھی عربی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ ابتدا سے ترک و مغل اور افغانہ ہی سرداروں نے روائی کرتے رہے جن کی زبان ترکی یا فارسی تھی لیکن ان کے واسطے سے ہندوستان کی کل زبانوں میں جو عربی کا اختلاط پایا جاتا ہے وہ مذہب الفہم ہے۔ شمالی ہند کی زبانوں اور لہجوں سے آپ اصحاب بخوبی واقف ہیں اور اس امر سے بھی آپ بے علم نہ ہونگے کہ مرہٹی و گجراتی زبانوں میں تمام حکومتی و مذہبی اور بیشتر علمی الفاظ فارسی و عربی ہیں۔ مجھے کچھ جنوبی ہند کی دراوڑ زبانوں کے متعلق کہنا ہے جو اروی، (نائل) تلنگی (آندھر) کٹری، بیلام، تولو وغیرہ ہیں ان زبانوں کے اخلاط میں عربی بمنزلہ خون کے ہے۔ احاطہ مدراس میں (جو دراوڑ بھاشاؤں کا جنم بھوم ہے) کیا کماری تک بلکہ لٹکائیں بھی جتنی ملکی و مالی و انتظامی اصطلاحات ہیں وہ اکثر و بیشتر عربی و فارسی ہیں ان میں صدقاً اقتصادی و تجارتی الفاظ میں جو عربی کی تصحیف معلوم ہوں۔ مثال میں ہم اس قسم کے الفاظ کا دریا بہانے کو مستعد ہیں لیکن وضع الیشیئ فی غیر محلہ اور طوالت کے خیال سے باز رہتے ہیں۔

جنوبی ہند کے بعض جزائر محل دیب (مالدیپ) امین دو وغیرہ میں اسلامی حکومت و اثر مہوز باقی ہے اس لئے اگر ان کی زبانوں میں عربی کا غلبہ

ہو تو کوئی تعجب نہیں لیکن بحسبِ مہند کے تمام ٹاپووں کی زبان میں جو ملایا (صحیح) کہلاتی ہے عربی و فارسی کا اختلاط تھیں۔ اسی بنا پر علامہ سمانے تلے کو اسلامی زبانوں میں شریک کر لیا ہے۔ اربعہ ہند مشرقی کے اکثر جزیروں جاہ (جاوہ) آجہ (آچین) فلپین وغیرہ میں عربی حکومت و تجارت ایک عرصہ مہند تک رہی لہذا ان میں عربی عموماً سمجھی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ عربی کے ان تمام لہجوں میں بہت ہی فرق ہے۔ مصری و شامی عربی میں جو دو متصل اقطار کی زبانیں ہیں بڑی مغایرت ہے حتیٰ کہ خود عرب کے مختلف لہجے۔ حجازی، یامانی، حضرمی، عمانی، عراقی، ربعی، نجدی، جزیری وغیرہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیسی اور جانی (جاوہ کی عربی) میں جنہیں چار چار بڑے علم خاں ہیں بعد المغرب و المشرق کہوں نہ ہو۔

واضح ہو کہ اگر فضلِ خدا شامل حال رہا تو ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ باقی حصص یعنی سنسکرت ہندی وغیرہ کے لغت بھی جدا گانہ طبع و اشاعہ کرائے جائیں۔ آخراً و نہایتاً فارسیں کرام و مطالعین عظام سے توقع ہے کہ جو استقامت بے ترتیبی اور سہو کتابت سے اس کاموں میں پیدا ہو گئے ہیں ان سے مجھے معاف فرمائیں گے اصل میں نے یہ کتاب کاغذ کے قطعات پر لکھی تھی جنکو بہ ترتیب حروف تہجی مرتب کر کے بیٹھنے کے لئے کتاب کو دیدیا گیا تھا۔ لیکن بے اعتنائی کے سبب ترتیب درہم برہم ہو گئی اور کچھ چھٹیاں مفقود ہو گئیں۔ معرف الفاظ۔ الف لام میں درج کر دئے گئے۔ اعراب کی صحت تو ہندوستانی

کاتبین سے نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہے ہی وجہ تھی کہ فرنگ فارسی جدید کے وقت کافی خود مؤلف کو لکھنی پڑی۔ لیکن القاموں الجدید کے طبع کے وقت مؤلف اپنے مقررہ حکومت پر تھا۔ پروف تک خود نہیں دیکھے۔

ناظرین اس کتاب میں ایک اور قسم کی غلطی بھی پائیں گے جو کثیر الوقوع ہے عربی نحو کی رُو سے اسما و صفات دونوں پر الف و لام تعریفی لانا ضرور ہے لیکن ہندوستان اور ایران کے علماء فقط صفات کے ساتھ الف - لام استعمال کرتے ہیں مثلاً بیت المقدس، آثار الباقیۃ، عدالت العالیہ (صحیح۔ البیت المقدس۔ الآثار الباقیہ۔ العدالة العالیہ) اگرچہ مستند نجات عربی نے بھی اس کے جائز کرنے میں بہت کچھ تاویلیں کی ہیں لیکن احترام حسن ہے۔ ان امور مافات کی کامل تلافی طبع ثانی میں انشاء اللہ ضرور کر دی جائیگی

نیاز مند

زاجیوراؤ

۱۳۳۲ھ

باب الف محدودہ

آباد - جمع (آب) پادری -

آبار توار تواریہ - وہ کنواں جو کل کے ذریعے کھدوایا جاتا ہے -

آتش - نیر کو - داغو - شلک کرو

آتش جی - انجن کی آگ کا خبر گیر - آتش بان -

آثار قدیمہ - قدیم یادگار چیزیں - مثلاً عمارت و اہنیہ آلات -

آثاری آثار قدیمہ کا عالم علم آثار قدیمہ کا ماہر

آثری آری کیا وجہ

آداب اللغۃ - لٹریچر - ادب -

آداب عمومیہ - اخلاق عامہ -

آستانہ - استنبول - واصل ترکی وزرا کے

اجلاس کرنے کی عمارت کا نام ہے جسکو

(باب عالی) کہتے ہیں - واضح ہو کہ شام

و مصر میں عملاً آستانہ کہتے ہیں -

آغا - خواجہ سرا -

آفندی - صاحب - مسٹر -

آرٹھستا - درشنی ہندی -

آقاسی - مہتمم دیوان خانہ شاہی -

آکسیجن - ایک عنصر (غاز) -

آلات الحرب - جنگ کے ہتھیار -

آلاتی - علم الآلات کا عالم -

آلامی - جہنم -

آلۃ البخار - سٹیمن انجن

آلۃ تکسیر البندق - سروتا -

آلۃ خیاطت - سونے کی کل -

آلۃ الطرب - موسیقی کا آلہ -

آلۃ کاتبہ - ٹائپ رائٹر -

آلۃ المتکلمہ - ٹیلیفون -

آلۃ الملائی - موسیقی کا ایک آلہ -

آلۃ رافعہ - لفٹنگ - پمپ -

آمزش - (عرب فارسی آمزش یا خامینر) ایک

قسم کا طعام جو پیچھے پڑے کے گوشت سے

تیار کیا جاتا ہے -

آئسہ - ان باہی لڑکی - مس آوانس جمع -

باب الف مقصورہ

آب - سیھی لوگ پادری کو آب کر کے پکارتے ہیں -

آبار - جلا ہوا سیسہ - کلاسیہ سرچختہ - ہر پلے -

آبار - سوئی بنانے والا -

آبازن - جمع (ابزن) شبہ نہانے کا برتن۔
 آبازیر - جمع (آرار) معرب (افراز) فارسی
 کا گرم مصالحہ جیسے سیاہ مرچ - دارچینی -
 زیرہ وغیرہ
 آبالمہ فارسی میں (پالہ) ہے۔ لکڑیوں کا
 آبالمہ بڑا گٹھا۔
 اببدال الاتہم - حصص کی تبدیلی۔
 ابزاز التذکرہ - نتیجہ ٹکٹ - چکنگ
 آبز امیس - ایک قسم کی مچھلی جس کا کھانا
 سحدہ کو مضر ہے۔
 ابزۃ الاسخطاط - قطب نما کی سوئی
 ابزۃ البوصلہ - قطب نما کی سوئی
 ابزۃ الملاہین - قطب نما کی پاس
 آبز ششیہ - دائرہ حکومت اسقف
 مذہبی اثر۔
 آبزل { انگریزی چوتھا مہینہ اپریل۔
 آبزیریل }
 آبزیرج - زرخاں معرب ہے فارسی
 (آب ریز) کا۔ دو دھرا چھانچہ کا برتن۔
 آبزیر - خالص سونا۔ گندن - (معرب ہے
 ابروزن) کا

آبزیتم - معرب فارسی (ابزیتم)
 حریر - ریشم۔
 آبزیتم - ریشم
 آبزریق الشاء - چادوان - سادار
 آبزوار - گرم مصالحہ جیسے سیاہ مرچ
 دارچینی وغیرہ
 آبزن - معرب ہے۔ فارسی (آبزن)
 نہانے کا برتن۔ شب جمع آبازن
 آبزیم - بقول بعض معرب یا ذخیل اور
 بقول بعض مشتق بزیم سے یعنی دہان
 پیشین گزیدن - بکسوا - بکس
 - (ابازیم) جمع
 ابطل المشازطہ - عہد کا ٹوٹ جانا۔
 ابطل - گھائی۔
 ابعدیہ - جاگیر وہ قطعہ زمین جو حاکم وقت
 ابعدیہ - سے کسی کو بلا حصول عطا ہو۔
 آبش - (ذخیل) سرانی - ایک قسم کا کتان
 جسکو (قنب) کہتے ہیں اور جسکی چمیل
 سے ہی بنتے ہیں۔
 ابقر - قلمی شورا۔
 آبلق - معرب ہے فارسی (امک) کا

دورنگ خصوصاً سیاہ وسیید -

آبلوج - معرب فارسی (آبلوج) کا لقب
سفید مشکر -

آبلینیر - (یونانی) ایک سیاہ شے ہے جسکو
آبلینیس (دریا کے نیل سواحل پر پھینک دیتا
ہے جو مفید زراعت ہوتی ہے - یہ

معرب یونانی (پیلوس) ہے -

آبن بالذخیرہ - متبنی لڑکا -

آبن شاطر - آوارہ لڑکا -

آبنوس - (معرب یونانی امیناس) آبنوس

ایک سیاہ رنگ کا درخت

آبنیہ میریہ - سرکاری عمارت -

آبوالبرص - چھپکلی -

آبوالذہب - کھٹل -

آبوالترکب - انفلو انزا -

آبوالریاح - باد نما -

آبوالکبیر - ہینگ - حلتقت -

آبوالمضلع - نمک

آبوالنظارہ - عینک لگانے والا

آبوالنوم - تخم خشخاش

آبوالہول - مصر کا ایک مشہور سنگی بت

آبوزردو - (معرب) رومی کشتی کشتی کے

ادپر کی طرف مدھر سے لوگ کشتی میں سوار

ہوتے ہیں کشتی کی بالائی سطح جس پر

لوگ بیٹھتے ہیں -

آبوزاجر - کواہ - غراب -

آبوفرہ - دغف شاہ بلوط -

آبوقلمون - ایک قسم کا کثیر اجوز رنگازنگ

جھلک دیتا ہے - گرگٹ -

آبوقیر - باپ سردار - بزرگ - خدا کا نام -

یہ معرب یونانی (ابکریوس) ہے -

آبولیس - معرب یونانی (اپولس) اورم لٹہ -

سوزوں کا درد -

آببض - سفید (بض) جمع - مجازاً یونین

گورے لوگ -

آبیل - (ارامی) راہب

آبیلو - ایل - مرائفہ -

آباموچور - معرب اٹاک میجر - ایک اعلیٰ

خدمت کا نام ہے -

آباناسیا - (معرب یونانی انیسیا)

ایک دریا کا نام ہے -

آباجہ الرمی - قوب کی سیدہ

اتحاد الذمہ - مال یا جائداد کا محفوظ ہونا۔
اتحادی - ملک انگلستان کی ایک سیاسی
جماعت جو موجودہ طرز حکومت کو قائم
رکھنا چاہتی ہے۔ کنسر ویو پارٹی۔

اتحادیوں جمع

اتر تہ - تریخ نارنگی (چونکا اس کے چھلکے
پر چین دشکن ہوتے ہیں اسلئے یہ میوہ
اس نام سے موسوم ہوا۔

اتر تریخ - (مغرب فارسی تریخ) نارنگی

اتعاب - اجر - معاوضہ - محصول - کرایہ

فیس - (تعب) کی جمع

اتعاب فاحص - حساب کی فیس

یا اجرت -

اتفاق - معاہدہ -

اتفاقیہ - معاہدہ -

اتیکات - تعظیم تکریم - جن اخلاق سے

پیش آنا - آداب مجلس -

اتنو غرافی - (مغرب اتناگرافی) آثار قدیمہ

کا عجائب خانہ - نمایش گاہ - واضح ہو کہ

یہ معنی غلط ہیں - اس کے صحیح معنی

علم الاقوام کے ہیں -

اتون - تنور بھٹی - بقول بعض ارامی ہے
اور بقول بعض عبرانی عتوں سے مشتق
ہے جسکے معنی (تنور - بھٹی) کے ہیں -

اتونس - (مغرب انوس یونانی) ایک قسم کی
پھل -

اتون گلے - چونے کی بھٹی -

اتنا - زن - عورت - استری -

اتناث {
انمتعه { فزنجیر

اتناث المنزل - اسباب گھر کا فزنجیر

اتناث مخفوره متعجبرہ - زمین سے کھدے

ہوئے اور پتھر کے بنے ہوئے حیوانی یا

بنائی اجسام -

اثبات - شہادت -

اثبات انجیئر - شناسندہ خط کی گواہی -

اثبات بالکتابتہ - دستاویزی شہادت -

اتر می - دیکھ (اتناری) آثار قدیمہ کا عالم -

اتر میہ - قدیم چیزوں کا علم -

اتریت - وراثت -

اتیر - (مغرب یونانی اغیرا) ایک قسم کی روٹی

جو طبرستان میں کھائی جاتی ہے -

آئینہ - ایک لطیف سیال شے جو نور و حرارت کے ایصال و انتقال کا باعث ہے یہ
 عرب یونانی ہے وہ لطیف مادہ جو فضا
 آسمانی میں پھیلا ہوا ہے -
 آئینہ - (عرب آئینہ) ملک یونان کا دارا سلطنت
 آئینہ -
 آجاجیر (آجاجرو و آجاجیر) جمع ہے آجاج کی -
 بام خانہ
 آجاجہ - (عرب الامی) بام خانہ
 اجازہ - اجازت - رخصت -
 آجائینہ - (عرب یونانی انگلیاں) پیالہ
 (اجاجین) جمع
 اجباری - لازمی - اضطراری
 اجباری تعلیم - لازمی یا حکمی تعلیم - وہ
 تعلیم جو سرکاری حکم کے موافق رعایا کو
 دلانی جائے -
 اجتذاب ملاحظہ - مادہ کے اجزا کی
 کشش -
 اجتماع - معاشرت - سوسائٹی -
 اجتماعِ دولی - سلطنتوں کی کانفرنس
 یا اجلاس -

اجتماعی - معاشرتی - سوشیل -
 اجتہاد - محنت -
 اجزائے راست - کارروائی معامہ -
 اجزائے راست اور ترقیہ - انتظامی تدابیر -
 اجزائے استحقاق - احتیاطی تدابیر - ضمانت
 کی تدبیریں - ضمانت کی چارہ کاریاں -
 تدابیر حفظ ماقدم
 اجزائے است حکومت - سرکاری کام یا تدابیر -
 اجزائے است مجلسِ عسکر - فوجی کارروائیاں
 کورٹ مارشل کی کارروائیاں -
 اجزاء و الی و آیا - نامک کے پھیل انجام دینا -
 اجزائے است و قتیہ - چند روزہ تدابیر -
 ہنگامی تدابیر -
 اجرائی - تعمیل - اگر کیوٹو
 اجزہ - محصول - کرایہ - مزدوری
 اجزہ الایداع - امانت کا معاوضہ -
 اجزہ الیرید - ڈاک کا محصول - پوسٹیج
 اجزہ القارب بحر مئیہ - کشتی میں بار برداری
 اور حمل اسباب کی فیس
 اجزہ النقل - بار برداری کا خرچ
 اجزہ - محصول دینا -

اَجْرًا اَخَانَه - فروخت اور بیہ کی شاپ -

فابریسی -

اَجْرًا اَسْمُ مَرْكَبَةٍ - دو عناصر جن سے کوئی

جسم بنتا ہے -

اَجْرًا اَبْحَجِي - دو فروش - عطار -

دو بیچنے والا -

اَجْرًا اِي - عطار - دو فروش -

اَجْرًا اَيْمِيَّة - دو فروش کی دکان -

اَجْمَاد - جانا -

اَجْنَبِي - غیر ملکی - پردیسی - (اجانب) جمع

اَجْوَدَان - (سرب ترکی) عرض کی - ریڈی

کیپ -

اَجْوَق - (سرب فارسی) جوع اگر دن کی

موٹائی -

اَجْيَالٌ مُتَوَسِّطَةٌ - دیکھو (قرون متوسط)

اَجْيِر - مزدور -

اَحَا فِير - زمین سے نکلا ہوا اور پھرایا ہوا

جانور یا درخت فاسلز -

اِحَا لَه الدَّعْوَى - نئی تحقیقات

اِحْتِجَاب - اخبار پر چھ کا بند ہونا -

اِحْتِجَاج - دکالت - حمایت - اسباب -

اِحْرَاضِي اور وجود مخالفت پیش کرنا -

اِحْتِسَاب - قانع رہنا - خیال کرنا -

اِحْتِقَال - رچانا - سنانا - اس کے رسم

جلسہ کا منعقد ہونا - جمع -

اِحْتِقَالِ السَّنَوِي - سالانہ جلسہ

اِحْتِكَار - اجارہ یا ٹھیکہ لینا

اِحْتِكَاك - رگڑنا - رگڑ

اِحْتِلَال - ملک پر کسی قوم کا قبضہ کر لینا

اِحْتِيَاطِي - محفوظ

اِحْتِيَان - حصول مال بذریعہ فریب و فغا -

اِحْدَاثُ الشَّرْوَةِ - دولت کی پیداوار -

اِحْدَاثُ الشَّعَائِنِ - عیسائیوں کی ایک عید -

اِحْدِيَّة - جوئے

اِحْرَار - جمع (حر) آزاد خیال - لیبرل

اِحْرَاز - حاصل کرنا - پناہ دینا - خبر گیری کرنا -

اِحْسَر - قصیر النظر - شارٹ سائٹڈ

اِحْصَار - مردم شماری - شمار کرنا - گننا -

اِحْصَاءُ النُّفُوسِ - مردم شماری

اِخْبَارَاتٌ تَلْبِغُ اِرْقِيَّةً - تاربتی کی خبریں -

اِخْبَارٌ دَاخِلِيَّةٌ - ملکی خبریں

اِخْبَارٌ كَاذِبٌ - جھوٹی ٹخبر دینا

اِخْتِیَاطُ - (معرب یونانی آکٹوپوسس)
 ایک دریائی چھوٹا جانور جس کے آٹھ ہاتھ پیر ہوتے ہیں۔
 اِخْتِصَاصُ قَاضِیِ الْاِحْکَالِ - گنگ مجسٹریٹ کا اقتدار۔
 اِخْتِصَاصِی - کسی خاص فن کا ماہر خاص کام کا
 اِخْتِلاَسُ - خیانت۔ مالک کے مال میں تصرف کرنا۔
 اِخْتِلاَلُ کَلْبِی - بے باوشاہی۔ برائے نظامی۔
 اِخْتِیَارُ ضَمَنِی - اعتباری انتخاب۔
 اِخْتِصَا - خاص فن میں ماہر ہونا۔
 اِخْتِصَاثِی - کسی خاص فن میں ماہر
 اِخْتِخَارُ الْجَانِی - مجرم کو پناہ دینا۔
 اِخْتِشَانُ - جمع (خَن) جو فارسی خانہ کا معرب ہے۔ گاڑی کا کمپونڈ خانہ۔
 جانوروں مثل کبوتروں اور مرغ وغیرہ کے لیجانے کے لئے ریل گاڑی میں علیحدہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
 اِخْوَرُ - اصطلح۔
 اِخْوِنُ - (معرب یونانی اخیان) گاوزبان
 اِدَاَرَةُ - انتظام۔ اہتمام۔ سررشتہ

ذمہ۔ محکمہ۔
 اِدَاَرَةُ الْبَصَائِعِ - سامان سررشتہ۔
 اِدَاَرَةُ الْبُیُوتِ - ڈاک خانہ۔ پوسٹ آفس
 اِدَاَرَةُ اَلْبُیْرُتِیْنِ - بے اینڈکیش آفس۔
 اِدَاَرَةُ الْعَصَاةِ - باغیوں کی حکومت۔
 اِدَاَرَةُ سِکَّةِ التَّجْدِیدِ - انتظام ریلوے کا دفتر۔
 اِدَاَرَةُ اُمُورِ الْجَزَائْرِیَّةِ - اختیار سماعت صیفہ فوجداری۔
 اِدَاَرَةُ اُمُورِ الْعَسْکَرِیَّةِ - فوجی تنظیم
 اِدَاَرَةُ تِجَارِی - سررشتہ تجارت
 اِدَاَرَةُ زَرْعِی - سررشتہ زراعت۔
 اِدَاَرَةُ اِکْلِیجِرل ڈپارٹمنٹ -
 اِدَاَرَةُ سِیَاسِیَّةِ - ملکی یا سلطنت کے امور کے متعلق تدبیر یا انتظام
 اِدَاَرَةُ صِنَاعِی - سررشتہ صنعت و حرفت
 اِدَاَرَةُ عَمُومِیَّةِ - عام انتظام
 اِدَاَرَةُ مَالِیَّةِ - سررشتہ مال کا انتظام
 اِنِیَاشِ اِوْمِنسٹریشن زیر سرکاری یا
 مالگزاری کے متعلق اہتمام و انتظام

ادارة مجلس مجنایات - انتظام
عدالت فوجداری -

ادارة مذنیة - دیوانی انتظام - ملکی
نظم و نسق -

ادارة مفرده - وہ انتظام جو علیحدہ
اور الگ ہو -

ادارة ملکیت - سیول او منسٹریشن -

ادارة مننظمة - انتظام بموجب آئین و
قوانین -

ادب خانہ - پایخانہ

ادبی - اخلاقی - لٹری -

ادخان - لفظی و ہوان نکالنا - (جدید عربی)

حقہ یا سگریٹ پینا

ادراج - درج کرنا - خبر یا مصنوں کا اخبار
میں شائع کرنا -

ادرنہ - اڈریا نوبل - جو قسطنطنیہ کو لیتے
سے پہلے یورپی ترک کا پائے تخت رہا -

ادرس - سپاس نامہ ادرسین

ادگہ - امر بدیہی وہ حقائق جن کو بیچ مان لیا

گیا ہے اور جن کے ثبوت کی ضرورت

نہیں ہے اولیات

ادگہ محسوسہ - مادی شہادتین -

ادوات - آلات -

ادوات اللعب - کھلونے

ادوات النقل - بار برداری کے آلات -

ادوارو - عرب عیسائی نام (اڈورد) کا -

اقرار - رویوں کا ہینہ جو مارج سے

مطابق ہے -

اداعۃ -

تذکرہ عمومیہ - سرکار گشتی - جریدہ انعامیہ -

ادوری - آذربائیجان کا رہنے والا -

ادرجیل - شکاری -

ارادہ سینئہ - فرمان سلطانی منشور - تویق -

اراضی سلطانیہ - شاہی جائداد یا زمین -

اراعنی میریہ - سرکاری جائداد یا زمین -

ازباب البضائع - تاجران

ازباب السفارة - ایچی سفر -

ازباب سیاستہ - دبیرین ملک

ازباب الکارات - دستکاراں - کاریگراں -

ازباب المناصب - حکام سرکاری

ازباج مستحصکہ - اخیر فوائد

ازباج مقسمہ - دوسری حصہ جو کسی

تجارت یا روزگار میں فی صدی کے حساب سے منافہ یا سود کو بانٹ کر ہر ایک شریک کو ملے۔

آرتبان - جمینیکا - پھلی - گل بابونہ

آرتباط کیمیائی - وہ کشش جو اجزائے صغیر (جو اہر فرد) میں واقع ہو

آرتباجاز آرتعد - گرج - کرک -

آرتداد - واپس کرنا - لوٹا دینا سدی اکشن -

آرتتراق - نوکری - ملازمت -

آرتشام - بچے کو عیسائی بنانا -

آرتفاع الأتعار - قیمت کا بڑھ جانا -

آرتفاع التظہیر - سب سے بڑی بولی -

آرتفاع الستعر - بہاؤ کا بڑھنا -

آرتلقاء - ڈارون کا وہ مسئلہ جس میں ہر ایک نوع کی ترقی تدریجاً لازم کی گئی ہے

مسئلہ کون -

آرتکاب جنائیہ - جرم کرنا -

آرتکامطیقی حساب - علم حساب ارتھمٹک

آرتہ - پلٹن -

آرتہ سواری - اسکو اڈرن

آرتوڈکس - آرتھوڈکس - وہ عیسائی فرقہ

جو خالص بائبل کی تعلیم کا معتقد ہو۔

آرتجا - تاریخ ابتدا مقرر کرنا - التوا -

آرتجاف - مشوش خبر دینا -

آرتجوان - (معرب ہے ارغوان کا جو ایک سرخ رنگ پھول ہے) سرخ جامہ

سرخ کپڑا - سرخ - لال -

آرتجوانت جنرل - ایک فوجی افسر

آرتجینٹ جنرل -

آرتجوجہ - جھولا -

آرتجینہ - قلعہ دار - امیر قلعہ - منہان فرما -

قلعہ دار - بزرگ -

آرتجیل - مجمع الجزائر - جزیروں کا مجموعہ -

آرتخنخ - رخنہ - نہر خود -

آرتخول - دیکھو (ارخون)

ارخون - سوب یونانی - (ارخون) مقدم وہ -

گاؤں کا چودھری - گاؤں کا پیشوا

آرتوب - قدیم قطبی سے بواسطہ یونانی ارتبی سے معرب ہوا - ملک مہر کا ایک پیمانہ جو ۲۲ صاع وزن کا ہے اور کھلی چیزوں کے ناپنے میں بڑا جاتا ہے -

آرتوخل - مرد نازک اندام - پرگوخت - شریف بزرگ

تجارت یا روزگار میں فی صدی کے حساب سے منافہ یا سود کو بانٹ کر ہر ایک شریک کو ملے۔

آرتبان - جمینیکا - پھلی - گل بابونہ

آرتباط کیمیائی - وہ کشش جو اجزائے صغیر (جو اہر فرد) میں واقع ہو

آرتباجاز آرتعد - گرج - کرک -

آرتداد - واپس کرنا - لوٹا دینا سدی اکشن -

آرتتراق - نوکری - ملازمت -

آرتشام - بچے کو عیسائی بنانا -

آرتفاع الأتعار - قیمت کا بڑھ جانا -

آرتفاع التظہیر - سب سے بڑی بولی -

آرتفاع الستعر - بہاؤ کا بڑھنا -

آرتلقاء - ڈارون کا وہ مسئلہ جس میں ہر ایک نوع کی ترقی تدریجاً لازم کی گئی ہے

مسئلہ کون -

آرتکاب جنائیہ - جرم کرنا -

آرتکامطیقی حساب - علم حساب ارتھمٹک

آرتہ - پلٹن -

آرتہ سواری - اسکو اڈرن

آرتوڈکس - آرتھوڈکس - وہ عیسائی فرقہ

بھیجی جائے۔ وفد شے مسلہ نم۔
 ارض مقدسہ اطیہہ - (موربارس ٹناک رسی)
 حکومت کی وہ طرز جو امر کے ذریعے
 کیجاتی ہے۔

ارض سنال - توپ خانہ۔ مخزن۔ سلاح خانہ
 ارض دوک - (مغرب اطالیائی ارش ڈیوک
 مفرس آریج ڈیوک) امیر کبیر۔ اعظم الامرا
 امیر الامرا۔ شاہی خاندان کا شاہزادہ
 ارض قابلہ المخراتہ - مزدوعہ زمین قابل
 کاشت الاضی۔

ارض مرشمہ - آبی زمین بڑی
 ارض صیہہ - وہ محصول جو مدت سعینہ میں ایشیا
 کے وصول نہ کرنے سے عاید ہوتا ہے بندرگاہ
 میں جہاز کے زیادہ ٹھہرانے کا کرایہ۔ فیج
 ارض صیہہ جمر وک - بندرگاہ پر جہاز کے زیادہ
 ٹھہرانے کا تاوان۔

ارض طبون - دیکھو (اطبون)
 ارض عالی - ایک جانور جو نیل گا۔ سے کی
 ارض قالی - اسی شکل و صورت کا ہوتا ہے
 اور اس کے میر پر دلال سینک
 ہوتے ہیں۔

ارض وک - راج ہنس۔ نماز۔ بڑی بطن۔
 ارض مونا - مغرب یونانی اریٹون بواسطہ
 سریانی ابادان کشی۔

ارض وک - بیت المقدس کا دریا جو کبیرہ
 نکلیں (بکھڑیلین) میں سے ہو کر بحیرہ لوط میں
 گرتا ہے عیسائی لوگ اسے مقدس مانتے ہیں۔
 (۲) دریا سے جو رڈن کے پانی رکھنے کی بوتل

ارض وناٹس - محافظ
 ارض وک - (مغرب ترکی) لشکر کیمپ۔
 ارض وواز - (مغرب فرانسیسی اردواز) سلیٹ
 کی تختی۔

ارض و می سالدات - قوم سلجوق کی چھاؤنی۔
 ارض وکول - پڑا قطار
 ارض وراف - جلد ہی کرنا۔
 ارض ورتہ - لوہے کی سلاح

ارض ورن - ایک قسم کا پہاڑی بادام کا درخت
 جو بڑا تلخ ہوتا ہے دو اینوں میں کام
 آتا ہے اسکی لکڑی کا عصا بناتے ہیں
 جیسے العضا الارزنیہ

ارض و ساء - جہاز یا کشی کا منگر ڈالنا۔
 ارض و سالیہ - یکیشن یا جماعت جو کسی کام کے لئے

اَرُوَام - جمع (ردمی) اروم کے رہنے والے۔

باشندۂ روم۔

اَرِيَا - شیر۔ اسد۔ باگھ (اریان) جمع۔

اَرِيَا ف - جمع (ریف) قریہ۔ ہادیہ۔

سہ سہر کھیت۔ سیر حاصل مزعد۔ سہ سہر

زمین۔ شاداب زمین۔

اَرِيَان - جمع (اریا) شیر۔ اسد۔ باگھ

اَرِيَس - امیر

راز برتو۔ (معرب اسپرٹ) جوہر شراب

جوہر روح۔

اَرِيْكَان - (معرب فارسی) گل سرنج

اَرِيْج - بڑا دہ۔ سایہ دار۔ راہ

راز و راز۔ حقارت۔ تحقیر۔

اَرِيْ دَر خْت - (معرب آزاد درخت)

آسمانی رنگ۔

اَرِيْمَه - آزمائش کا وقت۔ جو کھوں کا وقت

نازک وقت۔

اَرِيْمَه تِجَارِيَه - تجارتی نازک وقت

اَرِيْمَه عُمُومِيَه - ضرورت عامہ

رازمیر۔ شہر سمرنا

رازمیشل۔ چھنی۔ برا سوراخ کرنے کا

اَرِيْغُول - بانسلی۔ بانسری۔

اَرِيْغَالِي - دیکھو (ارغالی)

اَرِيْغ - بے وقوف۔ احمق

اَرِيْغْتَا - (معرب یونانی ارگٹان) ارغنون

جو ایک مشہور باجاریے۔

اَرِيْگ - گنبد۔ محراب

اَرِيْكَان حَرْب - فوجی اسٹاٹ

اَرِيْكَان حَرْبِيَه - فوجی اسٹاٹ

اَرِيْكَان رِکِيْنَه - صحیح اصول

اَرِيْكَوْن - حاکم۔ امیر۔ کانوں کا پیٹل۔

اَرِيْكَِيْلَه - ناچیلہ۔ حقہ

اَرِيْمَلَه السُّلْطَان - بادشاہ مرحوم

کی بیگم۔

اَرِيْمِيْد - اینٹ۔ خشت۔

اَرِيْمِي سِلَاحِک - ہتھیار رکھ دو۔

اَرِيْناوَد - صوبہ البانیہ کے باشندے۔

اَرِيْناوَط - صوبہ البانیہ کے باشندے۔

اَرِيْبَنَک - نوز مسطہ

اَرِيْندَج - جوتے کی سیاہی۔ جوتے

کی پالش۔

اَرِيْنِيْک - دیکھو (اورنک)

از پیشلی - راہپی - (آزاسیل) جمع

آز نکان - گیرو - پیلی مٹی -

آزون - ایک لطیف ہوا

آز ہران - سورج اور چاند -

آز نیب - (مغرب) جنوبی ہوا -

آساس - محافظ خانہ - بنیاد - اصل مرکز

فوج کا

آساطریر الجاہلیہ - علم الاضنام - میتھالوجی

اسباب الایباختہ - بے جرمی کے حالات -

اسباب مخففتہ جرمیہ - وہ حالات جن سے

تخفیف جرم ہو -

استبان - اسپین کے باشندے

استبالیہ - دو خانہ - دارالشفاء -

استبالیہ میدان - فیلڈ اسپتال

جنگ کا غفا خانہ -

استپانیم - ہسپانیہ اسپین

استبانول - اسپین کے باشندے -

استمار - گنڈا (چار عدد)

استمانہ - ملاحظہ ہو لفظ (آستانہ)

استمید کیو - بادشاہ یا حاکم کی خود مختاری

خود رانی شخصیت -

استبدال الدین - تجدید قرص

استجواب - بند سوالات -

استجواب الاخصام - بند سوالات

استجواب الشہود - سوالات جرح -

استحقاق وفا فوری - فوری تعمیل

استحکام - مورچہ بندی کرنا -

استحکام امامیہ - تفصیل کے باہر کی روک تھام -

استحمام - غسل کرنا نہانا -

استحزام - کسی چیز کو کسی کام میں لانا -

استرداد - دعویٰ کرنا - استثناء کرنا -

استسلام - لینا - وصول پانا

استعداد - طیاری - جنگی سامان سے

طیار ہونا -

استعراض - جائزہ لینا

استغلام رسمی - سرکاری مطالبہ

استعمار - نو آباد کرنا

استفقالہ - استفادینا

استقلال - خود مختار ہونا -

استقلال مدنی - کسی ریاست کے

رہنے والوں کا اپنے حقوق پر بلا

داخلت متصرف رہنا -

اِسْتِقْلَالٌ مُّخْتَصِرٌ - محدود الاقتدار سلطنت

اِسْتِقْلَالٌ مُّوقَّتٌ - ہنگامی سلطنت

اِسْتِقْلَالِیَّةٌ - بادشاہت -

اِسْتِکْشَافٌ - فوج کشی یا غنیمت کے حال کو دریافت کرنے کے لئے فوج کا ابتدائی

ملاحظہ

اِسْتِیْلَامٌ - لینا - وصول پانا -

اِسْتِیْلَافَاتٌ - متوجہ کرنا -

اِسْتِمَارَةٌ - (ایطالیائی) آفیشین فارم

کا نذات احکام -

اِسْتِنَارَةُ الْفِکْرِ - روشن خیالی -

اِسْتِنَاجٌ - کسی امر سے کوئی نتیجہ نکالنا -

اِسْتِنَاطِقٌ - استفسار - باز پرس -

جواب دعویٰ - کورٹ آف انگری

اِسْتِنَاطِقُ الشُّهُودِ - سوالات جرح -

اِسْتَوَکْهَلِمٌ - شہد ہٹاک ہوم

اِسْتِهْطَاکٌ - قرض کا وصول نہ ہونا -

اِسْتِیْنَافٌ - مرقعہ لیل

اِسْتِیْنَافٌ اَصْلِیٌّ - عام یا مقررہ مرقعہ

معمولی اپیل -

اِسْتِیْنَافٌ جِنَائِیَّةٌ - مرقعہ جہادری -

اِسْتِیْنَافٌ مَدَنِیٌّ - مرقعہ دیوانی -

اِسْتِعَارَةٌ نَائِلَةٌ - کم ہونے والی قیمتیں

اِسْتِیْدَاعُ الْعَفْشِ - گاڑی میں اسباب

بھرنایا رکھنا - امانت چھوڑ دینا -

اِسْرُوبٌ حَسْبٌ - سینہ

اِسْطِیْرَیَا - آسٹریا - یورپ کا ایک ملک

اِسْطِیْرِلِیَا - ملک آسٹریلیا

اِسْطُولٌ - جنگی جہازوں کا بیڑہ - جمع اساطیل

اِسْطُولَةٌ - پھولدار موٹا کپڑا

اِسْتَفْتِیْحَةٌ - اسپنج کا معرب -

اِسْفِلْتُ - تارکول -

اِسْقَاطٌ - کمی گھٹاؤ - الونس کسین - مٹی کا آٹا -

اِسْقُفٌ - شب - جمع اساقفہ -

اِحْکَافِیٌّ - موچی جو مٹی کا ٹھٹھنے والا -

اِحْکَلَةٌ - بندرگاہ جمع اساکل

اِحْکِنِجِیٌّ - درج دوم

اِحْمَنْتٌ - پاسٹر

اِحْمِیٌّ - برلے نام -

اِحْکَلَةٌ - تپائی - موڈھا -

اِحْکِنَاسٌ - اگزی میسن

اِحْکُوْتِیَا - اسکاٹ لینڈ

اسٹوچ - عربی میں ملک سویڈن کا نام ہے۔

اسٹہم غاویہ - عام حصص۔

آسیا - ایشیا - شرقی بڑا عظم

آسیا الصغریٰ - ایشیا کے کوچک

آسیا الوسطیٰ - سنٹرل ایشیا

اسیر - جنگی قیدی۔

اشارات - جمع اشارہ (طویل لفظوں کا

مختصر کرنا جیسے علیگڑھ کا (علیگ)

اشارہ - سگنل

اشارہ جمی - سگنل

اشاب سگنل - اوباش لوگوں کا عمل غپاڑ

اشباح المال - مویشی جو نظر ڈالنے

سے معلوم ہو جائیں۔

اشتراک - امداد باہمی - کوآپریشن

اخبار کتاب موقت الشیوخ کی خریداری

بذریعہ اندراج نام چندہ۔

اشتراکی - محنت پیشہ لوگوں کی بہتری

چاہنے والا - (اشتراکیوں) جمع

اشتراکیہ - شوشل ازم - انقسام جلداد

میں حال سے زیادہ مساوات پیدا

کرنے کی تجویز۔

اشتراکی - شوشل - اجتماعی

اشتریب - قنب - بھنگا

اشتوم - دہن - منہ - بات کرنا۔

اشتیام - مہر کرنے والا - سرواگشی

وہ الود شخص جو کشتی میں ہو۔

اشد - زیادہ موٹا۔

اشراقہ - آزاد لونڈی جو آزاد ہونے سے

بہد کسی کے نکاح میں آئی ہو

اشعاع - حرارت (گرمی) کا نکھنا

اشغال - کام - کار - امور

اشغال شاقہ - مشقت تعزیری

اشغال عمومیہ - امور تعمیرات عامہ۔

یہاں درکس۔

اشغال پیریہ - سرکاری کام

اشغال نافعہ - کارہائے رفاه عام۔

اشقی - ستالی - ورفش۔

اشقیل - جنگلی پیاز

اشکین - گھوڑے کی ایک رفتار

اشل - رسن - رستی

اشلا - فوج لشکر

اشمیت - قوم بنی اسرائیل کی ایک

طبری جماعت

اشتمسرازہ - نفرت - مخالفت طبعی -

اشتمسان - ایک قسم کی گھاس جس سے کپڑے دھوتے ہیں -

اشندانہ - ایک بزن جس میں ہاتھ دھونے کا سامان رکھا جاتا ہے -

اشمہا افلاس - دیوال کا اظہار

اشغیار الالعب - تماشے -

اشصابہ - ہیمنہ کا کیس - مقدمہ - نالش معاملہ -

اشصابۃ البخر - سمندر کے ڈکیتی -

اشصابۃ الطاعون - ہیمنہ - طاعون وغیرہ کا کیس

اصطاب - جمع (اصطاب) طویلے -

اصحاب الانقلاب - ٹڈیل پائی -

اصحاب الحریۃ - وہ لوگ جو امور ملکی یا مذہبی میں آزادانہ برتاؤ یا کارروائی میں مدد

دیں -

اصحاب الرواتب - وظیفہ یاب

اشخاص -

اصحاح - باب (خصوصاً بائبل کا)

اصدار - اخبار یا رسالہ نکالنا - حکم جاری کرنا -

اصہ رائہ - معلم کا بچوں کو سمجھانی لیکر چھٹی دینا سال کے بعد یا ہفتہ میں -

اصطاب - اصطل - طویلہ (اصطاب) جمع

اصطیۃ - پرانی مشک -

اصطلاحات رفوزیہ - بعض اشارے جو

بات چیت کرنے میں مستعمل ہوتے ہیں -

اصطلاحات قضائیہ - عدالتی محاورات

اصول المال - سرمایہ - پونجی -

اصلی - قدیم یا شندہ (اصلیوں) جمع

اصولیون - جمع اصلی -

اصناف - اسباب - اجناس - اشیاء خیرین

اصناف راجحہ - وہ اجناس جن کی مانگ ہو

اصناف کا سیدہ - کھوٹی پونجی وہ اجناس

جن کی مانگ نہ ہو

اصول شیعہ اک عامہ - وہ تجویز جس سے

مال و جائداد و رعایا پر برابر طور پر تقسیم ہو جائے -

اصول اللغۃ - گرامر - قواعد

اصول حربیہ - جنگی قواعد -

اصول محاکمات جناریہ - ضابطہ توجہ داری

اصول محاکمات حقوقیہ - ضابطہ دیوانی

<p>اَصُولُ مَضْبُوطٍ - مقرر بنیادیں اَصُولُ عَسْكَرِيَّةٍ - فوجی ضابطہ - ملٹری کوڈ اَصِيلٌ - درخت شمالی جینک بانی نہ نکلی ہو۔ اَضْرَابٌ - روگردانی - قلی لوگوں کا کام کو ترک کرنا۔ ہڑتال اَضْرَابٌ - بدامنی - بد نظمی اَضْطِهَادٌ - مذہبی تکلیف تعصب اَضْدَاعٌ مَتَنَاظِرَةٌ - مثلت کے مقابل کے خطوط اِضْمَانَةٌ - جھٹیوں کا پلندہ - کتابوں کا پارسل اِطَارٌ - چوکھٹا فریم۔ اِطَارِيَا { ایک ملک جو یورپ کے جنوب میں اطالیہ واقع ہے اٹلی۔ اَطَابٌ - پسندیدہ چیزیں۔ اَطْرَافُ الْبَدَنِ - بدن کے اعضا۔ اَطْرَافُ النَّاسِ - لوگوں کا عام یا ادنیٰ طبقة عوام الناس اَطْرَاقٌ - متفکر ہونا۔ فکر میں پڑنا۔ اَطْرَاقٌ - سردار فوج۔ اَطْرَاقٌ - اسم۔ بہرا اَطْرَاقٌ - ایک پرندہ اَطْرَاقِيَّةٌ - سویاں ایک قسم کا کھانا</p>	<p>اَطْلَاسٌ - اٹلس - نقشوں کا مجموعہ اطلاق السلاح - بندوق سے شکار کرنا۔ اطلاق المدفع والبندق - توپ یا بندوق کا چھوڑنا۔ اطلاق النار - بندوق یا رافل وغیرہ کا چھوڑنا۔ اطلا تیک - بحر اوقیانوس اَطْلَاسٌ - نقشوں کا مجموعہ۔ اٹلس اَطْنَةٌ - ایشیے کے کوچک کا ایک شہر اطیان - مزروع - زمین کاشت اعتدا - حملہ - مار پیٹ - چڑھائی - پیشدستی۔ اعتدائی - حملہ آور - جنگ جو اعراض - جائزہ لینا اعتصاب - ایسا کرنا - اتحاد کرنا - سٹرک کرنا اعتقال - لکنت اعتقال ریح سادات - آنتوں میں ریح کا رک جانا۔ اعمال والمصرف - مقدار زر جو کوئی شخص بنک سے وصول کر سکتا ہے۔ اعتیادی - معمولی - رسمی - عادی - مقررہ۔ اعدام - نرے موت یا قتل - پھانسی دینا۔</p>
---	---

اَعْرَاضٌ - حادثات -

اَعْتِشَارِيٌّ مُسْتَمْسَلٌ - کسرتوالی -

اَعْضَاءٌ - کسی کمیٹی یا مجلس کے شرکار - ارکان
عضو کی جمع جو ممبر کا ترجمہ ہے -

اَعْضَاءُ اَتْرَیَّةٍ - اصول ارتقا کے بموجب

انسان کے وہ اعضا جو بالفعل کچھ مفید نہیں

بلکہ یہ قدیم ساخت کا ہتھیار ہیں - مثلاً کان کا

بیرونی حصہ -

اَعْضَاءُ اَلْمَجْلِسِ - کسی انجمن کے ارکان -

اِعْفَا - برات -

اِعْفَا - بڑی - آزاد - بہتر -

اِعْلَامٌ - نوٹس

اِعْلَامٌ مُسْتَحْوَبٌ عَلَیْہِ - کسی فعل کی اطلاع

اِعْلَانُ اَلْمَرْکُزِ - رہائی کا اظہار

اِعْلَانُ اَلشَّرْکَةِ - اشتہار کمپنی - پریسنگ

اِعْمَالٌ مُتَخَفِظِیَّةٌ - حفاظتی امور -

اِعْمَالٌ حَرَبِیَّةٌ - فوجی خدمت -

اِعْمَالٌ - کارنامے -

اَعْنِیَانٌ - روسا - امر - شرفا - لارڈز -

اَعْرَاقٌ - یونانی لوگ -

اَعْرَاضٌ - اسباب - فرنیچر -

اِعْرَاضٌ - جانب داری - طرفداری - گذر

اِعْرَاقٌ - یونانی لوگ - باشندگان ملکستان

(اَعْرَاقٌ) جمع

اِعْرَاقِیٌّ - باشندہ یونان - یونان کا رہنے والا

(اَعْرَاقِیٌّ) جمع

اَعْتِیَسٌ - انگریزی آٹھواں مہینہ - اگست

اَعْتِیَسٌ - اگست کا مہینہ - انگریزی مہینوں

مہینہ -

اِعْتِلَالٌ - نکر - بے وفائی -

اِعْتِلَیَّةٌ - کثرت رائے - مجاہدتی

اِعْتِمَادٌ - بے ہوشی - اعتیال - فرمورگی -

اِعْتِمَادٌ رَشْمِیَّةٌ - سرکاری اطلاع -

اِعْتِمَادٌ - رہائی

اِعْتِمَادٌ بِالْمَعْنِیَّةِ - ضمانت پرہا کرنا

اِعْتِمَادٌ - پرندہ بیخود ہونے سے پہلے نکالنا

اِعْتِمَادٌ - یورپ - فرنگستان

اِقْرَبِحِیٌّ - یورپ کا باشندہ - فرنگستانی

اِقْرِیْبِیٌّ - پشم کا موٹا اور گاڑھا کپڑا - اسٹیشن

وہ جگہ جہاں لوگ ریل پر سوار ہونے کیلئے

کھڑے ہوتے ہیں -

اِقْرِیْبِیٌّ - ایک قسم کا اونی کپڑا جو بے چلاؤ میں

وسطی ہوتا ہے

افریقینیا - افریقہ
افریقہ

افریقہ - افریقہ کارہنے والا

افسون - جادو - منتر - کلمات سحر

افشاہ آستہ - راز فاش کرنا -

افشین - روپیوں کی نماز کا ایک خاص

حصہ ہے اور پہنی نماز -

اقبال - تو این - احکام -

اقتاد - گم کر دینا - کھو دینا

اقتن مصنوعی - وہ ساہتہ دائرہ جو اقی کے

ظاہر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے -

اقتار ایشیائیہ - انقلاب سلطنت کی ترقی

اقتار العمومیہ - پبلکس کی رائیں

اقتار صالحہ - صحیح جذبات - داعی جوش

اقتار فاسدہ - ناجائز جوش و جذبات

اقتلاش - دیوالہ - ناداری

اقتلاش کاؤب - فرضی دیوالہ جمہورٹی ناداری

اقتدی حکمہ تعظیم - جناب - صاحب

اقتورقہ - ٹیکہ - اجارہ

اقتوکات، اقتوکاتوہ، اکتوکٹ - اڈوکت

اقتوکات عمومی - اڈوکت جنرل -

اقتوکاتیم - اقتوکات کا دفتر

اقتوکن - ایتون - ایتیم - لبس المختلش -

اقتالہ - معاہدہ کا فسخ کرنا - معاف کرنا - نوکری

سے برخاست کر دینا - برطرفی - موقوفی -

اقتالہ البیع - خریداری کا فسخ ہو جانا -

اقتاصی الارض - دنیا کے کنارے

اقتالیم بلقعیہ - ولایات غیر آباد

اقتالیم شمالیہ و غربیہ - سوچات غربی و شمالی

اقتانیم - جمع (اقتوم) ملاحظہ ہو لفظ (اقتوم)

اقتار - اقتاس - خواری - دولت

اقترا باؤین - (مغرب گرافا بدیان یونانی)

کتاب واسطہ سریانی - علم ترکیب الادویہ -

لغات الادویہ -

اقتراح - تجویز - ایجاد - تحریک - عودت

درخواست -

اقتراض - قرض لینا

اقتراع - جبراً توجہ میں بھرتی ہونا

اقتراع - محمد انلادی

اقتراف - مہمانا

اقتران - وسیاروں کا میل

اِقْتِصَاد - میانہ روی - کفایت شعاری
سیاست مدن -

اِقْتِصَادِ السِّيَاسِي - سیاست مدن -
پولٹیکل اکاؤنمی - ان چیزوں کے پیدا کرنے
تقسیم اور خرچ ہونے کے قاعدوں کا علم
جن کی انسان کو ضرورت ہے -

اِقْتِصَادُ الْمَنْزِل - تدبیر منزل - انتظام
خاناہ داری -

اِقْتِصَادِي - کفایت شعاری کے متعلق
پولٹیکل اکاؤنمی -

اِقْتِصَادِيٌّ - اسم فاعل - علم الاقتصاؤ کا
ماہر - اکائنت -

اِقْتِصَادِيَّة - مونث اقتصاؤی
اقتصاؤص - بدالینا

اِقْتِصَان - گیندا -

اِقْرَأُ الشِّعْر - نظم کی اقسام - اصناف سخن

اِقْرَأُ بَادِيْن - قرابادین علم ترکیب اووید

اِقْرَار - منظوم کرنا - پاس کرنا

اِقْرَارُ بِالْمِيمِین - بیان حلفی

اِقْرَاع - قرعہ ڈالنا

اِقْرَبِيْس - (معرب یونانی اگر دس) ایک

قسم کی مچھلی جو تقریباً ٹیڑھی کے برابر ہوتی ہے
اِقْسَمَا - (معرب یونانی اکسملی) یہ دو الفاظ

سے مرکب ہے (اکسو - کٹنا - اور سیلی شہد)

خشک انگوروں کا بھگویا ہوا پانی - تقیح نیب

اِقْطَار - جمع (قطر) شہر - بلدہ

اِقْطَارُ الشَّرْقِيَّة - ممالک مشرقی

اِقْفَار - بعض معدنیات (مثل نفت) کو

کہتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں -

اِقْفَاص - جمع (قفص) پنجرہ - شامیانہ

اِقْفَالٌ - قفل ڈالنا - اصطلاحاً کسی

کارخانہ مدرسہ وغیرہ کو بند کرنا یا برخواست

اِقْفَاقُ الرَّاحَةِ - آرام و آسائش میں

خلل اندازی - امر باعث تکلیف

اِقْلِيد - (معرب کلیدہ) بواسطہ نبطی (کلید

مفتاح - کنجی - چابی -

اِقْتُوْم - عیسائیوں کی تثلیث، باپ،

بیٹا، روح القدس میں سے ایک فرد (اقتوم)

جمع -

اِقْم - مصر کا ایک وزن ہے جو چار سو درم

کے برابر ہوتا ہے یہ وزن بلاد عرب میں

مستعمل الوقت ہے - ساڑھے چھ تولہ وزن

ہوتا ہے۔

آکازیمیتھ (مغرب یونانی اکاڈمی)

آکازیمیتا (۱) تعلیم گاہ۔ انسٹیٹوشن

(۲) ابتدائی خانگی مدرسہ (۳) علوم فنون

کی درسگاہ۔ (۴) مجلس علماء و فضلا۔ واضح

ہو کہ اس میں اکاڈمی اس باغ کو کہتے تھے

جس میں افلاطون اپنے شاگردوں کو فلسفہ

کی تعلیم دیا کرتا تھا۔

اکار۔ (مغرب ارامی) کسان لاگرہ جمع

اکاف۔ (مغرب ارامی) خوگیر

اکالی۔ کاسک۔ جلانے والا تیزاب

اکتاب۔ سپاہیوں میں نام لکھوانا اخبار

کا خریدار بننا۔ کسی انسٹیٹوشن میں شریک ہونا

چندہ کی فہرست کھولنا۔ چندہ دینا۔ چندہ۔

اکتزار۔ کرایہ کو لینا

اکتشاف۔ کوئی چیز دریافت کرنا۔ تحقیق

اکتشافات۔ جمع (اکتشاف) معلومات

تحقیقات۔

اکتشافات جدیدہ۔ معلومات جدیدہ۔

تحقیقات جدیدہ۔

اکتوبر۔ اکتوبر۔ انگریزی دسویں مہینہ

اکتبریتہ۔ مجاری۔ غلبہ آرا۔ کثرت آرا۔

اکسپرس۔ (مغرب فرانسیسی) کپرس (

ڈاک گاڑی۔ میل ٹرین

اکسپرس۔ مستعمل۔ سب سے تیز گاڑی

اکسپریس۔ (مغرب) اکسپرس

اکسپوزیشن۔ (مغرب انگریزی)

نمایش گاہ۔ انگریزی۔

اکسیر (مغرب یونانی) رہ جو ہر جس سے تاننا

سونا ہوتا ہے۔

اکلیس۔ (مغرب یونانی) کلیروس

اکلیسکی۔ عیسیٰ کی اور بت پرستوں

کا پادری پیشوا۔ زاہد۔ عابد

اکوانج۔ جمع (کوچ) مغرب فارسی کی۔

چھوٹے مکان۔

الاتفاق المخصوصی۔ وجہ خاص۔ مذاہر اتفاق

الاجازت۔ زنگارنگ چیز۔ کادانی کپڑا۔ ایک

الاجہ۔ ریشمی کپڑا۔

الاحتیاط۔ احتیاط۔

الارادة الشیعیہ۔ حکم سلطان روم۔

شاہی حکم۔

الاشتغال العمومیہ۔ امور تعمیرات عامہ۔

پہلک ورکس۔

الْأَقْقِمَاوَسِيَّاسِي - پولیکل اکائی۔

الْأَلْعَابُ النَّارِيَّة - آتش بازی۔

الْأَمْتِحَانُ النَّهَائِي - آخری امتحان

الْأَسْمَوَالُ الْأَمِيرِيَّة - سرکاری محصول

الْأَسْمُوْرُ النَّافِعَةُ - رفاہ عام کے کام پہلک ورکس

الْأَمِي - فوج۔ رجمنٹ

الْأَيَاكُوْلَا - پروں کا خط۔ فوجی صف

الْإِلْتِصَال - پاس۔ وہ رسید جو اوائل

محصول یا تار دینے کے وقت تار دینے

والے کو تار گھر سے دی جاتی ہے اور منی آرڈر

روانہ کرنے کی رسید بھیجنے والے کو ملتی ہے۔

الْبَابَا - پوپ۔

الْبَاوِيَّة - جاگیر۔

الْبُقُوْم - (مغرب ایتالیائی الیم) مجموعہ

نقصا دیر۔ مرقع تصادیر۔

الْبَيْعُ دَيْنًا - ادھار بیچنا۔

الْبَيْعُ نَقْدًا - نقد بیچنا۔

الْبِتْحَاق - داخل ہونا۔ شریک ہونا

الْبِتْرَاقم - مچلک۔ ذمہ داری۔ جوابدہی۔

الْبِتْرَامَات - ذمہ داریاں

الْبِتْصَاق - چسپیدگی۔

الْبِتْلَغْرَافُ الْإِعْتِيََادِي - سہولتی تاریخہ۔

الْبِتْلَغْرَافُ الْبَعِيْرِيَّاتِك - بے تار کے

ٹیلیگراف۔

الْبِتْهَاب - بھڑک اٹھنا۔

أَكْمَةُ الْحَدِيَّة - تابوت

الْبَحْرَانُ - شمالی افریقہ کا ایک ملک اور

اس کا پائے تخت۔ البخیرہ۔

الْبَحْنَبُ الْخَارِج - بیرونی پہلو۔

الْبَحْنَبُ الشَّمَال - بائیں پہلو

الْبَحْنَبُ الْمُتَعَكِّس - الٹا پہلو۔ مخالف پہلو۔

وایان بازو۔

الْبَاحِي - (مغرب ترکی) ایلچی سفیر۔ قاصد۔

الْبَحْرُ الْأَوَّل - بنیادی پتھر

الحجرہ سس السلطانی - باڈی گارڈ

الدَّفَا تَر - کھانا جات۔

الدِّيْوَان - دفتر۔ کچہری۔

الدَّهْبُ الْأَمِيض - پلاٹینم

الذَّيْل - دامن

الزَّرَاقَةُ - رقم شہر کا نام ہے۔ الف لام

تعریفی ہے۔

السُّمُّ مَرْقُومٌ - وہ زبانیں جن میں اشتقاق نہیں ہوتا۔

الصُّدْرُ الْأَعْظَمُ - وزیر اعظم

الْقَنْبِطِيَّةُ - پولیس کا نام۔ تہانہ۔

الضُّوْاحِي - مصافحہ - قربا دجوار

الْعُقْلِيَّاتُ الطَّبِيعِيَّةُ - طبی آپریشن

الْعُنَابِرُ - ریلوے کی دکانیں

الْعَا - محمول کا معائنہ کرنا۔ قانون کا نسخہ کرنا

الْعَارِ الْمُرْفَعُ - حق اپیل کا زائل ہونا۔

الْعَاءُ قَانُون - قانون کا منسوخ کرنا۔

الْعَاتُ - متوجہ کرنا۔ مکتف کرنا

الْعَائِدَةُ

الْعَائِضُ { سود -

الْقَصْبَانُ الْحَدِيدِيَّةُ - لوہے کی پیریاں۔

الْقِيمُ - بادل

الْقَاءُ - لکھ دینا۔ عام جلسوں میں

تقریر کرنا۔

الْقَاءُ التَّكْرِيفُ - فارم پر مضمون

تاریکہ کرنا۔ گھر میں دینا۔

الْقَاءُ الْقَبْضُ - گرفتار کرنا۔ پکڑنا۔

الْقَهْوَةُ - تہوہ خانہ

الْكِبَشَاتُ { کبوا

الابازیم

الْكُتْرُونُ - (معرب الکترون) جوہر فرد۔

جزرہ لایتنجری۔

الْكُتْرُونَاتُ - جمع۔ (الکترون)

الْكُتْرُونُ - (معرب الکترون) شراب کی

روح شراب کا ست۔ باریک سفوف

جوہر روح اصل میں یہ لفظ عربی کلمہ بمعنی

سرمہ۔ الف لام تعریفی سے الہ یورپ

میں گیا مگر جب یورپ کی زبانوں سے

پھر مغرب ہوا تو ایک الف لام تعریفی اور

لگایا گیا۔

الْكُوْشَارِيَّةُ - دفتر دیوانی

الْمُنَابِينُ - ایک عہدہ دار جو سلطان اور

وزیر کے درمیان بیجا مبری کرتا ہے۔

الْمُنَاذِرُ - (معرب تیوروس) ایک جانور

جو دریا کے کنارے اٹھنے دیتا ہے اور

سات روز اس پر بیٹھتا ہے تو بچے نکلتے

ہیں سات روز پرورش کرتا ہے تو مضبوط

اور توانا ہو جاتے ہیں۔

الْمُنَامُ - اسپرینٹ تجربہ

ألمان - جرمن - جرمنی کے باشندے

ألمانیة { ملک جرمنی جو عظیم یورپ میں واقع ہے۔

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

ألمانیة {

امتیاز زریا لتذکرہ - ٹکٹ میعاد ہی یک ماہ
جس کا لینے والا مجاز ہے کہ ہر ایک اسٹیشن
پر دو ایک روز کے لئے ٹھہر جائے۔

آئمۃ - گردہ - لوگ - قوم (انم) جمع
امثولہ - نونہ - سببی
انم - فوجی آرڈر۔

انم { ہکری کا چھوٹا بچہ

انمراض ساریتہ - متعدی بیماریاں - اڈاکر
لگنے والی بیماریاں -

انمراض متعدیہ - اڈاکر لگنے والی بیماریاں -
بیماریوں کے مادے کا لگنا۔

انم غنکری - فوجی حکم
انم نیکا - نام ایک تعلیم کا۔

انم بیکانی { امریکہ سے منسوب - امریکا کا باشندہ
انم بیکی

انم بیکہ { نام ایک تعلیم کا
انم بیکا

انم بکی - امریکہ کا باشندہ
انم سٹاک - مرض قبض

انم شیر - ماہ فروری۔

انم النجوم - کہکشان
انم النجوم - مشہد کی مکھیوں کی رانی -
میسوب کی ماہ۔

انم النور - بی بی مریم سے مراد ہے۔

انمیر اطلور - شہنشاہ - امپیر

انمیر اطلورہ - شہنشاہ بیگم - امپرس

انمیران الزہرائی - آخری سید سحران

انمیراد - ایک طرف کی پیمائش یعنی
لمبائی یا چوڑائی۔

انمیرتہ - فرنیچر

انمیرتہ السفر - سفری اسباب

انمیراز - سند - عہد نامہ - حق استحقاق -

انسنس پینٹ - حق خاص جو سرکار سے

عطا کیا گیا ہو - سند سرکاری جس سے موجودہ

کچھ عرصہ کے لئے حق مطلق دیا جاتا ہے۔

اجازت - تمغہ - ڈل - اجارہ - ٹھیکہ۔

انمیرازات اجنبیہ - غیر ملکی حقوق

انمیرازات الطبع { چھاپنے یا شایع کرنے

حریتۃ المطبوعات { کی آزادی - وہ

آزادی جو بلا نگرانی قانونی کتابوں کے

چھاپنے یا شایع کرنے کی نسبت حاصل ہو۔

اُمّیشی تلمیہ - آگے بڑھو۔

اُمّصنا - دستخط - پاس کرنا - تصدیق منظوری

اُمّلاک - جائیداد (گویہ عربی الاصل ہے۔

مگر جائیداد کے معنی میں فارسی سے معرب ہوا

اُمّلاک میہر تہ - سرکاری جائیداد

اُمّینیٹو س - ایک قسم کی چار پختہ کی کاری

اُمّنیٹہ - چونے کی بھٹی۔

اُمّوال - محصول - ٹیکس - چنگی۔

اُمّوال ایشترکہ - کوٹھی کا سامان

اُمّوال شاکرتہ - جائیداد غیر منقولہ

اُمّوال غیر ماڈی - غیر جہانی جائیداد۔

اُمّوال غیر مقرّہ - محصول جو شے پر لگایا

جائے اور جو کسی خاص شخص سے نہ لیا جائے

مثلاً ٹیک کا محصول - ان ڈارکٹ ٹیکس

میاصل غیر مستقل۔

اُمّوال مقرّہ - نقد محصول جو رعیت سے

لیا جائے مشخصہ محصول میاصل مستقل۔

اُمّوال میہر تہ - سرکاری مال گزاری

اُمّوز الدولہ - علم سیاست - پالیٹکس

اُمّور خار جہ - ممالک غیر کے متعلق کاروبار

اُمّور ملک تہ - مالگزاری - فینانس۔

اُمّور نافعہ - کارہا سے رفاہ عام۔

اُمّیال - جمع (میل) اٹھائیس - آرزوئیس۔

اُمّیزان -

اُمّیزانل - میہر بحری - افسر جہازات

اُمّیزان ارضاء العساکر - سپہ سالار - سالار جنگ

اُمّیزان اآخور - استعمال کا داروغہ

اُمّیزان الای - کرنل - ایک فوجی عہدہ

اُمّیزان البحر - افسر جہازات -

اُمّیزان العسکر - فوج کا جنرل

اُمّیزان اللواء - فوجی عہدہ - برگادیر جنرل جس کا

عہدہ میہر جنرل سے کم ہو۔

اُمّیزان کان - (معرب امریکن) باشندگان امریکہ

اُمّیزان - امیر البحر۔

اُمّیزان لواء - میہر جنرل

اُمّیزان لواء الموت - برگڈیر جنرل۔

اُمّیزان روس - ہوم جو یونان کا مشہور شاعر ہے

اُمّیزانہ - شہزادی

اُمّیزانہ - خراج - ٹیکس

اُمّیزانہ - صوبہ گورزی - گورنر کا دائرہ حکومت

اُمّینص - دیکھو - (امص)

اُمّین - معتمد - وہ شخص جو دوسرے کی جائیداد

اس کے فائدہ کے لئے اسے رکھنے کو مقرر ہو۔ (آمناء) جمع۔

آمین الائی قوقانی۔ فیلڈ آفیسر
آمین (الایزوات)۔ مالگزاری وصول کرنا
آمین السجالات۔ محافظ دفتر
آمین السسر۔ مسد۔ سکرٹری۔

آمین القندوق۔ خودیوار۔ خزاچی۔ کیا شیر
آمین القزل۔ واروغہ آلات۔ کومیسری
جنرل افواج کافسر۔

آمین القفل۔ بھندوچی۔ حال
آمینہ۔ بونے کی مٹی

آناہیب۔ جمع۔ (آنوب) پانی چڑھنے
کے باریک سوراخ۔

آناطولی ایشیا کے کوچک
آناٹولی

آقباء۔ (مغرب لاطینی) جیساٹیوں کا نہرینی
آتبار۔ سدان تجارت کی کوٹھی۔ وغیرہ۔

(آلابرو آنا پڑہ) جمع۔

آتبارہ زرمیہ۔ سرکاری خبرین جو عموماً مشہور
ہوتی ہیں۔

آتوب۔ علی۔ سوراخ۔ پائپ (آناہیب)

آبوت الفتح۔ چمکنی۔

آبیتق۔ (مغرب یونانی انکس) الغلی۔ پیالہ۔

آلہ پتال جنتر۔

آلتباہ۔ فٹ نوٹ۔

آلتجار۔ خودکشی۔

آلتساب۔ کسی مدرسہ یا انجمن میں داخل ہونا

شریک ہونا۔

آلتشار۔ اخبار یا کتاب کا شایع ہو جانا۔

آلتقاد۔ تنقید ریویو۔

آلتقال۔ بدلنا۔

آلتکاس۔ اعادہ مرض۔

آن تولید۔ بے کار سپاہیوں کا ممکن

آنتورییا۔ (مغرب سریانی) گلاب کا ایک

آنتیکا۔ عجیب و غریب چیزیں

آنتیکائی۔ اشیاء سے قدیم کو بیچنے والا۔

آنتیک خانہ۔ عجائب خانہ۔ میوزیم

آنتیکہ۔ قدیم۔ عجیب چیز۔ دستکاری زمانہ قدیم

آنتیکہ خانہ۔ عجائب خانہ میوزیم

آنتی ٹونی۔ سرمہ۔ انجن

آنتروکو کو جیا۔ (مغرب یونانی) آنترا پوچی

علم انسان

انجر - انگردانہ جمع اور انجرہ ایک
انجرہ - اقسام کی گھاس کا نام بھی ہے۔

انجریٹ - کلادی کا تخت

انجلیز { انگریزہ انگلستان کے باشندے
انگلیس

انجلیز می { انگریزی
انگلیسی

انجمن - مجلس - زیم

انجیلی - پروٹسٹنٹ جو عیسائی مذہب کا جدید
فرقہ ہے جس کا بانی لوتھر ہے۔

انجرفٹ - ناسازی - بیماری۔

انجیلاں - کسی کمپنی یا کارخانہ کا نوٹ جانا۔
برعکاس تگی - اجزا کا جدا جدا ہونا۔

انجیلاں النور - روشنی کا پھیلنا - لوز کی
مختلف رنگوں میں تحلیل

انخفاض - پستی - نشیب

انڈر - کھلیاں - گیہوں کی کھلیاں - خرمن
انڈر وود - پانچامہ کی ایک قسم - تنباں شلوا

انڈس - کوہ انڈیس

انڈمیٹس - لفاہ - پیالہ - عیسائی مذہب
میں ایک رسم ہے کہ پیالہ میں شراب بھر کر

لفاہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جس شخص
کو عیسائی کرنا چاہتے ہیں لفاہ اٹھا کر اس میں
سے کچھ اس کو پلا دیتے ہیں۔

انسحاق القلب - انوس - پچھاوا
انسفال - آہستہ سے نکل جانا۔

انسٹی تو - انجمن اشاعت علوم
انسٹیٹوٹ تعمیر کرنا - قائم کرنا - ایڈیٹری

انضفاط - دباؤ - فشار

انضفاط ہوائی - ہوا کا دباؤ جو ایک کعب
پنج پر نیدرہ پونڈیا ساٹھ سات سیر ٹپا ہوا

انضفاط - سخت بیمار ہونا۔

انطابلس - (مغرب یونانی پنڈا پوسس)
ملاک مصر کے ایک شہر کا نام۔

انطباق - درست آنا - ٹھیک بیٹھنا۔
انطراق - کٹ کر بھج جانا۔

انطلاق - گولی چل جانا - دست آنا۔

انطونیمہ - مغرب یونانی اقلیاں - واسطہ
کلانی - مزلگہ۔

انطیقات - قدیم چین میں زمانہ گذشتہ
کے حالات۔

انعام الامۃ - قومی گیت

انفاذ - حکم نافذ کرنا۔

انفلوینزا - نزلہ - زکام - نزلہ وبائیہ

انقلابیات { مار ماہی ایک قسم کی مچھلی

انقضائے الشہادت - ذمہ داری کا جانا رہنا۔ ذمہ داری باقی نہ رہنا۔

انقضائے الزمن - وقت یا سبب کا گزر جانا

انقطاع مراحفہ - کارروائی میں خلل اندازی

انقلاب سیاسی - ملکی تغیر - پولیٹیکل ریولوشن

انکشاف - بھنا۔

انکشاف الارض - پانی کے بہنے سے

مٹی کا پہاڑوں پر سے جاتا رہنا۔ ڈینیوٹیشن۔

انکشاری - ترکون کی ایک قدیم فوج جو

نہایت مقتدر اور خود سر ہو گئی تھی اور اس کو

انگلیزی { انگریز مرد

انگلیش { انگریز

انموذج { معرب نمودہ یا نمونہ (قاموس

نمودج { میں انموذج کو غلط لکھا ہے۔

انوریزما - سُوجھن - آماں - دہل

آنوق - ایک قسم کا پرندہ

آنیمون - سرمہ

اینسوں - بادبان - سولف

اوامر بخاریہ - احکام نافذہ

اوباشش - خشک انگور کشمش - منقی۔

اوبرا - مکان رقص و سرود - ناچ گھر

اڈ پولوس - ڈیڑھ دانق وزن

اوتاد البلاد - پہاڑ - کوہ۔

اوتومبیل - خود رو مثلاً موٹر کار

اوتیل - ہوٹل - مسافر خانہ - سرا

اوج - لفظی معنی بلند علو۔ اصلاً حادیر جہا آفتاب

اوجاق - آتش دان بخاری - وہ آگ

جو کمرہ گرم کرنے کے لیے دیوار میں بنی ہوتی ہے۔

اوجیجی - درجہ سوم

اودہ { کمرہ - حجرہ - دیوان خانہ۔

اوضہ - اوطہ | بالاخانہ - دفتر

انگلشٹرا - { انگلستان

انگلشٹرو - { انگلستان

انگلیزیہ - انگریز عورت

انگلظرة - انگلستان - انگلینڈ

یہ ہے کہ تازہ سہولت بے توقف پہنچے گا۔
اور نیک مستعجل۔ جس فارم پر لفظ مذکور
مطبوعہ ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ مال قرض
کے ساتھ مال گاڑی میں پہنچے گا۔

اَوْز۔ بط۔ بطخ۔ مرغابی (اڈوزون) جمع
اُوزون۔ برق طاری کیا ہوا اوسکین
اُوساخ۔ میل کھیل

اَوْضَه۔ ویکھو (اودہ)

اَوْضَه الْاَكْل۔ کھانے کا کمرہ

اَوْضَه الدِّيوان۔ بیٹھنے کا کمرہ

اَوْضَه الْقِرَاءَة۔ مطالعہ کا کمرہ

اَوْضَه النُّوم۔ سوئے کا کمرہ

اَوْضَحِي۔ پیادہ۔

اَوْطَى سَعْر۔ سب سے کم نرخ

اَوْعَسَطَلَس۔ ماہ امرداد۔ آب

اَوْقِيَانُوس۔ بحر محیط۔ سمندر

اَوْقِيَه۔ ایک وزن جو ایک اونس کے مساوی

اَوَّلُ التَّارِيحِ۔ پرسون۔ پس فردا

اَوَّلُو الْمُنَاصِبِ۔ عہدہ دار

اَوَّلِيَاءُ الْأَمْرِ۔ محافظین۔ ہتھیار

اَوَّلِيَاءُ الْأُمُورِ۔ کسی کام کے سربراہ کار

اَوْدَه بَاشِي۔ خانسان ہٹول کا منیجر
اَوْرَاق۔ دستاویزات۔ وثائق۔
اسناد کاغذی۔

اَوْرَاقُ التَّعِينِ۔ سند تقرر

اَوْرَاقُ تِجَارِيَه۔ تجارتی دستاویزات

اَوْرَاقِ مَالِيَه۔ سرمایہ فنڈ

اَوْرَاقِ نَافِزَه۔ سبز پتے

اَوْرَبَا۔ یورپ

اَوْرَبَاوِي۔ یورپ سے متعلق یورپین

اوردی فیلق۔ فوجی پلیٹن جس میں پانچ ہزار

آدمی ہوتے ہیں۔

اَوْرَطَه۔ رجمنٹ دستہ فوج

اَوْرَطَه الْأَسَاس۔ پلیٹن

اورطہ پیادہ۔ پیادہ فوج۔ الفنیطری

اورطہ اسلحہ۔ فوج کا دستہ اور ہتھیار

اورطہ سواری۔ کیولری۔ سوارہ فوج

اورنگ۔ (مغرب ترکی اورنگ) نمونہ

مِسْطَر (ارانیکی) جمع۔

اَوْرَنِيك۔ نمونہ۔ شکل۔ فارم

اَوْرَنِيك التَّلْغِزَات۔ تار برقی کے جس

فارم پر لفظ مذکور لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب

ازہمال المشرک - غفلت و عجز اور فعل
جس سے نقصان پہنچنے میں رو ہوتی ہو -
غفلت معاون ہر جہ

آہستہ - سووہ -

آیار - رویوں کا تیسرا مہینہ (مطابق مئی)
آیارٹی - جس کا ذکر پڑا ہوا -

ایالہ - صوبہ - ولایت (ایالات) جمع -

ایام غطلہ { تعطیل کے دن چھپیان
ایام مسامحہ }
ایکال ارض - ہوا پانی اور حرارت کے
عمل سے زمین کا فنا ہونا -

ایچار - گتہ - ٹھیکہ -

ایچارا لاشخاص - لوگوں کو اجرت پر رکھنا
ایچارہ - حقیت جو بموجب پتہ کے عطا
کی گئی ہو -

ایزہ - شرقی ہوا - باد شمالی - پوراوا

ایزاد - آمدنی - کمائی - مال گزاری

ایزادات - آمدنی - آمد - قوح - جمع ایراد

ایزادات مرقمہ - وظیفہ سالانہ

ایزاد الدولہ - سرکاری مال گزاری -

ایزادۃ الحیوۃ - وظیفہ عین حیات

اویروس - ایک قسم کی گاڑی

اویروس - یونانی شاعر - ہومر
اویر باشی - نان کیسٹنٹا فیسر - ایک جنگی

عہدہ دار - دس سپاہیوں کا عہدہ دار - نایک

اویر باشی نوپتھی - اڈولی - ہمراہی -

اویر ورسیتہ - یونیورسٹی

اویمہ - مغرب ترکی - اویمق - نقاشی

سنگ تراشی -

اہالی - توین - رعایا - پبلک -

اہنہ - تیاری - دستی -

اہنہ استیاحہ - زائر کے حالات

اہنجیہ - ہزل - طعن - (اہاجی) جمع

اہترام - جمع دہرم (مصر کے مخروطی منار -

اہل التعاقد - قابل مجاز

اہل الذمہ - یہود و نصاری

اہلیہ النصرہ - حیثیت - قابلیت قانونی

اہلی - ملکی - سودیشی -

اہلیج - بیضوی - ہلیدہ - ہڑ -

اہلیجی - وہ شکل جو بیضوی ہو -

ازہمال - غفلت -

ازہمال المحض - ترقی کرنے والے مین کی غفلت

رَبُّوہ - ہاں - جی ہاں - بعض اس کی اصل
 ایسی دانشدہ - (ہاں خدا کی قسم) بتاتے ہیں
 اس صورت میں عربی ہے - مگر بعض لوگ
 کہتے ہیں کہ یہ لفظ ترکی سے عربی ہوا ہے
 جو کلمہ جواب ہے یعنی ہاں - جی ہاں -

بَابُ الْمَاءِ

بَابُ - (عرب لاطینی پاپا) کلیہ سائے روم
 کا صدر پادری - پوپ - واضح ہو کہ پاپا کے
 معنی رباب ہیں اور فرقہ رومن کیوں تک کے
 اعتقاد میں (خلیفہ مسیح) - (باباوات) ہیں
 باباوی - پوپ سے متعلق
 باباویہ - پوپ کا درجہ یا عہدہ -
 باب الرزق - معاش
 الباب العالی - استنبول میں ترکی دروازے
 کی عمارت اجلاس
 باب النصر - فتح کی کماں
 باب بزمی - (عرب یونانی) کالی مرجع - غفلت
 باب عالی - ترکی سلطنت کے دربار اعظم
 کا دربار - استنبول میں ترکی دروازے کے
 اجلاس کی عمارت -

ایراد ہمایونی خاص - پریمی پرس
 ایرلاندا - آئر لینڈ - ایک جزیرہ جو انگلستان
 کے مغرب میں واقع ہے -

ایصال - نقل مکان کرنا - حرارت کا بعض
 اجزاء سے بعض اجزاء میں منتقل ہونا -
 ایضاحات - نوٹس - اطلاع -
 ایطالی - اٹالیہ سے منسوب -

ایطالیائی
 ایطالیائیہ { اٹلی

ایطالیائی - اٹلی کی زبان
 ایقاف - معطل کرنا - روک دینا مجرم کو
 کٹھن سے میں کھرا کر دینا -

ایقونہ - دیکھو (تونہ)

ایل - خدا - اللہ جیسے اسرائیل - جبریل
 ایلاؤس (عرب یونانی ایلیوس)
 ایلاؤش ایک ہلک اور سخت درد
 جو آنٹوں میں ہوتا ہے -

ایلیجی - (عرب ترکی ایلیجی) سفیر -
 پیغامبر - قاصد -

ایلول - رومیوں کا مہینہ جو بارہواں
 ہوتا ہے - مطابق ستمبر -

بابوچ (معرب پاپوش) سلیمہ - جوتی -

بابوڑ - (معرب داپور) انجن -

کل والی گاڑی -

بابوڑاٹ - جمع جہاز یا ریل -

بابوڑ البخر - جہاز کشتی

بابوڑ البتر - ریل گاڑی

بابوڑ البتکة الحديدية { ریل گاڑی

بابوڑ البتری

بابوڑ البتعمین - اکسپرس ٹرین

بابوڑ البمش - جوتی کفش

بابوی - (بابا پوپ) سے منسوب

بابیہ - اکٹوبر - سرحد - (بابا ت) جمع -

بابا کوریا - امریکہ کا صوبہ

باتلاق - کچھڑ - دلدل -

باتور - حصیر - بوریا - چٹائی (بواتیر) جمع

باتو کوجیا - (معرب یونانی پیتھالوجی) -

علم ترکیب الادویہ

بابوچ - جوتی - سلیمہ

بابوچ { اسٹیم

بابوڑ { اسٹیم

بابوڑ - بخار - بھاپ - اسٹیم - اسٹیم خانہ

(بواخر) جمع -

بابوڑہ ثابرتہ - قائم انجن

بابوڑہ ثعلیہ - بار برداری کا دھانی جہاز

بابوڑہ - (معرب انگریزی بور) لنگر کشتی

جہاز کالنگر -

بادری - (معرب ایتالیائی پادری یعنی پڑ) کشتی

کشتی پیشوا سے مذہب عیسائیاں -

بادستر - ایک سمندری جہاز کا نام جو خشکی

دتری دونوں میں زندگی بسر کرتا ہے -

بادوق { (معرب فارسی بادہ) خمر - شراب

بادوق { شیرہ انگور جس کو تھوڑا سا جوش

دیا گیا ہو -

بادوشجان - (معرب فارسی بادنگان) بیگن

بادوشنج - (معرب بادگیر یا باد آرنج) بادکش

جالی دار درجیہ - پالکانہ جس میں چاروں طرف

سے ہوا آئے -

بادوق { (معرب باتیاک) شیرہ انگور

بادوق { بادہ - شراب -

بادوشجان - بیگن

باداد - (معرب پریڈ) فوجی پرا - صف بندی

میدان قواعد -

بکار آموں - دیکھو (پیرامون) - عیسائیوں
 کا عزم -
 بارآ - (مغرب فارسی پارہ) - سکہ - قرش کا
 پہ حصہ (بارآت) جمع
 باز جاہ - (مغرب بارگاہ فارسی) محل بادشاہی
 وزیر شاہی -
 بار خہ - جنگی جہاز (بوزارج) جمع
 بار خہ مدر خہ - زرہ پوش جہاز
 بار خع - راکا - اعلیٰ - ماہر
 بار بلقان - (مغرب پارلیمنٹ) دارالشرعیہ
 باروڈ - (مغرب سریانی) شوره - باروت
 گن پوڑ -
 باروڈ ایشی - شوره
 باروڈہ - بدوق جمع بواہد
 باروٹ - (مغرب ایتالیائی بارفہ)
 پرخاش کرنا - لڑنا جھگڑنا
 بارون - ایک اونی درجہ کا امیر
 بارنی - (مغرب بوریہ - فارسی) چٹانی - ^{مختصر}
 باریز - (مغرب پیرس) ملک فرانس کا دارالحکومت
 بارینس نوکینو (باریز)
 باز دار - (دخیل فارسی) باز کا پالنے والا

مخافہ باز - میٹرکاری -
 بازگان - (مغرب فارسی بازارگان) سوداگر
 بیوپاری
 بازگانہ - ولایتی پارچہ بیچنے والا
 بازی یکی بزرگ - بارگاہ سلطانی
 باس - (مغرب فارسی بوسہ) بوسہ
 باس برٹ - (مغرب ایتالیائی پاساپورتو)
 پاسپورٹ - پروانہ رازداری
 باسپورت - پاسپورٹ - پروانہ رازداری
 باسنا پورٹ
 باسٹیمان - قلعہ کا برج - برج
 باسفور - (مغرب باسفورس) وہ آہٹائے
 بحیرہ اسود اور بحیرہ مارمرس کے امین ہے -
 باسقانی - (مغرب فارسی) ملاحظہ کرنے والا
 باسلیق - (مغرب یونانی باسلیکان) ہاتھ
 کی ایک رگ -
 باسلیقون - (مغرب یونانی بسلیکان) سر
 دوشنائی -
 باش - (دخیل ترکی) سردار - افسر چیف
 باشی - عہدہ دار -
 باشا - (مغرب ترکی پاشا) بقول بعض

باششی لوزوق - { بے قاعدہ فوج
باششی بوزوق -

باششین - نخت - موزہ - جس پر تمیم جاز ہے
باطا - (مغرب یونانی باتبا) لغوی معنی درخت
انجیر جسے قطع نہ کیا ہو اور جسے قطع کریں وہ حمزہ
کہلاتا ہے ۔

باطل و لاعنی - ناجائز - ناپہنر - کا لعدم - بے اثر
باطیہ - (مغرب فارسی بادیه) بڑا پیالہ - شراب
کا منکا - مینا سے شراب -

باع - چھ فیٹ کا پیمانہ

باعوث { (دخیل سریانی) ناز استسقا
باعوث

باع - (دخیل فارسی) حدیقہ (باغات و بیگان)

باع ہنری کاری - ترکاری کا باع

باع شجر می - بیہودہ دار تناور درختوں کا باع -

باع نباتات - پیل بوٹوں اور درختوں کا باع -

باع وحش - زندہ جانوروں کا باع - زولائل

گارڈن -

باق - (دخیل قدیم مصری) ایک قسم کی زمین

باقرقوہ - مرغابی - جنگلی مرغ

باقول - (مغرب یونانی بوقلس) بے ٹونٹی والا

فارسی الاصل ہے کیونکہ یا بمعنی قدم اور شاہ
بمعنی مالک ہے) ترکوں کا ایک اعلیٰ خطاب
تسئینہ (باشان و باشادان - اور جمع باشانت
و باشادات) ہے -

باشا اور - (مغرب ایطال یانی ام باشا لورکی)
سفیر - ایچی - قاصد -

باشا البحریہ - محکمہ بحری کا افسر -

باشا العسکر - جنرل افسر -

باش جادیش - سارجنٹ میجر -

باشدار - وہ دستہ فوج جو سب سے

پہلے رہتا ہے - ہزادل - مقدمہ الجیش

باش صراف - صدر خزانچی -

باشق - (مغرب باشہ) ایک فٹکاری طائر کا نام

جو باز سے چھوٹا ہوتا ہے -

باش کاتب - (مغرب ترکی) اینٹنی - ہڈکارک

باش مترجم - صدر مترجم

باش ہندس - چیف انجینر -

باشوڑہ - وہ مقام کہ شکر قلعہ سے نکل کر

دشمن کا مقابلہ کرے اور دشمن کو قلعہ میں

گھسنے سے روکے -

باشی - افسر - عہدہ دار

توٹا۔ مٹی کی دوات۔ یہ اہل مراکش کی زبان ہے
مصری (بوقال) کہتے ہیں۔

باقہ۔ (مغرب اندلسی بگھا) پشتارہ۔ گلہ
باکیرا۔ سویرے۔ تزکے

نالآ۔ (دخیل ترکی پالا) وزارت سے نیچے کا
بالا استحقاق۔ معیاد کا پورا ہونا

بالیاستہ۔ ملاحظہ ہو (باستہ)
بالتقسیط۔ قسطوں کے ذریعے

بالہ۔ ایک قسم کی مچھلی۔ مغرب فارسی بلیہ۔
طلبہ عطار۔

مغرب ایطالیائی۔ اسباب کا ہنڈل پلندا۔
کپڑوں کا گٹھڑ

بالٹو۔ اوور کوٹ
بالتیق۔ (مغرب بالٹک) دریائے ہیک

بالٹجملہ۔ تھوک فروشی
بالدار۔ پردار

بالش۔ (مغرب) تکیہ
بالگتہ۔ بمشکل۔ بدقت

بالکون۔ (مغرب فارسی) بالاخانہ بواسطہ
فرخ و انگریزی بالاخانہ۔ مہتابی

بالمرسہ۔ بالکل تمام و کمال۔ ہرگز۔ تمامہ

مطلقاً۔ کلاً

بالو۔ (مغرب ایطالیائی باتو)۔ گیند
گوسے۔ کرہ محفل رقص۔ ناچ کی مجلس سبتہ
بغچہ۔

بالوٹ۔ (مغرب ایطالیائی بالتو) پشتارہ
بالوڑہ۔ (مغرب فارسی) پالوڑہ جس کے معنی

پاک کیا ہوا۔ صاف کیا ہوا۔ پکا اور چاہا ہوا۔ نشاستہ
بالوٹ۔ بغچہ۔ پلندہ

بالون۔ مفرس با بیالون (انگریزی) (مغرب
فرانسیسی بالن۔ غبارہ بیلون

بالہ۔ محفل رقص و سرود
بابنبائی۔ (مغرب پاسپائی) اطالیہ کا ایک

شہر جو ویسویس کوہ آتش خیز کے خروج
سے دب گیا۔

بابہمی۔ دیکھو (بابائی)
بابینیا۔ (مغرب مہامیا) بھٹدی

بان۔ پان
بانٹو۔ کوٹ جو یورپین وغیرہ پہنتے ہیں۔

باورہ۔ جہاز کانگر
باہٹ۔ کم گہرا۔ تدم۔ ہلکارنگ

باہٹ۔ زیادہ گران۔ ہنگا

بالع بالمفترقی - خرده فروش تاجر -

بالع بالجملة - تنوک فروش تاجر -

بالع و خان - تنباکو فروشش

بالع کتیب - کتب فروش -

بالکلمة - گروہ اسم - سطور - جمع تو انک

بیتا ابو جیب (مغربی یونانی پیدا گوچی)

علم النفس - علم

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بجھون - کاریز - وہ شہر یا نالی جو دریا سے

کاسٹک رکھتے ہیں لائی جاسکتے -

بجھار - تاج - جہاز می نوکر -

بجھارہ - فن جہاز رانی - بھری لڑائی کا فن

بخت - خالص النسل

بختی - پشت اور منسوب

بخر الاخر - بحیرہ قلم (مصر) بحر الاحمر

البحر الاحمر کے ساتھ

بخر الاسود - بحیرہ اسود (مصر) بحر الاسود

بخر الاطلنطیق - بحر اٹلانٹک

بخر البحر - بحیرہ کاسپین - یہ دنیا میں کھلی

پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے -

بخر الطلک - (بحیرہ بحر الاطلنطیق)

بحر التوسیط الابيض - بحیرہ روم

بحر المحيط - بحر الکاہل

بحر زاجر - بڑا دریا - فٹاض

بحر محیط شترتی - بحر الکاہل

بحری - بری کی بندر - سمندر سے متعلق -

کشتی بان - تاج

بحریہ - بحری عینہ - طاق بھری

بحریہ - کسی قسم کے کل جنگی جہاز - جہاز و گاڑیاں

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بیر - (دو چیز کی سی) استنبیر - شہزادہ لائق

بجانب الثمن - مالیت کے مطابق
 بختہ - بدگوئی
 بخار - (مولد) ایجن -
 بخارات معدنی - گندھک کے معدن کی
 بھاپ - گندھک کی کان سے جو گرم بخار
 نکلتا ہے اس کی بھاپ -
 بخار کثرت - (معرب کھارکٹ) ایک شہر کا
 نام جو دہانہ کا دارالسلطنت ہے
 بخار کار - ناز - گیس
 بخار می عذرت - آتش خانہ
 بخت - (دخیل فارسی) نصیب - قسمت
 سعادت -
 بختیج - (معرب فارسی) بچا ہوا - بچی ہوئی چیز
 بختیوارنجی - (معرب فارسی) اباغیان - مالی -
 ناظور -
 بختیش - (معرب فارسی) بخشش (عطا
 جو مہاروں کو دی جاتی ہے - عطیہ
 بختہ - پختہ کار - لعنت - طاعت
 بد - (معرب فارسی) بت (بت خانہ - صنم کدہ
 بدادہ - غیر شایستگی - بے تمدنی -
 بدرشین - ویکھو (بدرشیل)

بذرون - معرب ترکی بدرون جو اس میں پونا
 پیدا ہوسے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی
 پائیں رفتن ہیں) نر خانہ - سرہ خانہ - بادلی -
 بذرونی - (معرب ایطال) لانی پادرون (ایگن
 سردار خانہ - گھر کا بڑا -
 بذرفا - (معرب فرانسیسی) چوڑا (سفوف پوڈور
 بذرفہ - دس ہزار درہم یعنی بیس ہونڈ کا سکہ
 (بذرو بذور) حج
 بذرمی - سویر سے جلد علی الصباح
 بذل - (مولد) خرچ قیمت
 بذلی الا شترک - رسالہ یا اخبار کی قیمت
 بذلہ - (مولد) کپڑوں کا جوڑا - سوٹ جمع
 بذل سفریج - (مولد) سفر خرچ -
 بذل میدان - زمانہ جنگ کا اونس یا بختہ
 بذلہ - کپڑوں کا جوڑا - سوٹ (بدلات) جمع
 بذیل - اخبار رسالہ یا روزنامہ کا مزیدار
 بذنج - (مولد) کپڑوں کا جوڑا - سوٹ
 بذرقہ - (معرب فارسی) بدرقہ (رہبر قافلہ
 نگہبان -
 بذلہ - کپڑوں کا جوڑا - سوٹ
 بتر - (قلم) بڑا عظیم -

برآو۔ سینے کی پہلی رات

برآو البعین۔ آنکھ سے دکھائی دیتا ہوا چشم

برآیل الارض۔ زمین کی روئیدگی۔

برآستنت { دین سچی کا وہ فرقہ جو لوگوں کو

برہوتانت { اعظم کا پیرو ہے۔

برآوہ۔ لائسنس۔ پروانہ

برآوۃ مرکب۔ جہاز کی بسند

برآوۃ وکالتہ۔ وارنٹ آن ایجنسی

برآوہ { (مولد) چائے دان۔

برآوق۔ دیکھو (فرانق)

برآونی۔ (مغربی فلسطینی بیرونی) غیر ملکی

برآویا۔ (دخیل مصری قدیم جس کے لغوی معنی

عمارت بنانا ہیں اسی سے ہے برہائی وہ تحریر

قدیم جو تصاویر کے ذریعے ظاہر کرتے تھے۔

برآواہ۔ (دخیل زبان ارامی) لغوی معنی۔ عمارت

سور مستحکم۔ عرف عام میں اہرام کو کہتے ہیں

برآوچی۔ گزگت۔ آفتاب پرست۔

برآوہ۔ (مغربی یونانی بربرس) ایک سنگدل

اور وحشی فرقہ جو افریقہ کے مغرب میں رہتا ہے۔

برآوہ۔ سوال ایک شہر کا نام ہے

برآوہ بقیہ۔ (مولد) ماخوذ ہے برہری سے جو

ایک وحشی قوم ہے۔ وحشی پن۔ بد انتظامی

بے تدنی۔ سنگدلی۔ وحشیانہ۔ بے رحمی

برآوط۔ بیہودہ بکنا۔

برآوٹکہ۔ دھوکا دینا۔ کسی محصول کا باور عا یا پر

برآوٹکہ۔ دھوکا محصول وغیرہ کا بار۔ جمع برآویک

برآوٹقال { مغرب ایتال یا نی پرتگال) ملک

برآوٹقان { پرتگال جو ہسپانیہ کے مغرب میں ہے

برآوٹخان۔ نازنگی۔ ایک قسم کا سنگترہ

برآوٹقان یا بزوقان۔ برآوٹقال یا

برآوٹمان۔ (مغرب) مرتبان)

برآوٹیت۔ حصہ دہی۔ قرعہ۔

برآوج۔ قلعہ۔ ڈورٹ۔ لائن زبان سے مغرب ہے

برآوجاس (مغرب) فلسطینی) لغوی معنی آماج گاہ

نشانیہ تیر۔ چاند ماری۔ نیزہ وغیرہ پر جو چیز ہو

اُس کو نشانہ بنائیں تو اُسے برآوجاس کہتے ہیں

اور زمین پر جو چیز ہو اُس کو نشانہ بنائیں تو اُسے

دہن کہتے ہیں۔

برآوج خام۔ کیوٹر کا گھر۔ کابک

برآوجہ۔ ایک قسم کا موٹا مکمل

برآوجل۔ (دخیل ترکی) پرکار۔ پرکار۔ کپاس

برزخوت - (مغرب یونانی بریو و وینس)
نائب اسقف -

برزخ - (مولد) خاکنا سے دو بڑے خشکی
کے حصوں کو ملانے والی (برزخ) جمع -

برزن - کوچہ - محلہ

برزینق - سواروں کی جماعت

برزین - کجکول - زمینیں

برشش (مولد) فرش جو کھجور کے پتوں

برشش سے بنایا جاتا ہے - مغرب

مانگریزی برش (کپڑے صاف کرنے کا آلہ -

مصدر - صاف کرنا -

برشام - (مغرب سریانی برشان) عیسائیوں

کی ایک مقدس روٹی جسے فرقہ رومن کیتھولک

حضرت مسیح کا بدن سمجھ کر روز مقررہ کھاتے ہیں

قریانی مقدس -

برشان - لیسارٹسے - ہی

برشت - (مغرب فارسی) نیم برشت

آدھا بھونا ہوا مرغ یا اڈا بھونا ہوا

برشمنہ - (مولد) لئی سے لٹافہ بند کرنا -

برشمنہ - برش - کوچہ جس سے ادنی کپڑے

صاف کرتے ہیں زراف کی کمان

برخ - مفت بلادام

برو - اولاد

برداخ - تہذیب - تہذیب - صیقل - پالش

وارنشس - سریس -

بردار - زبان

برداق - (دخیل ترکی) کوزہ - مٹکا - گھڑا -

(برادیق) جمع

بردایات - جمع بردایہ

بردایہ - مغرب فارسی پردہ چھپر کھٹ

بردنج - مغرب فارسی پردہ - اسیرجنگ - لٹری غلام

بردوخہ (مولد) صیقل کرنا - وارنشس کرنا

مہذب بنانا -

بردوق - (مغرب ترکی) مٹی کا برتن

بروزی - صفت پتیلی - پتیل کی بنی ہوئی -

برودہ - ہرود

برودعہ - (مغرب فارسی) برودعہ بواسطہ سریانی

پالان خر -

بروزون (مغرب لائبینی) بردو) عربی میں

برو (مولد) یہ لفظ آرامی کے واسطے سے آیا -

اسپ تازی میں لڑا جا اور عوام سے آہستہ

چلے -

برصہ - (معرب ایتالیائی بورس) ایک تھوڑی سی خاتہ دار المہالہ -
 برطانیستی - (معرب یونانی برتگی) - بستان افروز ایک قسم کی نبات -
 برطلہ - (معرب برطولا) بر یعنی بیٹا اطلہ سبیل اطلہ یعنی سایہ بھانڈن (تنگ سائبان) -
 برطیل - رشوبہ -
 برغرام - (معرب پروگرام) نظام ادقاس -
 برغاب تعلیم -
 برغرام - برانڈمی - شرابہ -
 برغزہ - (دخبل سریانی) گوسالہ - بچہ -
 برخشس - چھتر -
 برخل - (معرب فارسی و بقول سفید سید کی روئی) -
 برعمدی (معرب فرنج) برانڈمی شراب -
 برغوش - (مولد) چاندی کا ایک سکہ جو ایک ترش کے برابر ہوتا ہے - حج براغیش -
 برغزہ - (معرب انڈسی پارگہ) سن کا بنایا ہوا جوتلے نے کا بنایا ہوا گھر -
 برشی - بیج والی کیل - برقا -
 برشیل - (عربی کراعیل) جمع

برزفیز - (معرب یونانی برفر) جو فارسی الال ہے ارغوانی رنگ -
 برقی - (معرب فارسی برہ) ازغالہ - پہاڑی بکری کا بچہ -
 برقی - (معرب فارسی برگ) اسباب خانگی مثلاً کرسی دسترخوان وغیرہ - تاریخہ -
 برقی - (معرب فارسی برگ) پتا -
 برقوق - (معرب یونانی برکگہ) شغفہ الو زدوالو - آلو بخارا - ایک پھل ہے بہت دراصل جو ہلکا و دراصل ہوتا ہے -
 برقیہ لاسلکینہ - سب سے تاریکی (نار برقی) خبر رسانی -
 برقیہ المار کونیہ - بے تاریکی تاریکی - مارکون موجود کی طرف منسوب ہے -
 برقیل - گمان -
 برقیہ - ٹیلیگرام - تار -
 برگ - دیکھو (برق) -
 برگار - (معرب فارسی پرگار) پرکار - کپاس -
 برگان - (معرب ایتالیائی و کلاو) - سکہ -
 آتش نشان - جھالاکشی -
 برکتہ - (معرب فارسی) تالاب کھنڈ

برگوش - (معرب ایتالیائی برگو) ایک قسم کی کشتی۔

بزگہ - جو بڑ

بزگمان - (معرب پارلیمنٹ) مجلس شوریٰ بزلیان - روشن جگہ کا نام ہوا۔ تابان

بزگینن - (معرب برلن) ملک جرمنی کا دارالخلافہ بزگین

بزگما - (معرب ترکی بزما) ایک قسم کی مٹھائی بزمووہ - (دخیل ترکی) ماہ اپریل۔

بزرمون - (معرب یونانی پرستی) وہ روزہ جو پیش امام رکھتا ہے۔

بزرمہ - (معرب ترکی بوزمق) برا۔ بزرفہان - (دخیل قبلی) مارچ کا مہینہ

بزرمیل - (معرب ایتالیائی بریلہ) پیسا بزرن - (معرب) سوئٹزرلینڈ کا دارالخلافہ

بزرنامج - (معرب فارسی بزنامہ) فہرست بزرنامج الاعمال - روداد۔ کیفیت۔

بزردت انجن - بزرنج - مہرابی بدرہ۔

بزرنجک - پتلا کالا کپڑا۔ کریپ بزرنجک - (معرب ترکی بزرنجق) لیس کریپ

بزنگد - (معرب فارسی بزنگا) جوہر شمشیر آب شمشیر۔

بزرنس - (معرب پرنس لاطینی) شاہزادہ بزرنس - (معرب لاطینی برس) ٹوپی لباؤہ

بزرناسس - (جمع بزرناسا) (دخیل سریانی بزرناسا) مردمان۔ کوگ

بزرنسپس - (معرب لاطینی پرنس) شاہزادی بزرنی - (معرب فارسی بزرنیک) میوہ نو۔

بزرنیا پھل۔ بزرنیظہ - (معرب ایتالیائی بزنا) عیسائیوں کی ٹوپی۔ انگریزی ٹوپی۔

بزرنیہ - (معرب اندلسی) اسکود۔ بزما۔ پیچ کش بزرواز - (معرب فارسی بزرواز) فریم تصویر

بزرنیہ کا چوکھٹا۔ بزرواز - انگشتانہ

بزروتشانت - دین مسیحی کا وہ فرقہ جو لوتھر اعظم کا پیرو ہے۔

بزروتستو - اقرار صالح۔ اظہار از روئے ایمان۔ استشہاد۔

بزروتسیتو - ہندی کے نہ پینے کا حال مشہور کرنا۔ عذر۔ انکار۔

برو توکل { یا دوا داشت
بروتیا -

برو جزام - (معرب پروگرام) نظام اوقات
الضباط اوقات - نصاب لتعلم

بروجی { بگل بجانے والا
بوجی

بروفہ یا بروہ - (معرب پرووا - پردہ)

بروفہ { معرب ایتالیائی پروا (مقدم
بروفہ کشتی - ناؤ کا پہلا حصہ -

بروڈیٹہ - (مولد) کاہلی (سردی) کے
بروزہ - (معرب تصویر یا آئینہ وغیرہ کو چونے
میں لگانا -

بروئسل { برسلز جو ایک مشہور شہر ہے
بروکسل

بروسی - ملک پرشیا سے منسوب -

بروسیا - (معرب پرشیا) ریاست پرشیا جو
ممالک جرمنی میں سب سے بڑی ہے

بروصی - (معرب ہندی) لنگر

بروفہ -

بروودہ { (معرب ایتالیائی پروا) مقدم کشتی
بروؤہ { ناؤ کا اگلا حصہ

بروفہ - (معرب ایتالیائی پروا) پردہ

الصصح - زیر طبع کا پہلا پرچہ یا نسخہ جو
تصحیح کے لئے دیکھا جاتا ہے -

بروک - (دیکھو) (فروج) -

بروکسل - (معرب باسل) ملک بلجیم کا

پائے تخت - جوئیس اور شطرنجی کے لئے

مشہور ہے -

بروئٹز { برینٹز
بروئٹز

بروہ - (معرب ایتالیائی پروا) پردہ

برہ - (مولد) لمحہ

برہان - کسی امر کو استدلال سے قائم کرنا

برہتہ - لمحہ

بری - تراشنا - چھیلنا -

بریٹون - (معرب فرانسیسی پیرٹوس)

پرودہ شکم - آنتوں کی جھلی

بریتہ - کسی ملک کی بڑی قوت - صیف بڑی -

برید - چار فرسخ ۱۱۵۲۰۰۰ - انگل

برید - (معرب لاطینی وریڈس) اصل میں

فارسی ہے عربی میں بھی فارسی کے واسطے

سے لیا گیا - ڈاک - ایک جگہ کا نام ہے -

بڑھینر بیدان - (معرب پرنڈنٹ) میر مجلس

بڑھیا نیا

بڑھیا نیہ } وہ جزیرہ جو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ
بڑھیتون } پر مشتمل ہے۔

بڑھیا نیہ - (معرب برٹن) ملک انگلستان

بڑھیو - (معرب ایٹالیائی پیمو) اولاً

بڑھینہ


بڑھیمہ } (معرب انڈسی باریا پھرا) اسکرو

بڑھینہ } پیچ کش

بڑھیہ - (معرب فرانسیسی برو) لکڑی کا صندوق

جس میں چینی یا لوہے کا برتن رکھ کر یا بیجا

پھرتے ہیں۔ سلطنت کی بڑھی طاقت



بڑھ - ملل - باریک کپڑا۔

بڑھابورت یا بڑھابورٹ - پاسپورٹ

پردانہ راہداری -

بڑھارستان - پارچہ فروشوں کا بازار۔

کپڑے بیچنے والوں کا بازار۔

بڑھبور - ٹونٹی


بڑھدرہ - پرندوں کی پرورش اور شکار کا فن

بڑھ - مولد - ریشم کا کیر یا انڈا

بڑھرخضر مکنار - (صحیح بڑھچہرا) لقب وزیر

بڑھتک - بے غیرت - دیوت - بھڑوا -

بڑھیر - ٹڈی -



بس - کافی - فقط

بسنابورت - پاسپورٹ - پردانہ راہداری

بساط - شطرنجی - دری -

بساطہ - سادگی - سادہ ولی

بستان - رمنہ - باغ - باغ خرم

بستج - پستہ

بستوق - مٹی کا کوزہ

بستہ - عورتوں کا سینہ بند۔

بستہ } ڈاک

بسطہ

بسد - موٹکا - مرجان

بسکلیت - بانی سیکل

بسکوتی - بسکٹ -

بسیلہ - مٹر -

بستہ - گربہ - بتی

بسیطہ - سادہ - سادہ دل

بسیطہ - روسے زمین

بِقِسْمَاط - ایک قسم کی روغنی روٹی۔

بیک - (سرب بیگ) ایک خطاب جو پاشا

سے کتر ہے۔

بیکالوریوس تجارتہ } بیکالوریوس تجارت
بیکالوریوس تجارتہ } بیچلر آف کامرس

بیک باشتی - بین باشتی - میجر۔

بیکرہ - بکرہ - گل - گمرنی - علم الجین (بیکانگس)

بیکرہ خیطان - دھاگے کی ریل

بیکلک - ضبط کرنا۔

بیکلہ - بسوا - جمع بیکل

بیکلوری - بیچلر گراجویٹ -

بیکلوریا -

گراجویٹ کا درجہ

بیکلیک - ریاست سلطنت - خزانہ

بیکوریہ - نخت زادگی -

بیکیز - سویرا -

بیکین - پکن جو چین کا دارالخلافہ ہے -

بیلاد المجر - ملک ہنگری -

بیلاد عثمانی - سلطنت ترکی -

بیلاد متشایدہ - غیر جانب دار ممالک -

بیلاس - پلاس - ٹاٹ (بلوس و بلیس) جمع

بیلشس - بلا قیمت - مفت

بیلاص - بلا صی - گھڑا - منکا - جمع بلائیں

بیللاط - شاہی مصاحبین - پتھر کا فرش - قصر شاہی

بیلآعہ - پرنالہ

بیلآغ - رپورٹ - نوٹس

بیلآغات - جھوٹے بیانات -

البلاغ الآخر - اعلان جنگ الٹی میٹم -

بلاغ الرسمى - سرکاری اعلان

بلاغ کاذب - ایذارسان اطلاع - جھوٹا الزام

ببلاق - بندر - جزیرہ

ببلاق نقفہ - بلا خرچ -

ببلاقہ - مشاط - دایہ - والی جنائی - ماشطہ

ببھی کہتے ہیں -

ببلا نین - پانینم -

ببببال - سختی غم (ببببال) جمع

ببببل - لٹو - بھوریا

ببببستان - بلوچستان

ببببکی - بلخیم سے منسوب

ببببیک

ببببیکا

ببببیکہ

ببببیم

بلچیکہ - تھوک فروش -

بلخ - کچی کھجورین -

بلخستان - بلوچستان -

بلدرجین - ایک قسم کا پرندہ

بلدیہ - مینوسپل کمیٹی

بلیط و بلیط - بے خبر - بے ہوش -

بلنچھی - بل وصول کرنے والا - وہ شخص جو

سپاہ کے ساتھ راستہ کی درستی کے واسطے

جائے - چیراسی - جلاؤ -

بلیطو - اور کوٹ بڑا جتہ

بلیطہ - کلبارا -

بلیغار - بلیگیہ یا کے باشندے -

بلیغاریہ - ملک بلیگیا -

بلیغراد - بلگریڈ

بلیغاریہ یا - بلقان کی ایک ریاست یعنی بلیگیا

بلیغریڈ - شہر بلگریڈ

بلیغنا - شہر بلوٹا

بلقان - جزیرہ نما بلقان

بلک - فوج کا چھوٹا دستہ

بلکون - بالاخانہ برآمدہ

بلکی - بلکہ - شاید -

بلنٹ - سنگ مرمر - ہاتھی دانت - عاج -

بلوسٹیون - انار

بلوک - پلٹن (پیادوں کی) پیدل فوج

بلک کا ایک حصہ - ضلع - تعلقہ

بلوک اینین (سکوارٹر ماسٹر
بلوک ادیب)

بلہوویہ - مصر کے میناروں میں سے ایک مینار

کا نام ہے جس کو اب ابو الہول کہتے ہیں -

بلہیت - ریل کا ٹکٹ - سند

بلیج - جہاز کا کمرہ

بلیڈ - پلید

بلیٹوٹ - پلائی سوٹھ - انگلستان کا بندرگاہ

بکم - اونچا سر -

بمقضی الرخصتہ - بموجب اجازت

بٹاؤ - ہمار - راج - میر عمارت

بٹات عمیر - جھوٹ - غرور

بٹاؤرہ - ولایتی بیگن -

بٹاتی - خانہ دار الماری - پیچن ہول

بٹاؤ مرغاریہ - راج

بٹنت - گنجفہ کی رانی

بنٹو - فرانس کا طلائی سکہ قیمتی (۵۵) (۵۵)

- مساوی (۲۰) فرینک

بنج - کلوفارم - بیہوشی کی دوا - ہنگ بوزہ

بنجر - پتھندر - ایک قسم کی تریکاری -

بنجر - سورخ توپ - لولہ

بنجھیکہ - اہل خراسان

بنڈ - تالوں کی دفعہ - شرط - نشان - بڑھنڈا

مکرو حیلہ - (ہنود) جمع

بنڈارہ - کیسہ دار

بنڈر - بندرگاہ - بخاری شہر - سمندر کے کنارے

پر کا شہر - جمع بناؤر

بنڈقہ - غلہ - گلولہ -

بنڈقہ - گولی -

بنڈتی - ایک سکہ ہے -

بنڈقیہ - بندوق رائفل -

بنڈقیہ الابرہ - سوئی کی بندوق

بنڈوقیہ بطلقین - دونالی بندوق

بنڈوقیہ - ایطالیہ کا مشہور شہر وینس -

بنڈیرہ - علم - جھنڈا

بنس - پنس - انگلستان کا ایک سکہ قیمتی کہلاتے

بنش - چمچے اور جتے وغیرہ کی قسم کا

بیراہن -

بنقبول - گھڑی کا پنڈولم

بنٹ - بالاس کے کشتی -

بنطلاطون - پٹلون - انگریزی پاسجامہ

بنطلون - پٹلون - پاسجامہ -

بنطلوفل - سلیمہ - جوتی -

بنک - بینک - صرف خانہ - جمع ہنوکہ

بنک الائمہ - قومی بینک -

بنک الماتی شرقی - جرمنی کا شرقی بینک

بنک زرعی - اگری کلچرل بینک

بنک عثمانی سلطانی - ترکی سلطنت کا

بنکام - ریت کی گھڑی - پانی کی گھڑی

بنیار - انجیر

بنیہ سلمیہ - واقعی - حقیقی - بونا فائیڈ -

بنیقہ - جتہ - جسامت - کاغذی - قالب -

بوابات - پھاٹک - دربان - حراس

بوابہ - پھاٹک

بواق الکلمہ - بحساب فی لفظ

بوالس - جہاز یاریل میں مال روانہ کرنے کی

بلٹیان - رسیدیں - جسکے ذریعے مال بڑھ ہوتا ہے

بَوَالِصُ الدَّرَج - ادائیگی ہندیاں - بلنیاں

بوتاسہ - دیکھو تاسہ

بوتقہ - دیکھو (بوتقہ) کٹھانی - سار کی کھصیا

جس میں وہ سونا چاندی گلاتا ہے نیوس

بوتخو - ایک چاندی کا سکہ ایک روپیہ قیمت کا

جو الجیریا میں رائج ہے -

بوجہ - (معرب بحث) موازنہ

بودرہ - پودر

بورقہ { دیکھو بوتقہ

بورقہ

بوڈ - بوڈ

بوڈی - بوڈ مذہب کا پیرو -

بوڈینہ - ایک قسم کی فرنگی مٹھائی -

بوڈ - (معرب بوڈ) بد مذہب کا بانی

بوڈی - (معرب) مستعد بوڈ - بدست -

بوڈست - بد مذہب کا پیرو -

بور - (معرب انگریزی پورٹ) بندر بندوگاہ

بور آثر - (معرب پورٹ آف سحر) ملک کوریا

کا شہر بندرگاہ -

بورٹ - (معرب انگریزی پورٹ)

بندرگاہ - بندر -

بور شہموت - (پورٹس موٹھ) ایک مشہور

بندرگاہ -

بور توغالی - پرتگالی -

بور توغالی - پرتگالی

بورڈہ - ٹھنڈی ہوا کھانا -

بورڈہ - دیکھو بارودہ

بورڈو (سولڈ) ٹھنڈی ہوا کھانا -

بورٹس { (معرب فرانسیسی بورٹس) صرف خانہ

بورصہ { دارالمعاملہ - بینک -

بور سعید - (معرب پورٹ سعید) ایک بندر

کا نام جو نہر سے زبردست ہے -

بورصہ - مہاجنی - صرف خانہ - حترافہ

بورصہ مالیتہ - حترافہ ہنڈی کا بازار

بورق - (معرب بورہ) سوڈا - سہاگہ -

بورگ - سوڈا - سہاگہ -

بورکن - (معرب) لاک برگنڈی -

بورہ - دیکھو بارودہ

بورہ - (معرب فارسی بوریا) چٹائی حصیر

(مصری قدیم) ایک قسم کی مچھلی -

بورہ - حقہ - بگل - ٹرپ

بوریا { چٹائی - حصیر -

بوریا

بُوڑے - { شراب کی دکان -
بُوڑو - شراب کی دکان

بُوڑو - شراب کی دکان
بُوَس - بوسہ

بُوَسْتہ - { پوسٹ آفس - ڈاک خانہ (معرب)
بُوَسَطہ { اطالیائی بوستا

بُوَسْتہ عمومیہ - پوسٹ آفس صدر ڈاک خانہ
بُوَسْتہ محلیہ - مقامی ٹیہ خانہ - لوکل ڈاک خانہ

بُوَسْتو - سینہ بند

بُوَسَطِجی - چھٹی رسان

بُوَسَطہ - ڈاک خانہ - پوسٹ آفس -
وامع ہو کہ تائے قرشت کے ساتھ فصیح

بُوَسَطہ عمومیہ - صدر ٹیہ خانہ - پوسٹ آفس
جنرل -

بُوَسفور - بھاسپورس (سمندر)

بُوَسش - (مولد) مصدر تبویش - مولیشی
کو چہرہ گاہ میں چھوڑنا - خالی - حق - لغویا -

بُوَسس - نل - گھرا -

بُوَسَلہ - قطب نما -

بُوَطا - (معرب انگریزی بوٹ) جوتا - موزہ
بُوَطقہ - وہ کیتلی جس میں پانی گرم کرتے ہیں

بُوَطکہ - (معرب فارسی بوٹہ) مونس

بُوَغاز - (معرب ترکی) بحری دریا - دریا کا

دہانہ - آبنائے دشوار گزار راستہ

جمع - ہواغیر

بُوَوقہ - (معرب) دعوت کا کمرہ - کھانا کھانے

بُوُوق - تڑہی - قرنا - بچل - ترم - باطل -

کذب وہ شخص جو بھید کے عند پر کرنے پر

قادر نہ ہو - جمع ابواق

بُوُوقال - بے دستہ کا کوزہ - مٹی کی دوات -

بُوُوق - ٹکٹ -

بُوُوقل سکری - ذیابیطس -

بُوُولاد - فولاد - استرہ -

بُوُولتن - خبر - کیفیت - بلٹین کا معرب

بُوُولصہ - چاک - رسید - ہنڈی - بل -

جمع بُوُوالص

بُوُولوک - دستہ فوج -

بُوُولونیا - پولینڈ -

بُوُولٹیکا - سیاسی بدیر نکلت - مکرو فریب

بُوُولٹیکی - عالم سیاست - سیاسی -

حکیم - دانشمند -

بُوُولوار د شہر پیرس کی ایک خوش نام سڑک

بولیس - پولیس تھانہ دار

بولیصہ - بل ہندی - رسید جمع بولس
بولیصہ آبیک -

بولیصہ شخن - مال کی رسید جو جہاز
بولیصہ شخن - آپرلا داجا ٹیے لٹی

بولیصہ سکہ جدید - ریلوے کی رسید

بولیصہ - ایک قسم کا روغن

بولیصہ بارو - گولوں سے اڑا دینا

بولیصہ بیسی

بولیصہ - آلو

بولیصہ طہنج - کھانے کے مصالح -

بولیصہ - عرب ترمی - روغن - وارنش

بولیصہ - روغن کرنے والا -

بولیصہ - روغن وارنش

بولیصہ - (دخیل قطبی) تین سو رطل

بولیصہ اللون - رنگ کا بدل جانا -

بولیصہ - اہانت - انسٹ -

بولیصہ - کھوٹا سکے - رومی چیز

بولیصہ - (عرب فارسی پرہیز)

بولیصہ - (عرب ہندی بہت) سل جو

دودھ میں پکایا جائے -

بولیصہ - (عرب پہلوان) بازی گر -

بولیصہ - ہزال (بہالین) جمع

بولیصہ - بڑا مال یا کمرہ

بولیصہ - ایک قسم کا ملکی خطاب پاشا سے

بولیصہ - نیچے کا -

بولیصہ - شخن مارنا -

بولیصہ - (عرب فارسی پیادہ) شطرنج

بولیصہ - اکاہرہ - ایک پھول کا نام -

بولیصہ - درخت بید - انگور کی ایک قسم -

بولیصہ - پیادہ فوج -

بولیصہ - کنواں صاف کرنے والا -

بولیصہ البیض - اندھے کی سفیدی -

بولیصہ الوجہ - سفیدہ کا شغری -

بولیصہ - اسفیدارچ -

بولیصہ - طرز - طریقہ - روش

بولیصہ الواقعة - جرم کی تفصیل

بولیصہ (دخیل ارامی) مجرائے آب -

بولیصہ - پانچمانہ

بولیصہ الاکل - کھانے کا کمرہ -

بولیصہ الاضطار - دیناگ روم - پتھر نے کا کمرہ

بَيْتُ الْبَرِيدِ - ڈاک خانہ - پوست آفس
بَيْتُ الْحَرَمِ - وہ مکان جس میں نماز
یا قیدی رہتے ہیں -

بَيْتُ الرَّاحَةِ - پایخانہ - بیت الخلاء -
بَيْتُ السَّلَاحِ - بارود کا مخزن -
جہاز سازی کا کارخانہ -

بَيْتُ الْعَرَبَاتِ - گاڑی خانہ
بَيْتُ الْعُلُومِ - یونیورسٹی

بَيْتُ الْقَعُودِ - بیٹھاک نشست گاہ
گول کمرہ -

بَيْتُ الْمَاءِ - پایخانہ

بَيْتُ الْمَالِ - خزانہ عامہ

بَيْتُ الْمَوْزَنَةِ - مودی خانہ - نعت خانہ
تہ خانہ -

بَيْتُ الْوَحْشِ - درندہ پرند کا عجائب خانہ

بَيْتُ مِصْرِيٍّ - ایک آلہ جس میں صورت
کا عکس کاغذ پر پڑتا ہے -

بَيْتُ مُظْلَمٍ - عکس تصویر کھینچنے کا صندوق
یا کمرہ

بَيْتُ الْجَوْجِيَّةِ - (معرب یونانی بیدار گوی)
علم التعلیم -

بَيْدَرٌ - (مخمل سریلانی) خرمن گاہ -

بَيْدَقٌ - (معرب فارسی پیادہ) شطرنج
کا مہرہ - پیادہ فوج - لاجل پیدل سپاہی

بَيْدَقٌ - (معرب فارسی پیادہ) رہنما
پدرقہ - پیدل -

بِيرٌ - ایک قسم کی شراب - بیر -

بِيرٌ أَسْوَدٌ - کالی بیر -

بِيرٌ أَضْفَرٌ - زرد بیر -

بِيرٌ أَرْتَوِيَّةٌ - (معرب فرانسیسی آرٹیشن) دل
نافوزی کنواں جو کل کے ذریعے

کھودا جاتا ہے اور نل سے پانی

نکلتا ہے -

بَيْرُ حَبِّهِ - دیکھو (بارجہ)

بَيْرُ حَقٍّ - (معرب فارسی بیرہ) نشان

علم - جھنڈا - پھر یا نذر باریق)

جمع -

بَيْرُ حَقِّ الدَّوْلَةِ - قومی جھنڈا

بَيْرُ حَقِّ - (معرب فارسی بیرم) برہمنیقب -

بَيْرٌ مَحْفُورٌ - نافوزی کنواں -

آرٹیشن دل -

بَيْرٌ مَعْطَلٌ - پیکار کنواں - ناکارہ باولی

بیرمون - (مغرب یونانی پر مبنی) وہ
 اوز جس میں عیسائی رُو زور رکھتے ہیں
 عیدِ فصح - میلاد اور عقیقت سے
 پہلے واقع ہوتا ہے۔

بیرون - (مغرب یونانی بران)
 تاجِ اسقف۔

بیرہ - (مغرب ایتالیائی پرا) بیر۔
 ایک قسم کی شراب جو جو سے تیار
 ہوتی ہے۔

بیراز - (مغرب فارسی بازیار) باروار
 (بیازرہ) جمع۔

بیتہ - (مغرب یونانی بسوس) روٹی
 کا ٹوٹا کپڑا۔

بیشکش - (مغرب پیشکش) ارمنستان
 بیض برشت - نیم برشت انڈا
 بیض ظری - تازہ انڈا۔

بیظ - (مغرب بیطار)
 بیعہ - (مغرب ارامی) کلیسا۔

بیجِ الجملہ - { تھوک فروشی - تھوک پری
 بیجِ الجملہ -
 بیجِ المصرق - خردہ فروشی

بیجِ الوفا - شرطی فروخت۔

بیجِ بالمر ایدہ - ہراج کے ذریعہ چھپنا
 بیجِ علی - فروخت آشکار - پینک سیل۔
 بیجِ وفائی - از میر نو خریدنے کا اختیار۔

بیقتیہ - (مغرب یونانی بلیک) ایک
 نبات کا نام

بیک باشی - (ترکی بک) ایک لقب
 جو وزرا و امراء اور دوسرے معزین
 کو دیا جاتا ہے۔ فوج میں بیجر کا لقب
 ہوتا ہے۔

بیکار - (مغرب پرکار) کمپاس
 بیکارہ - (مغرب فارسی پیکار) حرب
 جنگ۔

بیک باشی - (مغرب ترکی) میجر فوجی
 عہدہ دار۔ ایک ہزار سپاہی کا
 بلیا رُوڈ - انٹے کا کھیل۔

بیلون - (مغرب یونانی پیلان)
 گل مرثوے - صابون ہندی۔

بیلیا رُوڈ - (مغرب انگریزی بلیروڈ) ایک
 کھیل جو میز پر چھوٹے گولوں سے
 کھیلا جاتا ہے۔

تَابُورَةٌ - (دخیل ترکی) فوج کا دستہ
(توآبیر) جمع

تَابُورُكُوكُهُ - صفوں کی درستی

تَابَةٌ - مرکب ہوائیہ { غبارہ - بیلون -

تَابَاتَارُ - (دخیل ترکی) پیک - قاصد

تَاجُ - (دخیل فارسی) افسر تاج - اکیلیں
(تہجان) جمع -

تَاجِرُ قَطَاعِي - بساطی پھیری پھرنے والا

تَاجِرَةٌ - (دیکھو) تاجرہ

تَائِخَةُ - (تختہ کا بگڑا ہوا) چاند ماری

تَائِخَةٌ - لوٹ جانا - وظیفہ لے لینا

تَائِخَةُ الْأُمَّةِ - (مولد) قوم کی پستی - تنزل

تَائِخَةُ السَّاعَةِ - (مولد) گھڑی کا سمت
ہونا - گھڑی دیر سے چلنا -

تَائِخَةُ سُنُوتِيَّةٍ - ذرا پیچھے ہٹو -

تَائِخَةُ السَّاعَةِ - گھڑی کو سمت کرنا -

گھڑی کی سوئی پیچھے کرنا -

تَاوِيَةُ الْيَمِينِ - خطوط اہرام

تَارُ - سرنگی - دوتارہ - کہا پنچ

تَارِيحُ الْمَعَالِمِ - یادگارین

بِمَارِشْتَانِ - (دخیل فارسی) دارالشفافہ
ہسپتال -

بَيْنُ الطَّلُوعِ وَعَيْنِ - درمیان صبح و شام
یعنی دوپہر -

بِنِيكُ كُنْدَرَه - بنک آف لندن

بَيْتِيَّةٌ - ثبوت - گواہی - شہادت - وہ بیان

جو حق و باطل میں فصل پیدا کرے -

بَيْتِيَّةٌ عَرَضِيَّةٌ - شہادت قرآنی - شہادت

قرآنی و حالات -

بِيُورِدِي - (دخیل ترکی) حکمنامہ کو توال

فرمان قراول - فرمان شاہی -

بِيُورِدِي - (دخیل ترکی) دیکھو (بیوروی)

فرمان شاہی -

بِيُورِدِي - (بیا لوجی) علم الحیات

بَابُ التَّاءِ

تَابِغٌ - ٹکٹ اسٹامپ

تَابِلٌ - (دخیل امامی) حویج - حاجتیں -

(توآبل) جمع

تَابُورٌ - خط -

تاریخ طبیعی - نیچرل ہسٹری - حیوانات
کی تاریخ -

تازجہ - (معرب فارسی بواسطہ ترکی) دستگا
بڑھیوں کا وہ تختہ جس پر وہ کام
کرتے ہیں -

تازہ - (دخیل فارسی) تازہ نو - نیا

تازمی - (معرب فارسی تاز) تازندہ -

کیونکہ اوائل اسلام میں اہل عرب
ایران میں بہت تاخت تاراج کیا

کرتے تھے -

تاسومہ - جوتا - پاپوش

تاسیس - بنیاد - تعین جائے سکونت یا
کاروبار -

تاسیسات میریہ - سرکاری عملے و فوج -

تاشیر - (معرب) نفاذ پر مہر کرنا - شرح کرنا -

تاشیر علی التذکرہ - ٹکٹ ریل کا لیکر

گاڑی پر سوار نہ ہونے کا سبب

ٹکٹ پر پیشینہ ماسٹر سے لکھوانا -

تافشیا - دیکھو (تافشیا)

تاکسیکو لوجیا - (معرب) علم السوم -

تالیف - خراب کرنے والا -

تالیف - (مولد) کیٹی - انجمن یا مجلس کا نام کرنا -

تالیف الوزارة - وزارت کا منتخب کرنا -

تامور - خون دل - شیرستان - رنگ سرخ -

دیر راہب - جائے راز بینی دل

تاموزہ - دیر راہب - گر جا -

تامول - (معرب سنسکرت) تامبول بواسطہ

فارسی - تمبول - پان -

تامین - (مولد) بیمہ انشورنس - ڈپارٹ

امانت -

تامین ضد الحریق - آگ کا بیمہ - بیمہ

تامین علی الحیات - زندگی کا بیمہ کرنا -

تامین علی تذکرہ الاشترک - ٹکٹ ریل کا

لینے والی کو حسب قانون مصر کسی قدر پر

بطور ضمانت کے رکھنا ہوتا ہے - اور وہ

روپیہ میعاد گزار جانے کے بعد واپس نہیں یا

جاؤ - ٹکٹ ضبط ہو جاتا ہے -

تیاری کرنا -

تاسی - جمع - (تسی) سینی جس پر کا بیان

کھانے کی رکھی جاتی ہیں -

تباشیر - (معرب ترکی) سفید مٹی جسے کھریا

کہتے ہیں -

تباغاً - (مولد ضمیرہ کے طور پر

تبان - تنبان

تبخیر - ۵ - (ذیل ترکی) دیگرچہ تانبے کی دیگر

تبدیل التبتہ - ہراول کا بدل دینا -

تبر - سونے چاندی کی کچی دھات -

تبر فوج - (مغرب کلدانی) مہذب ہونا

تبدل ہونا - پالش کیا ہوا ہونا - عیقل

کیا ہوا ہونا -

تبرع - (مولد) عطیہ دینا - عطیہ

تبروز - (مغرب) چونکھٹے میں تصویر یا

آئینہ کا ہونا -

تبرینج - ستاروں کے ذریعے پیشین گوئی

تبریش - برش کرنا -

تبرسی - (ذیل ترکی تپسی) سینی برتن رکھنے

کی قاب - خواجہ طشت جس پکھانا

رکھ کر کھاتے ہیں - (تباسی) جمع

تبرشیر - بی بی مریم کی دعا - عیسائیوں کی

ناز سے پہلے گھنٹہ کا بجانا -

تبعہ - جمع - (تابع) رعایا -

تبعیت - قومیت - رعایا ہونا -

تبع - سوکھا تباکو

تنگیر - سویرے اٹھنا -

تنگیل - (مغرب) بگوس لگانا - بن لگانا -

تیلور - بلویرس پنا

تیلیند - (مولد) کسی شہر کی آب و ہوا کا موافق

آنا یا عادی ہونا -

تیلیط - (مغرب) سنگین فرسش کرنا -

کام موقوف کر دینا -

تہن - (ذیل ارامی) اکاہ - گھاس

تہورا تش - شلک مانا -

تہور گفتیش - ہریت کا معائنہ

تہینت - شب کے وقت فوج کا ٹھہرنا

تہینض - (مولد) قلعی کرنا - سپیدی کرنا

تہن - (مغرب ترکی) توتون) تباکو

تہویج - ہاجوشی -

تہمین - اندازہ - جانچ - آنکھ -

تہمین البصاعہ - اسباب کی قیمت لگانا -

تہمینہ - توراہ کی پانچویں کتاب جو قانون

پر مشتمل ہے -

تہنۃ الاشتراع - (مولد) توراہ کی پانچویں

تجارۃ الالبیتہ - ملکی تجارت - سودی بیوپار

تجارۃ حرہ - (فری ٹریڈ) آزاد تجارت -

تجارتہ دارخلی - اندرونی بیوپار -

تجاوز المأموریۃ - غیر معمولی اقتدار -

تجاہ - سامنے - مقابل -

تجدید مجلس الشوری - پارلیمنٹ کا انتخاب -

تجدیر - سادہ مادہ سے بتدیرج وجود مرکب

بن جانا -

تجدیب - تھک جانا -

تجزیہ - امتحان - آزمائش -

تجزیہ و - غیر جانب داری

تجشیم - تکلیف دینا

تجفاف - (سرب فارسی تن پناہ) زہ

خود - بکتر - پاکر -

تجلید - (مولد) جلد - چمڑا - جلد باندھنا -

تجمع الفائدہ - سود کا حاصل ہونا -

تجمید - (مولد) ساکل یا گیس کو ٹھوس

بنانا - سیالات کا کمی حرارت کے باعث

ٹھوس ہو جانا -

تجوڑ - کمو کلا ہونا

تجہیز - کسی مال کا تیار کر دینا

تجیل - دوپہر کے وقت فوج کا قیام

کرنا -

تحت المرافعة - زیر مقدمہ

تحتجب - بزدل ہونا -

تخری - تلاش کرنا - ڈھونڈھنا -

تخریر - (مولد) خط - نوٹ - یادداشت

تخریز - تجویز کرنا -

تخریق القیل - (مولد) دریائے نیل کا پانی

کم ہو جانا یا اتر جانا -

تخریق البحر - دریا کا پانی گھٹ جانا

تخریب - گروہ بنا

تختیہ بالموئدہ - دلایا بنانا

تخصیل حی - کلکٹر جمع کرنے والا -

تخت - (سرب ترکی تخت) عجیب و

غریب چیزیں -

تحقیق الفرض - حصول مدعا -

تحقیق شخصیہ - شناخت - پہچان -

تخلیم - فیصلہ - پنچایت - ثالثی فیصلہ

تخلیل کیمیائی - (چیزوں کا اصول)

تخلیل کیمیائی - علم کیمیا کے مطابق

تجزی یا حل کرنا -

تخلیہ - میٹھا کرنا

تخوئل - (مولد) عبارت نظری - سکار -

ہنڈی کرنا۔ منی آڈر کرنا۔

تحویل اللیون۔ قرضوں کا انتقال
تحویل اوراق تجاریہ۔ پشت پر
فروخت کی تحریر۔

تحویل سفینج۔ چک۔ بل۔ ہنڈی۔
مسودہ تحریر کرنا۔ ہنڈی یا رقم کے
ذریعے منتقل کرنا۔

تحویل علی الیرید۔ منی آڈر کرنا

تحویل علی ابومسطہ۔ منی آڈر کرنا

تحویل علی المشتري۔ دی پی کرنا۔

تحویل کنبیالہ۔ ہنڈی۔

تحویل مقبول۔ وہ ہنڈی جس کو تسلیم

کر لیا ہو یعنی جسکی رقم ادا کر دی جائے

تحتیہ العسکر۔ فوجی سلام

تحت۔ (دخیل فارسی) کوچ۔ پلنگ۔

تحت الکتائبہ۔ (مولد) بلاک بورڈ

سیاہ تختہ جس پر درس لکھ کر تفسیر کرتا ہو

تحت المہاک۔ (معرب) پائے تخت)

در السلطنہ۔

تحت بوش۔ (معرب فارسی تخت پوش)

نشست گاہ۔ مردانہ نشست گاہ۔

مردانہ مکان۔

تخت۔ (معرب فارسی تختہ) لکڑی کی تختی
(تخت) جمع۔

تخت روان۔ (معرب فارسی تخت روان)

تخت روان۔ پاکلی۔ زمانہ ہودہ۔ جگہ

تخریج۔ کسی مدرسہ سے سند حاصل کر کے

نکلنا۔ فارغ التحصیل ہونا۔

تخریج الثیاب۔ (مولد) کپڑا قطع کرنا۔

تخریج المدرسہ۔ (معرب) مدرسہ یا کالج

کا فارغ التحصیل طلبہ پیدا کرنا۔

تخریض۔ (معرب تریز) قبا۔ شاخ جامہ

تخشب۔ خشک چارہ پر گزارہ کرنا۔

تخصیص الائمہم۔ بٹوارہ (حصوں کا)

تقیم حصص۔

تخطوان۔ (معرب تخت روان) پاکلی

تخلیص علی المکتوب۔ خط پوسٹ کرنا

تخم۔ (معرب) سرحد

تخول۔ عطا کرنا۔

تخیط۔ مردہ جسموں میں سرسٹے سے محفوظ

رہنے کے لئے خوشبو میں بھرنا۔

تداخل۔ مداخلت

جسم کے اجزائے جسم کے اجزائے جسم
جیسے شکر اور پانی وغیرہ

تذکار (مولد) یادگار

تذکرۃ البوسنة - پوسٹ کارڈ

تذکرۃ الذباب (ٹکٹ آمد و رفت

والایاب (ریٹرن ٹکٹ

تذکرۃ السفر - پروانہ راہداری

تذکرۃ المعاش - چھٹا

تذکرۃ النقل - بھرتی چٹھی - جہاز پر

مال پہنچانے کی رسید -

تذکرۃ جزی - پاسپورٹ دینے والا -

تذکرۃ - (مولد) پاسپورٹ - نوٹ -

چھٹی - ریل کا ٹکٹ (تذکرہ) جمع

یادگار - ڈاک خانہ - ٹھیٹر - پروانہ

راہداری - مجلس کی شرکت کا ٹکٹ -

تذکرۃ صحیحہ - جہاز کے مسافروں کی

صحت کی سند -

تذکرہ طلب - سمن -

تذکرہ عمومیۃ - سرکولر گشتی -

تذکرہ مرورہ - پروانہ راہداری -

پاسپورٹ -

تداول - (مولد) مباحثہ - باہمی گفتگو

تداول التقوؤ - سکوں کا بہرہ پھیر -

تذخین - (مولد) سگریٹ پینا - حقہ پینا -

تذرج - (مغرب تدر) کبک - چکور

تذرج - ایک شعری صنعت

تذفر - بند ہونا - روکنا -

تذلس - خیانت - مالک کے مال میں تصرف کرنا -

تذلیس - زمین کو آگ سے ہموار کرنا - فریب نیا

تذلی - (مولد) جھانکنا - لٹکانا -

تذلی من الشباک - جھانکنا - کھڑکی سے

سزکانا -

تذویر الساعہ - گھڑی کو کنا - گھڑیاں کو

کنجی دینا -

تذویر علی الشک - کسی شے کو تلاش کرنا

تذوین - رجسٹر کرنا -

تذوین - (مولد) وارنش کرنا - روغن پھیرنا -

تذکرہ - جمع (تذکرہ) ٹکٹ -

تذکرہ الشخصیۃ - مرد آدمی کے جانے اور

آنے کا ٹکٹ خصوصاً حمات مہند میں

تذویب - وہ عمل جس سے ٹھوس جسم حل ہو کر

سائل ہو جائے - وہ عمل جس سے ٹھوس

ترسانہ (اصل میں عربی دارالصناعہ)
 ترسختانہ (جو ملک اطالیہ میں جا کر ڈار سینا)
 ہوا زان بعد پورہ و پی زبانوں سے
 ترکی میں داخل ہو کر ترسانہ ہوا اور ترکی
 سے بطور خیال عربی میں ترسانہ ہوا)
 جہازوں کا کارخانہ - سلاح خانہ -
 باربر -

ترسختانہ - ویکو (ترسانہ) -

ترسو - (معرب ایطالیائی ترازو)
 باسوم - تیسری مرتبہ -

ترستہ - (معرب مصری قدیم) ایک کچھوا
 جو دریا کے نیل میں پیدا ہوتا ہے -
 ترسینہ - (معرب ایطالیائی ترازو)

ترشیدہ قصر - ایوان - محل

ترشح - کسی جاندار یا عہدے کے لئے
 امیدوار ہونا -

ترشح الماء - ہلکا کر پانی صاف کرنا -
 ترشح النفس - امیدوار ہونا -

ترصید حسابات - باقی نکالنا -

ترصیہ - (مولد) معافی مانگنا - معافی
 چاہنا - رضا جوئی -

تر - (معرب ارامی) معادوں کی رستی
 جس کی ایک جانب شا قول لگا رہتا
 تراب الأشتان - دانتوں کا منجن -
 تراب محفورہ - (علم آثار میں) کھدی
 ہوئی مٹی کے ڈھیر)
 ترا بیزہ - (معرب یونانی ترپیدزا)
 مینریش - تختہ - ڈکس - لکھنے
 یا پڑھنے کی دھلواں مینر -

ترازی - (معرب فارسی ترازو) میزان
 تراس - (معرب) قلی - گاڑی بان -
 بارہدار جانوروں کا بانگنے والا -

ترام - (معرب فرانسیسی) ٹرام گاڑی
 تراموے - ٹراموے -

تر بندہ (معرب فرانسیسی کنٹر بانڈ)
 تر بندہ مال ممنوعہ - ممنوعات کی روگری
 سے چھپایا ہوا مال - وہ مال جسکی
 جنگی چوری سے نہ ادا کی گئی ہو -

ترتیب ایثارو - استقرار و طیفہ -
 تریزی - (معرب فارسی درزی) نختا -

کپڑے سینے والا -
 ترس - ڈھال - سپر

تَرَطْوَار - (معرب فرانسیسی تر توار) شارع
 عام کا وہ حصہ جس پر پیدل چلتے ہیں۔
 تَرَع - جمع (ترعہ) نہریں - حوض -
 تَرَعہ - نہر - تالاب - نالا (دخیل ارامی)
 در - ددوازه (ترع) جمع -
 تَرَعْمَةُ السَّوَيْسِ - نہر سویر -
 تَرَعْمَةُ اِيْمَاو - گزرگاہ - مجری
 تَرَعْمَةُ عَوْد - کھانے پینے کی چیزیں - اشیائے
 خوردنی -
 تَرَقِيَّةٌ سَبِيح - لپیٹ - الجھاؤ - درجہ چڑھنا -
 تَرَكْش (دخیل فارسی) تیروان -
 تَرَكْه - (دخیل فارسی) لوہے کا خود -
 تَرَكْ -
 تَرَكِي - ترک کارہنے والا -
 تَرَكْ كِيَا - (مولد) ترکی سلطنت - ممالک ترکی
 تَرَكْمِيَّةُ الْفَتَاة - نوجوان نئے خیال
 ترکوں کی جماعت - ینگ ترکش مارچی -
 تَرَكْمِيَّة - ترکین - ترک کی عورت
 تَرَم - وقت معین
 تَرْمَس - ماش
 تَرْمَمَه - (معرب) سر داب -

تَرَن - ٹرین
 تَرْتَسْفَال - (معرب ٹرنوال) ایک ٹیک
 جو جنوبی افریقہ میں واقع ہے -
 تَرْتَسْكِيْت - (معرب ترنکیو) باوبان جہاز
 تَرْتَمَمَه - (مولد) مشتق از ترمم (عیسائی)
 مناجات کا گیت -
 تَرْتَمِيْمَةُ السَّبِيْرِيَّة - لوری -
 تَرَوُّض - (مولد) مشتق از روض
 سیر باغ - سیر و آفریح -
 تَرَوْفَر - دبر و قیل - آگ پھینچا -
 تَرِيَاق - (معرب یونانی شیریاکی) فادرہر
 تریاک - زہر مہرہ -
 تَرْتِم - مبالغہ
 تَرْتَا جَر - روکنا - پرہیز کرنا -
 تَرَاوْف - ورزش
 تَرْتَحِيْفُ الْبَيْت - گھر جھاڑنا -
 تَرْتَرِيْر - بٹن لگانا - گھنڈیاں لگانا
 تَرْتَرَكِيَّة - جوتے کا تختہ جس پر جوتے سیٹھے ہیں
 تَرْتَرَكِيْن - دوال - لگام تسمہ لگام کا -
 تَرْتَرَوِيْر - (مولد) جبل جلی کا غذا بنانا -
 تَقْلِيْب - سکہ قلب - جلی دستخط بنانا -

جبل سازی کرنا۔

تزیینت۔ جبل سازی۔ جمہوری دستاویز

تسامح۔ (مولد) بے تعصبی۔ رواداری۔

دینی آزادی۔

تسائل۔ (مولد) رواداری۔ بے تعصبی

دینی آزادی جو سرکار سے رعایا کو ملی ہو

تسایر۔ اختلاط رکھنا

تسبیح بالدور۔ بھجن

تسبیح (رجسٹری کرنا۔ رویدا یا رپورٹ

تسبیل بدون کرنا۔ کتبہ

تسبیل الحقوق۔ معاہدوں کا درجہ برقرار کرنا

تسدور۔ (معرب دستور) وہ دفتر جس میں

شکریوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔

تسدید الدین۔ قرض کا بند کر دینا۔

تسزجن۔ (معرب ترکی سورگن) جلا وطن کرنا

تسریج۔ (معرب ترکی سرچی بمعنی جبر)

رجسٹر میں نام لکھنا۔ دفتر میں نام لکھوانا۔

تسطیح۔ ہموار ہونا۔ برابر ہونا۔ مسطح ہونا

چٹاپن۔

تسقیف۔ چھت گیر بنانا۔

تسلیم۔ چھکارا۔ خلاصی۔ حوالہ کرنا۔

فوج کا اپنے آپ کو حوالہ کرنا۔

تسلیم بالشرط۔ شرط پر حوالہ کرنا۔

تسلیتم۔ زہر نہلانی۔

تسلیہ۔ نامزدگی۔ کسی خدمت کے لئے

نامزدگی۔ نامینشن

تسوس۔ (معرب) دانت کی ایک بیماری

ہڈی کا سڑ جانا۔

تسویہ تصفیہ

تسویہ مصالح منویہ۔ فینانشل اصلاح

تسویت الا فکاز۔ غفلت

تسخیص۔ (مولد) ٹھیسٹر میں ایکٹ کرنا۔

ٹانگ میں کھیل کرنا۔

تسخیص شجومی۔ وہ ڈراما جو موسیقی

کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

تسخرج۔ سازش کرنا۔

تسخرید۔ گمراہ کرنا۔

تسخریط۔ پھنسا۔ سینگلی۔ (حجارتہ)

تسخریج۔ (مولد) قانون سازی۔ قانون

تسخریجی۔ عدالتی

تسخریف۔ سعادت۔ خلعت۔ ملاقات

تسخریفاتی۔ شاہی اسٹاٹ

تَشْرِينُ الْاَوَّلِ - رومیوں کا مہینہ
 مطابق اکتوبر
 تَشْرِينُ الثَّانِي - رومیوں کا مہینہ
 مطابق نومبر
 تَشْطِيبُ الْاَسْنَاو - سیاہہ (بھی کھاتہ)
 میں اُتارنا -
 تَشْكِيْل - (مولد) عبارت پر اعراب زبر -
 زبر پیش لگانا - جماعت بنانا -
 تَشْكِيْلُ الْاَلْحُوْم - حملہ کرنے کا ڈھنگ
 منصوبہ -
 تَشْلِيْبَة - مولد گرم چیز کا ٹھنڈا کرنے کے لئے
 اندھلنا -
 تَشْلِيْح - ڈاکہ ڈالنا - مال لوٹ کر ننگا
 کروٹیا -
 تَشْمِيْنُج - (مغرب چٹمڑک) شویز -
 چاکسو - ایک قسم کی دو اجوائے ٹیکر میں ڈالی
 جاتی ہے -
 تَشْمِيْس - (مولد) پیش نماز (پیش امام)
 کی مددگاری کرنا -
 تَشْوَس - بیمار ہونا -
 تَشْوِيْس - ناسازی طبع -

تَصَاوُف - اتفاقی ملاقات -
 تَصَاوُمُ الْبَوَابِيْر - ریل گاڑیوں کا
 آپس میں ٹکرا جانا -
 تَصَارِيْفُ الدَّهْرِ - زمانہ کے تغیرات
 تَصَالُف - گردش - تغیر -
 تَصْحِيْح - ملنا -
 تَصْحِيْحُ - کمورنا -
 تَصْدِيْر - (مولد) ال باہر بھیجا - برآمد -
 نکاس - اکسپورٹ - وہ مال تجارت
 جو باک سے باہر جاتا ہے -
 تَصْدِيْرِيَانِي - مکرر برآمد
 تَصْدِيْع - سپرد کرنا -
 تَصَدُّوْت - واقع ہونا -
 تَصْرِيْح - کسی امر کے لئے سرکاری اجازت
 حکم - پاسپورٹ -
 تَصْفِيْح - کتب کی تنقید (تصفیحات) جمع
 تَصْفِيْح - پورا صفحہ چھاپنے کی تختی -
 تَصْفِيْرُ الْاَوَابِيْر - ریل کا سیٹی بجانا -
 تَصْفِيْفُ الْحُرُوْف - ٹائپ کمپوز
 کرنا - ٹائپ جانا -
 تَصْفِيْق - (مولد) چیز - تالی بجانا -

تَقَطِّعُ - سرد ہونا - چمنا
تَقْلِبُ - صلیب کی علامت

تَقْطِيعُ - سرد ہونا - چمنا
تَقْلِبُ - صلیب کی علامت
تَقْصِيحُ - (مولد) درست کرنا مرمت کرنا -
احیا - ریوالمول -

تَقْطُوَارُ - دیکھو ترطوار -
تَقْطِيبُ - صاف کرنا - پاک کرنا - مرض
متعدی کے مادے کو مار کر صاف
کرنا - ڈس انفکشن -

تَقْصِمُ - (معرب فارسی شمشہ) چمڑا جس پر
حجام اُسترے تیز کرتا ہے -
تَقْصُوْبُ - گولی مارنا - نشانہ لگانا -
تَقْصُوْبِيَتُ - (مولد) دوٹ دینا - پائے
کا ظاہر کرنا -

تَقْطِيْرُ - نشگون - فال - پرندوں سے
تقاؤل کرنا -

تَقْصُوْبِيَتُ - (مولد) دوٹ دینا - پائے
کا ظاہر کرنا -
تَقْصُوْبِيَتُ - ڈرائنگ -

تَعَارُفُ - تحفہ
تَعَارُفُ رَسْمِيٌّ - شانہ ملاقات - سرکاری
ملاقات -

تَقْصُوْبِيَتُ - ڈرائنگ -
تَقْصِيْمُ كَيْدٍ - دل کا بڑھ جانا -
تَقْصِيْمِيَاتُ - نقصان کی ذمہ داری -
تاوان - بدلہ - ہرجہ

تَعَاَصُرُ - ایک ہی زمانہ میں ہونا - ہم عصری
تَعَاَطِي الْأَشْيَابِ - تجارت - معاش

تَقْطِيعُ - (معرب فارسی طراز) زردوزی
نار دوزی کرنا -

تَعْبِيْبَةُ - نصب کرنا - قائم کرنا - عارضی موچر
تَعْدَاوُ - جاضری لینا - گنتی لینا -

تَقْطِيعُ - چمچک یا طاعون وغیرہ کا
ٹیکہ لگانا -

تَعْدَاؤُ الْأَنْفُسِ - مردم شماری -
تَعْدِيْلُ - (مولد) ترمیم کرنا - قانون

تَقْطِيعُ تَجْدِيْرِيٌّ - چمچک کا ٹیکہ لگانا -
تَقْطِيعُ تَجْدِيْرِيٌّ - چمچک کا ٹیکہ لگانا -

وغیرہ کی کمی بیشی کرنا - منظوری -
جائزہ قرار دینا -

تَقْطِيعُ - (مولد) پوری پوشاک پہنا -
نفل ڈریس میں ہونا -

تَقْدِيْنُ - کان کنی - کان میں
کام کرنا -

تَعْرِيفٌ - (مولد) شرح - محصول - جنگی -

تَعْرِيفَةٌ - مال تجارت کا بیچک - مال کی

فہرست - بل مطالبہ -

تَعْرِيفَةُ الشَّيْءِ - اجرت - بیان قیمت شے

تَعْرِيفَةٌ - ملاحظہ ہو (تَعْرِيفَةٌ)

تَعْرِيفٌ - نامناسب یا معقولیت -

تَعْرِيفٌ - پوچھنا -

تَعْرِيفٌ - ارادہ کرنا -

تَعْرِيفٌ - رات کو کھانا -

تَعْرِيفٌ - (مولد) ملتوی کر دینا - ہڑتال -

تَعْرِيفٌ - شرح - حاشیہ - نوٹ

تَعْرِيفٌ - بندش - عہد و پیمان -

تَعْرِيفٌ - خیال یا قیاس میں آنا - کانسپٹ -

تَعْرِيفٌ - تغیر - بدلتا -

تَعْرِيفَةُ الشَّيْءِ - بڑھانا قیمت کا -

تَعْرِيفَةٌ - (مولد) کمبوٹی -

تَعْرِيفٌ - (مولد) دستخط کرنا - نشان لگانا

مشق فوجی -

تَعْرِيفٌ اجباری - جبری تعلیم -

تَعْرِيفٌ المذنبین - مجرمین فوج کی ڈرل

جو بطور سزاگرائی جاتی ہے

تَعْلِيمٌ جَمْعٌ - قواعد آموز

تَعْلِيمٌ كُورْبِ الدَّارِ - بندوق چلانے کی تعلیم

تَعْلِيمٌ ضَرْبِ النَّارِ - گولی چلانے کی مشق

فائزنگ ڈرل -

تَعْلِيمٌ عَمَلِ الدَّرْوَةِ وَالتَّخْدِيقِ - سورجی

اور خندق کھودنے کی مشق -

تَعْلِيمٌ فَتْحِيٌّ - (مولد) صنعت و حرفت کی تعلیم

تَعْلِيمٌ مَجْبَانِيٌّ - (مولد) مفت تعلیم - زرعی

ایجوکیشن -

تَعْلِيمٌ الاِفْلَاسِ - عام دیوانہ ناداری

تَعْوِيذٌ عَنِ الْمَنَاحِ - کسی آب دہوا کا

عادی ہونا -

تَعْوِيْضٌ - مکافات - بدلہ - تاوان نقصان

کی ذمہ داری - حرج - نقصان -

تَعْوِيْضَاتٌ - ہرجہ - خسارہ - معاوضہ -

تَعْوِيْضُ الخَسَارَةِ - عوض نقصان

تَعْوِيْضٌ مُدَنِيٌّ - معاوضہ دیوانی - سرکاری حرج

تَعْيِيْنٌ - کسی خدمت پر تقرر -

تَعْيِيْنٌ فِي الْجَنْدِيَّةِ - فوج میں بھرتی ہونا -

تَعْيِيْبٌ - کسی کی نسبت اظہار رائے -

تَعْيِيْشٌ - اشیاء بنانا -

تغنیٰ - معائنہ - نظارت -
تفتیشِ عموم السجون - سررشتہ محاسب -
پرینڈن ڈپارٹمنٹ -
تفتیک - روئی و سٹکنا
تقریح - (مولد) - مخارج الہوا سے ہوا کا خالی
کرنا - گاڑی سے اسباب اٹارنا -
تفسیرہ - فارورہ
تفصیل - قطع کرنا
تفصیل الثیاب - کپڑے قطع کرنا -
تفاسجی - (دراصل تفنگچی) زرہ ساز
تفاسجیہ - شاہی محافظ - خراج لینے والا -
تفلیس - دیوالہ
تفلیسہ { دیوالہ
افلاس
تفنن - تفریح - شوق - میل
تفویل الطیور - پرندوں کے اڑنے سے
شگون لینا -
تقارض - مشارعہ کرنا -
تقاریر سیرتہ - رازکی رپورٹیں -
تقاعد - پنشن لینا -
تقاؤہ - کونا -

تغینین
تغینات { فوجی راتب - خوراک
جرایہ
تغار - (ذیل فارسی) لکڑی کا طشت ٹب
تغذی - صبح کو ناشتا کرنا -
تغزید - بلبل کا چھپانا -
تغزیم - ضبطی
تغفور - دیکھو (تکفور)
تغم - دیکھو طنم
تغیر الإستجاہ - فوج کے سامنے کے حصہ
کو دینا -
تغیر الودع { مقام کا بدل دینا
تبدیل بری
تغیر علی البحر - (مولد) مرہم پٹی کرنا -
تف - بٹول
تفاس - جھوٹا دیوالہ
تفاسیر - سوزہ - جوتا -
تفناہ { (عرب فارسی تافہ) تافہ جو ایک
تفتہ قسم کا پتہ ہے -
تفتہ - قرمز
تفتیش - (مولد) حلقہ - دائرہ - تنقیح -

تَقَالِيد - رسم و رواج -

تَقَدَّمَ - کرتی -

تَقَدَّمَ السَّاعَةَ - گھڑی کا تیز ہونا -

تَقَدَّمَ - نذر - نیاز - چڑھاوا - تحفہ

(تَقَادِم) جمع

تَقْدِيم السَّاعَةِ - گھڑی کا تیز کرنا -

تَقْرِيرٌ - رپورٹ - سند - سرٹیفکٹ (تَقَارِيرٌ)

تَقْرِيرٌ اَلْحَبِيْرُ - اسپرٹ کی رپورٹ

تَقْرِيرٌ السُّوقِ - مارکیٹ رپورٹ -

بازاری رپورٹ -

تَقْرِيرٌ سَنَوِيٌّ - سالانہ رپورٹ

تَقْرِيرٌ مَقْطُوعٌ - جھوٹی رپورٹ

تَقْرِيرٌ مَخَالِيْفَةٌ - انسپکشن رپورٹ

تَقْرِيرٌ نِيْرِيٌّ - لکھا ہوا ثبوت - نوشتہ

تَقْسِيْمٌ - قسط بندی

تَقْطِيْرٌ - کٹ پکڑنا - بوند بوند پکانا -

تَقْلَبٌ - تغیر - کمی و بیشی -

تَقْلِبُ الْأَشْخَانِ - قیمنوں کا تغیر تبدیل

تَقْلُصٌ - کپڑے کا دھلائی میں سکڑ جانا -

تَقْلِيْدٌ - فرمان شاہی -

تَقْوِيْمٌ اَشْكَالِ الطَّعَامِ - کھانوں کی فہرست

تَقْوِيْمٌ اَلسِّنَةِ - کیا نڈر

تَقْوِيْمٌ بَيْعٌ - قبالہ - بیعنامہ -

تَقْوِيَةٌ - نوجی کمک - زیادہ مضبوط کرنا -

تَقَاكُرُهُ - راجپوتوں کے سردار - ٹھاکر

تَقَالِيْفٌ شَاقَّةٌ - بھاری محصولات

تَقَابِيْبٌ - کباب بنانا

تَقَابِيْسٌ - ہاتھ پاؤں دابنا

تَقَابِيْسُ اَلْبَدَنِ - بدن کا دابنا اور ملنا -

تَقَاتِكَةُ السَّاعَةِ - گھڑی کا ٹک ٹک کرنا

تَقَاتِيْكٌ - فن جنگ

تَقَاتِيْفٌ - (نمارات وغیرہ کا) سکڑ جانا -

تَقَاتِيْرٌ قَنٌ - قرظیتہ میں بسر کرنا

تَقَاتِيْرٌ نَشَسٌ - جھڑھی جو بڑھوں کے بدن

پر پڑ جاتی ہے -

تَقَاتِيْرٌ حَمِيٌّ { سپہ سالار (تقاریرہ) جمع

تَقَاتِيْرٌ اَلشُّكْرِ - شکر کو مکر صاف کرنا

تَقَاتِيْرٌ نِيْكٌ - پانی کی تر سے کنکر اور مٹی نکالنا

تَقَاتِيْرٌ مَسْقِيَةٌ - اردواوا - ولیا -

تَقَاتِيْرٌ مَعْوَزٌ - بادشاہ - شاہ ارمینا -

تَقَاتِيْفٌ - محصول ٹیکس - جمع (تقالیف)

تکلیف بالاثبات - بارثوت -
 تکلیف بالتحضُّور - طلبی - بلاؤ - اطلاقاً
 تکلیف رسمی - باصابطہ مطالبہ - سرکاری
 مطالبہ -

تکلیل - عیسائیوں کا کھاج - تاجپوشی
 تکلیف - چرچہ جس میں پانی محفوظ رکھتے
 ہیں تاکہ ضرورت کے وقت استعمال
 کیا جاسکے -

تنگہ { بزرگوں کی - پہاڑی بکرا -

تنگہ - ازاربند - تنگ جمع -

تنگی - مسافر خانہ - درویشوں کا تکیہ
 تنگ - پہاڑی - ٹیلہ -

تنگی - معدوم ہو جانا

تنگی - ملاقات - مذاہمیر ہونا -

تنگی - زرگرد - شاگرد - تلمیذ

تنگی - تھکا ہوا - تھکی ہوئی جماعت

تنگی - تجویز - سرکاری چٹھی کا
 خلاصہ جو اس کی پشت پر لکھا جاتا ہے

تنگی - دور بین

تنگی - ٹیلیگرام - تاریقی - دفتر تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تنگی - تاریقی - تاریقی

تَمْرِ نِيَّاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ - فوجی قواعد - ڈرل -
 تَمْرِ نِيَّاتٍ - پھاڑنا - چیرنا
 تَمْرِ نِيَّاتٍ - ٹکٹ کورٹ فیس جو دفتر میں
 استعمال کیا جاتا ہے - (تمغائی) بھی

کہتے ہیں -

تَمْرِ نِيَّاتٍ الشَّاعِرَةُ - گھڑی میں کوک دینا
 تَمْلِي - ہمیشہ

تَمْن - چاول

تَمُوْر - رویوں کا مہینا مطابق جولائی

تَمْرِن - (مغربی انگریزی) ایک وزن
 جو ۲۸ من کے مساوی ہوتا ہے -

تَمْرَانُ مَعَ الْحَيَاتِ - مسئلہ کشمیر کی
 حیات -

تَمْرَانُ زَل - ترک - دست برداری

تَمْرَانُ طُحْج - ڈھوس مارنا -

تَمْرَانُ قَضِ وَهَمِي - وہ بات جو دیکھنے

میں باطل لیکن اصل میں حق ہو -

تَمْبَاك (مغربی ترکی) تمباکو

تَمْبَاك (مغربی ترکی) تمباکو -

تَمْبَل - پان - سست - بلید - کابل

تَمْبَلَة - (مغربی) سستی - کابل

تَمْلِيَان - اٹلی کے باشندے

تَمْلِيَانِيَّة - اٹالین زبان

تَمْلِيْفُون - ٹیلیفون

تَمَامِي - دیر تک رہنا - مدت -

تَمَامِيك - کسی اتصال جس کے سبب

اجسام کے ذرات آپس میں پیوستہ

رہتے ہیں -

تَمَارِي قَائِمَةٌ - وہ زاویہ جو زاویہ قائمہ کا

تکملہ ہو -

تَمْتَع - اجازت نامہ

تَمْتَال - مجسمہ - بت - اسٹیچورڈ

تَمْتِيل - تھپتھپانے کا ایک کرنا

تَمْتُوْد - کسی وصفت کا پتھر چپٹا ہونا -

تَمْرُوجِي - تیمارچی - ملازم شفاخانہ - کمپوزٹر

تَمْرُجَانَا - گل مہندی - گل حنا - فاعینہ

بھی کہتے ہیں -

تَمْرُشَع - خاک میں لوٹنا -

تَمْرُشِيك - نبر لگانا - نشان لگانا

تَمْرُشِيكِيْن - مشق پرکتس - فوجی قواعد -

جمع تَمْرِ نِيَّاتٍ -

تَمْرِ نِيَّاتٍ جَسَدِيَّةٍ - ورزش جسمانی -

تنبؤ - (مولد) پیشین گوئی۔

تنبیہ - (مولد) نوٹس

تنبیہ رسمی - سرکاری طلب نامہ

تنبیہ شفاہی - زبانی طلب -

تنجیم - جوتش - علم نجوم

تنجیہ - ہٹانا -

تندہ - (مغرب ایطالیائی تندا) باریک

جو گرمی کے پچاؤ کے لئے لگایا جاتا ہے

تنزیل - (مولد) قیمت کم کرنا۔

تنزیل الآسعار - قیمتوں کا وضع کرنا۔

تنشیہ - (مولد) کپڑے کو استری

کے لئے نشان ڈال کر کرنا۔

تنشیف - (مولد) جاذب سے

ترہروف کو خشک کرنا۔

تنصیر - عیسائی ہونا۔

تنظیم آخوال عسکریہ - انتظامات

فوجی کی اصلاح۔

تنظیم الشرطة - اصلاح پولیس

تنقیذ کے عمل - اہتمام - تعمیل - پورا کرنا۔

اجرا کرنا - عمل میں لانا۔

تنقیذ الاجراءات - حکم کو جاری کرنا۔

تنقیذ الشرط - معاہدہ کا عمل

تنک (مغرب میں) لوہے کی چادر۔

تنکہ - ٹین کا سامان

تنکجی - ٹین کی چیزیں بنانے والا۔

تنکارتی - (مغرب) ٹین کا کام کرنے والا۔

تنمیر - نمبر ڈالنا۔

تنمیر الصحائف - فہرست میں بنانا۔

تنور - (دخیل فارسی قدیم) بواسطہ سریانی

یا عبرانی) یہ مرکب ہے تن یعنی دود

(دھواں) اور کلمہ نور یعنی آتش

(آگ) سے۔ بعض کہتے ہیں کہ عربی

الاصط یعنی ناں پختن - روٹی

کینے کا مقام۔

تنور الفکر - روشن خیالی۔

تنورہ - سایہ (جامہ) جو فرنگین بنتی ہیں

تنویم - (مولد) کلوفارم - کسی خواب آور

دوا سے نیند طاری کرنا۔

تینین - (ارامی) اژدر۔ ناگ

(تنائین) جمع۔

توارکیل - جمع (توکیل) خانگی کالت

کا پروازی۔

تَوَالِف - خدمت جو اسامی کو اپنے مویشی سے زمینداری کرنی واجب ہے۔

تَوْبَال - (مغرب فارسی توپال) براۓ آہن کو لوہے کا ٹکڑے کے کوٹنے کے وقت جو ریزے کرتے ہیں۔

تَوْبَجْہِ کَوَل - سب ڈویژن کی قطار۔

تَوْبَجْہِیَہ - توپ خانہ - آتش خانہ

تَوْبِخَانِہ - سلاح خانہ۔

تَوْت - تاد سپتمبر کا نام قبطنی زبان میں

تَوْت } ایک میوہ

تَوْتِیَا - (مغرب) مٹر کا پتھر - جِست -

تَوْتِیَا، مَعْدِنِیَہ - جِست

تَوُج - فارسی زبان سے عربی میں بطور خیل آیا - تانیا - پتیل -

تَوُحْش - (مولد) بے تمدنی - غیر شایستگی -

تَوُجِید - کل حکومت کا انتظام کرنا

تَوُزْمِی - (مغرب فارسی توڑمی) ایک

گمانس کا بیج ہے جسے عربی میں

تَوُزْمِی کہتے ہیں۔

تَوُز - (مغرب فارسی) پینتیر - آفتابہ برنجی -

پیتلی لوٹا - جال - دام - پچھلی کا جال -

تَوْرَاة - یہود کی آسمانی کتاب جو حضرت

موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی -

تَوْرکَا - (مغرب فرانسیسی) قوم ترک ترک لوگ -

تَوْرِید - اشیائے درآمد

تَوْرِیدُ الْأُجْرَة - اشیائے درآمد کا محصول

تَوْرِیَہ - کسی چیز کا دل میں ارادہ کرنا لیکن

زبان سے اُس کے خلاف ظاہر کرنا -

تَوْرِیْع - (مولد) تقسیم کرنا - بانٹنا - ایکویشن

رقوم صرف شدہ کا خاص خاص مراد

میں ڈالنا -

تَوْرِیْعُ الْبَرِید - (مولد) ڈاک تقسیم کرنا -

تَوْرِیْعُ الْأَرْبَاح - (مولد) فائدہ یا نفع کا تقسیم کرنا - ڈاک تقسیم کرنا -

تَوْرِیْعُ نَبَاتَات } نباتات کی تقسیم

تَوْرِیْقُ نَبَاتَات }

تَوَصِیَہ - سفارش

تَوُظْف - (مولد) نوکر ہونا

تَوُظِیف - نوکری دینا - نوکر رکھنا

تَوُزِیْع - (مولد) شرح دستخط - دستخط کرنا -

تیار - رو - دھار - (کرنٹ اور اسٹریم انگریزی)
تیار شمالی - پانی کی وہ رو (دھار) جو
قطب شمالی سے گزرتی ہے -

تیارہ آ شکل ہاس - سمندر کی وہ دھار
جو مقام اگلاس پہنچے ہو کر گزرتی ہے
تیار لوجیانہ (مغرب یونانی تھیالوجی)

علم آہیات -

تیب ریمبر - (مغرب ٹاپ رائٹر)
تیدر ٹیٹوس - (مغرب یونانی تھیو
ایک دوا کا نام جو سہل ہے -

تیر - شہتیر
تیفوس - (مغرب ٹائیفوس) ایک قسم کا
تیفوئید - (مغرب انگریزی ٹائی فائید)
ایک قسم کا بخار -

تیقظ - (مولد) بیدار مغزی - ہوشیاری
تیل - سن - پتوا
تیلی میٹر - بندوق کا توڑ دریافت کرنے والا

باب الثاء

تہایت - غیر منقولہ
تہافیا - (مغرب ٹاپسیا) صنم سداب

توقیف - (مولد) مجرم کو حوالات میں رکھنا -
کسی اخبار یا رسالہ کو بند کر دینا - معطلی -
توکیل - معاہدہ - نیابت - ایجنسی -

توکینیل - شمسی - مختار نامہ
تولہ - کتے کا پلا - گجری کتا
تومان - ایران کا ایک سکہ -

تومہ - بڑا موتی - موتی کا دانہ - چاندی
کامبرہ - موتی کے دانوں کا گلوبند
تورنیل - (مغرب ٹیل) وہ راہ جو پہاڑوں
کو کاٹ کر سڑنگ کی طرح بنائی جاتی
ہے وہ راہ جو ریل گزرنے کے لئے

پہاڑوں بناتے ہیں - سرداب
توسج - پھول کی کسوری - پھول کی پنکھڑ
تہتا و - (مولد) کمی قیمت - ارزانی نرخ -
تہریب - (مولد) ممنوع استجارہ شے کا
کاماک سے درآمد و برآمد کرنا مال پر
چنگی کا محصول چوری سے ادا کرنا

تہریب بضاعہ - محصول پرانا -
تہریب مفلوہ ط - غلط الزام - سگاہ
تیا ترو - (مغرب ایٹالیائی تیا ترو - تماشا
تیا ترو - مرقص - تھیٹر - ناٹک

دستی، تھلی کا گوند۔

ثنا لوث - (سربانی یا ارامی) تثلیث،

مسئلہ تثلیث

ثنائیہ - (مولد) (۱) سکند، منٹ کا

ساتھواں حصہ (۲) لمحہ۔

ثوآنی (جمع)

ثبوت النسب - ولایت کا تحقیق کرنا

ثجیر - (مغرب فارسی کنجاہ) ثفل،

کھلی، پھوک۔

ثرد مؤثر - (مغرب تھرمیٹر) مقیاس ہوا

ثرة الأمة - قومی دولت

ثریا - (مولد) روشنی کا جھاڑ۔ جھاڑ (بلوچ)

ثقة بالنفس - (الثقة بالنفس) (مولد)

اپنی مدد آپ کرنا۔ سلیپ ہلپ۔

ثقیل الظم - بات کا سست۔

ثکنہ - (مولد)۔ (۱) جنگی مورچہ (۲)

چھاوٹی، کنوینٹ۔ بارکس جمع ثکنات

ثمنل - دیکھو (تھلی)۔

ثمن اصلی - لاگت کے دام

ثمن العقار - اجرت فیصلہ

ثمن - قیمتی۔ گران۔ مہنگا

ثنا - دیکھو (فناء)

ثنیان - (ارامی)۔ (۱) دوم درجہ کا سدا

(۲) مرد بے عقل و بے رائے،

مردھو، بے وقوف

ثنیہ - پاؤں میں بانڈھنے کی پٹی۔

ثواب - افعالِ حسنہ پر اجر و ثواب

ثوار - (مولد) جمع ثائر۔ باغی لوگ

ثورة - (مولد)۔ (۱) قدیم پریشانی (عیدید)

بغاوت، شورش۔ فساد۔

ثوسعہ - (مغرب یونانی ثوسیا) ایک تناور

اور سبز درخت جسکی ڈالیاں موٹی موٹی

ہوتی ہیں مگر خوشے بکار آد نہیں ہوتے

ثیو صوفیہ - (مغرب تھیوسوفی) تصوف۔

باب الحیم

حات یا جاط - رکابی۔ تاب پلیٹ

حاتلیق (مغرب یونانی کنٹاکوس)۔

حاتلیق (انگریزی کیتھوٹاک)

عیسائیوں کا ایک قدیم فرقہ جو

پوپ کو خلیفہ مسیح مانتا ہے۔

حادی - (مغرب فارسی گادی) زعفران

جَالِبُ الْبِضَائِعِ - مالک کے اندر
مال لانے والا -

جَالَهُ - محصول -

جَالِيش - نیزہ بردار - علم بردار -
چوکیدار -

جَام - (فارسی) پیالہ - قصصہ (آجڑوم -
آجڑوم - جانات - جوم) جمع -

جَايِد - سست -

جَايِدُ الْعَيْنِ - بے آنسو ہونا -

جَايِدُ الْيَدِ - بخیل -

جَامِع - مسجد -

جَامِع (مولد) قوم کو متحد بنانے والی
جَامِعَةٌ { عام اشتراکی حالت

جَامِعِيَّة

جَامِعُ الْأَثَرِ - (انجامِ الازہر)

قاہرہ کی ایک مسجد جس میں علوم مشرق
کا درس دیا جاتا ہے -

جَامِعَةٌ - (مولد) یونیورسٹی - دارالعلوم

جَايِلِيَّة - (مغرب جاگنیہ) وظیفہ -

رائیہ - تنخواہ - روزینہ -

جَامِدَانْتَه - جامہ دان - توشک خانہ -

جَاوِزِيَّة - مادہ کی وہ خاصیت یا کیفیت
جس سے اُس کے اجزا ایک دوسرے

کو کھینچتے ہیں - جذب کشش

جَاوِزِيَّةُ الْأَلِيتِصَاقِ - اجزائے فرد
کی باہمی کشش -

جَاوِزِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ شَعْرِيَّة - وہ کشش
جس سے درختوں کے باریک

سوراخوں میں چڑھ جاتا ہے -

جَاوِزِيَّةُ الْمَلَأِصَقَةِ - (مولد) دو

چیزوں کی باہمی کشش -

جَاوِزِيَّةُ - چمکی ہاتھ کی چمکی -

جَاوِزِيَّةُ - (مولد) ایک قسم کا آہنی پنجہ -
پھاؤڑا - کدال -

جَاوِزِيَّةُ صَرْفِ الشِّي - دینا کسی چیز کا -

جَاوِزِيَّةُ - (مغرب انگریزی) گاچھ کپڑا -

جَاوِزِيَّةُ رَشْمِيَّةُ گاج -

جَاوِزِيَّةُ - (ارامی) جستجو کرنے والا -

تفتیش کرنے والا - خفیہ کا

جوان (جو آرمی) جمع

جَاوِزِيَّةُ التَّعْرُطِ - پولیس کا بھیدی

جَاوِزِيَّةُ - رکابی - پلیٹ -

جَمِیرَہ - وہ لکڑی جس سے بڑی باندھتے ہیں -

جَبَال - آدمی کا جسم -

جَبَّان - پنیر والا -

جَبَاؤۃ - (دخیل) جوتے کا سا پنچہ

جَبَّانَہ - قبرستان - مقبرہ

جَبَّت - بت

جَبَّاز - جہ خانہ کا مخفف -

جَبْس - (انگریزی) کھریامٹی - چونا -

جَبَلِ اَرَاہِط - ارمینیا کا ایک مشہور

پہاڑ - بلندی ۱۷۱۲ اقدم

جَبَلُ الْاَشْوَد - (الجبل الأسود)

لک مانینگرو -

جَبَلُ الدَّرُوز - شام کا ایک پہاڑ

جَبَلُ الشَّيْخ - شام کا ایک پہاڑ

جَبَلُ الْاَكْرَمَل - شام کا ایک پہاڑ

جَبَلُ السَّار - کوہ آتش فشان -

جَبَلِ خَلِيد - برفانی پہاڑ

جَبَلِ لَبْنَان - شام کا ایک پہاڑ

جَبَلِ هَارُون - شام کا ایک پہاڑ

جَبْن - پنیر -

جَانِبِ مَنْ - مدخرج میں لکھنے والا

ڈیمبیٹر -

جَانِحَاہ - (دخیل) ایک نشہ والی شے

جَانِدَارِم - فرانسیسی رسالہ کا سپاہی -

جَانِدَارِمَتہ - (فرینچ) پولیس کے سوار -

جَارِنِ - لزم -

جَارُولِش { (ترکی) سارجنٹ

جَاوُوش

جَاوِشِ بُولِش - کانسٹبل پولیس

کا سپاہی -

جَاہَر - (مولد) حوالہ دکان میں تیار

ہوتا ہے -

جَاوَز رُتَبہ مُشْتَهَرِن - گراجویٹ -

بی - اے -

جَاوِزہ - انعام - سند - ڈپلوما

جَاوِش تَار - (مغرب لاطینی کویستور

بواسطہ یونانی) خراج وصول

کرنے والا - قطار -

جَب - جماڑی -

جَبَابِرہ - ام کیہ کے اصل باشندے

جَبَاؤۃ - بڑی جوڑنے کا فن -

جَبَبَةُ خَانَه - (ترکی) - (۱) مخزن سیلاح خانہ
 بارود کا گودام - (۲) کار تو س کا
 بکس -
 جَبَلِیْنِیْق - کیتھولک - عیسوی مذہب کا
 ایک فرقہ
 جَبْنَه - تن و توش - جسمائیت -
 جَحْنَه - عیش - آرام -
 جَداد - خرقة
 جَدَاوِلُ الدُّوَس - کورس - نصابِ تعلیم
 جَدْبَه - بے وقوفی - دیوانگی -
 جَدَل - خصم کا کلام توڑنے کا قصد -
 جَدْوَل - (۱) حاشیہ - کنارہ (۲) روش
 کیا ریوں کی منڈیر - (۳) آبنائے
 ساختہ - بہر - نالہ - پرنالہ
 جَدْوَل - مثل - کارروائی کے کاغذات
 فہرست -
 جَدْوَل - (مولد) نقشہ - فہرست -
 جَدَّه - کنارہ دریا -
 جَدْمِی - خوش نصیب -
 جَدِيدُ الْبِنَا - نو تعمیر نیا بنا ہوا -
 جَدَاذ - پرانے کپڑے

جَدْرَع - کڑی -
 جَرَاب - توشہ دان - مھیلا - بیگ
 (آخریہ) جمع
 جَرَابَات - (فارسی) موزے - جرابیں -
 جَرَابَاتِ حَرِیْر - ریشمی پائتباے -
 جَرَابَاتِ صُوف - اونی پائتباے
 جَرَابَاتِ قُطْن - سونی پائتباے
 جَرَابَنْدِیَّہ - (فارسی) جرابہ بند (فوجی
 سپاہیوں کا توشہ دان -
 جَرَانِقَال - علم میکینکس - اوزان اٹھانے
 کا علم -
 جَرَانِیْم - جمع (جرٹوم) جاندار شے کی ابتدائی
 صورت - بہت ہی چھوٹے چھوٹے کپڑے
 جَرَا ح - سرجن - چیر پھاڑ کرنے والا -
 جَرَا حْتَه - (مولد) فن جراحی - سرجری -
 جَرَارہ - دراز خانہ -
 جَرَارَة - کوزہ گری - مٹی کے برتن بنانے
 کا فن -
 جَرَارَن - جمع (جرزون) بڑے
 چوسے -
 جَرَا فہ - زمین کھودنے والی کشتی -

جرم افہ - (مولد) مشتق از جرم - دریا کی
کہ دکان زمین کو کاٹنا -

جرم ارم - (معرب گرام) ایک وزن
جرم ایہ - (مولد) فوجی سپاہیوں کی رسد -
بجہت - الونس - پیش -

جرم - کھلی - خارش

جرم - کھلی
حک - کھلی

جرم بان - گریبان -

جرم بزم - مکار آدمی - دغا باز -

جرم بیا - شمالی سرد ہوا

جرم قوم - (جرم) (انگریزی) سے معرب
جرم قوم - اہوا ہے یا بقول بعض مولد

جرم یعنی اصل (جرم) جمع
چھوٹے چھوٹے کپڑے جو فضنا

میں یا چیزوں میں ہوتے ہیں - یا
وبائی پیدا ہو جاتے ہیں جاندار شے

کی ابتدائی صورت - بہت سی چھوٹا
کیرا (جرم) جمع -

جرم جلیس نبی علیہ السلام - ایک پیغمبر
جرم - دھال -

جرم و اب - (معرب فارسی گرداب) بھنور
جرم اللون - رنگ کا بدل جانا -

جرم و دہ - (کارڈ انگریزی) کا معرب ہے یا
فرانسیسی گارڈ کا (مخاطب) پہرہ -
گارڈ -

جرم و ق - (معرب فارسی گردہ نان) انگیک
میٹھی روٹی -

جرم و دل - چوڑے منہ کا برتن جس میں
گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں -

جرم و - کھیت کا چوما (جرم) جمع
جرم - گھنٹہ - گھڑیاں - آواز بلند

جرم و - ڈوسن - دوا کی مقررہ مقدار
جو ایک مرتبہ پی جائے -

جرم کس - (معرب) سرکیشین قوم
(جرم) جمع

جرم - (معرب فارسی گرم - ضد سرد) حار
جرم کانی - جرمنی کا باشندہ یا زبان

جرم کانی - لاک جرمنی

جرم موق - سر موزہ

جرم - پتھر کا حوض - کھلا ہوا حوض

جرم نال - معرب جرنیل - ایک فوجی افسر -

جزئیات - (معرب لاطینی جزئیات) اخبار -

روزنامہ - رسالہ - جریدہ واقعات

روزمرہ -

جزیرہ - سبوح - ٹھلیا - گھڑا -

جزیرال - شراب خالص -

جزیرال - بے درنگ -

جزیران - جاری ہونا - بہاؤ

جزیب - (معرب فارسی گری) آلہ پیمائش

زمین جو ۴۴ گز کے مساوی ہے -

جزیدہ - اخبار - جنرل - فوج کی تنخواہ کا

حیث - (جزائید) جمع -

جزیدہ - (مولد) اخبار - گزٹ (جزائید) جمع

جزیدہ - (معرب فرانسیسی کارد) محافظ

شکر - دیکھو (جرودہ)

جزیدہ اوبتیہ - لٹریچر - جنرل -

جزیدہ دورتیہ - { موقت رسالہ -

جزیدہ میقاتیہ - اسپرٹیکل میگزین

جزیدہ شمشیہ - سرکاری جنرل - سرکاری

اخبار - آفیشل گزٹ -

جزیدہ عادیہ { معمولی رسالہ -

جزیدہ غیر شمشیہ - آڈیو جنرل

جزئیہ - جرمانہ - طلبانہ -

جزئیہ الفسق - جرم زنا بالجبر -

جزئیہ واضعہ - سنگین جرم -

جزء - (مولد) جلد - نمبر - ویلوم -

جزائر - قصاب - قسائی -

جزاف - گزاف - بیہودہ

جزء الاغنام - دُبنے وغیرہ کے بالوں

کو کاٹنا -

جزء اللفاظ - الفاظ کی چستی اور شوخی -

جزائر - ملک البحر یا جو شمالی افریقہ میں واقع

جزائر محیط شرقی - اوشینیا

جزائر نقدی - جرمانہ

جزوان - { (معرب لفظ جزدان)

جزوانہ - { بستہ - جزدان

جزورہ - گاجر

جزر و مد - جوار بہانا - دریا کا اتار چڑھاؤ

جزوع - سنگ سلیمانی -

جزلان - (معرب ترکی) چھوٹا منی بیگ

جزنگ - (معرب ترکی) گوزک (چشمک

بینک -

جزم - پمپ شووز -

جَزْمَجِي - بوٹ ساز

جَزْمَمَه - انگریزی جوتا - جمع جزمات

جَزْمَمَه نَكشَوْفَه - پم شوز

جَزْمَانِي - (مولد) جوتا بنانے والا موچی -

جَنَاب - (عربی جناب) بہنی صحن خانہ ہیں

ال فارسی تعظیم کے مقام پر مثلاً حضرت

حضرت اسرار استعمال کرتے

ہیں ان معنوں میں عجم سے معرب ہوا

جَنَابِ اَقْفَم - ایک القاب جو رائٹ

آئریل کے معنوں میں مستعمل ہے -

جَنَابِيَّة - جرم - گناہ

جَنَابِيَّة - سنگین جرم - جرم کبیر

جَنَانِي - (مولد) باغبان مدیکھو (جنینہ)

جَنَانِي - نجوم

جَنَب - پہلو - زیر نعل -

جَنَبَار - (بالفتح والضم) معرب فارسی

جانباڑ (پهلوان نٹ -

جَنَبَدَة (معرب گنبد) گنبد - گنبد -

جَنَبَة نَوَقْتَه { بروقت جرم -

جَنَب

جَنَد - (معرب فارسی یا سریانی گنبد) لشکر

نوج - سپاہ -

جَنَدَار - (معرب جاندار) باڈی گارڈ -

مخالف شاہی -

جَنَدَرَمَه - (معرب فرانسیسی جندرمی)

پولیس - کوتوالی -

جَنَدَرَه - (معرب ترکی یا فارسی) (۱)

لکھے ہوئے کو دوبارہ لکھنا تاکہ حروف

روشن ہوں - تَبْيِض (۲) کپڑے

کے نفوش کو چلی کرنا -

جَنَدَان - آبشار - چادر آب - جھڑنا -

جَنَدِي - (معرب) سپاہی - لشکری -

جَنَرَان - (ایطالیائی جنرالی یا انگریزی)

جنرل کا معرب ہے) سپہ سالار -

اعلیٰ کانسٹبل فرنگی -

جَنَرَالِ اَجْوَدَان - میرٹزک، بزرگ -

چیف سکریٹری - مصاحب کلاں -

جَنَرَلِ عَام { فل جنرل - فوجی اعلیٰ عہدہ -

جَنَرَار - (معرب فارسی رنگار) - (رنگار

سے زنجار اور زنجار کا مقلوب جنزار

ہو گیا) ایک سبز رنگ -

جسم - جس کے واسطے ترکیب تالیف ہو۔
جسور النیل - دریائے نیل کے بند۔
یا پشے۔

جص - گچ۔

جص - چھٹا۔

جعالہ - زراعت نامی۔

جعبہ - (مولد) چرمی بیگ۔

جعبہ - بیر شراب۔

جعبی - (مولد) بازی گر۔ تماشاگر۔

مسخہ - (جماعہ) جمع۔

جغر - مینڈک

جغرافیہ - (مغرب یونانی کیوگرافیا)

یہ لفظ دو کلموں گنی بمعنی زمین اور

گرافیا بمعنی بیان سے مرکب ہے۔

جغرافیہ النسانی - وہ جغرافیہ جس میں

اصناف بشری کا بیان جغرافی

تقسیم کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

جفت - سامنی - سندھ اسی

جفت - (مغرب فارسی جفت بواسطہ

ترکی) دونالی بندوق۔

جفت - (مغرب فارسی جفت) دوچند

جہنم زید - (مغرب فارسی زنجیر) کردی۔

جس - (مغرب یونانی گنوس) قسم۔

قوم - قومیت

جہنیہ - قومیت - نیشاپلیٹی۔

جزمہ - (مغرب ترکی جزمہ) فرنگی جوتا

بوٹ - (جزات و جزام) جمع

جزمۃ المکشوفہ - (انجزمتہ

المکشوفہ) - (مغرب) پم شوز۔

ایک قسم کا جوتا۔

جزجی - کفش ساز - جوتابنانے والا۔

جزیرہ شقر - رومی مصطلکی کا جزیرہ۔

جزیرہ مشجر - درختوں کا جزیرہ۔

دریا کے بیچ میں درختوں کا چھنڈ

جزیل - بہت - وافر - کثیر۔

جزیل الاخترام - رائٹ ریوزنڈ۔

سب سے بڑے پادری کا خطاب۔

جزیہ - خراج - معاملہ۔

جسخانہ - قیدخانہ

جسر - (ارامی) پل قنطرہ

جسر معلق - سکا ہوا پل۔

جسٹر - چلبھی سی کی۔

زوج - فرد اور طاق کی صند -

جفتگ - (ترکی) جائد اور شاہی جو کرایہ

پر دی جائے -

جفل - ڈرنا - خوف -

جفن - کشتی (اجفان) جمع

جل - (مغرب گل) (۱) گلاب - گل مرغ

(۲) یاسمین -

جلاب - گلاب -

جلابیمہ - کرتا ٹخنے تک لمبا

جلاجی - (مولد) جلاگر - صیقل گر -

جلحق - گولہ -

جلادۃ السلطان - بادشاہ کا القاب -

یورمجیٹی -

جلالاتی - زین بنانے والا

جلالۃ الملک - (مولد) ہزمجیٹی -

بادشاہ کا القاب -

جلالۃ سنیۃ - بادشاہ کا خطاب -

ہزمجیٹی -

جلب - (مولد) دوسرے ممالک یا بلاد سے

تجارتی مال منگوانا -

جلیبیہ - ایک نوقانی لباس -

جلیلہ - سوارہ فوج -

جلخ - تیز کرنا -

جلد - ہموار زمین - میدان -

جلد زقیق - پتلا چمڑا

جلد صفیق - موٹا چمڑا

جلستان - (مغرب گلستان) -

(۱) باغ گلشن (۲) گلستان سعدی

کاعربی ترجمہ

جلتہ - سماعت - مقدمہ سنا -

جلق - شام میں ایک موضع ہے

جلل - مشکل - بڑا کام

جلوطہ - باریک چمڑا جو مثل جھلی کے گوشت

کے اوپر ہوتا ہے -

جلنا - (مغرب گلنار فارسی) گل انار -

جلنط - کھنڈ - محذبہ -

جلووی - (مولد) چمڑے کا کام کرنے والا -

جلوز - چلنوزہ

جلوس - سیدھا ہونا -

جلہ - کندہ - اپلا

جماز - تیز قدم گدھا -

جماعۃ شرعیۃ - سند یافتہ انجمن -

کارپوریشن -

جمنارہنیر امیر کا آئینہ - کانڈریشن

یونانی ریڈیو سٹیشن آف امریکہ اتحاد

ریاست ہائے امریکہ -

جمنیاز - (مغرب ترکی) جنیاز جو فارسی

جانناز سے بنا ہے - (جننا سکا

وزرش بدنی -

جمنرک - (مغرب ترکی) دیکھو کمرنگ چنگی

موصول کروڑ گیری -

جمنرکچی - (ترکی) چنگی وصول کرنے والا

جمنرہ - سوارہ فوج (جمنرات) جمع

جمنعہ الآخر - لاکھ

جمنعہ الکفت - مٹھی

جمنعہ الآلام - ہولی - دیگ - مقدس ہفتہ

جمنعہ الحاش - (عیسائیوں کا ایک مقدس

دستبرک ہفتہ -

جمنعہ الحزینہ - عیسائیوں کی ایک عید

جمنعہ - (مولد) ہفتہ

جمنعی - زیر سرداری - ماتحت - زیر آفری

جمنعیہ - (مولد) کمیٹی - انجمن سوسائٹی

آبادی مردم شماری -

جمنعیہ المعارف - علمی و ادبی انجمن

جمنعیہ انتشار الایمان - مثنوی

سوسائٹی -

جمنعیہ انتشار کتب مقدسہ -

بائبل سوسائٹی -

جمنعیہ خیریت - انجمن خیرات

جمنعیہ دولیہ - (مولد) سلطنتوں

کی سیاسی مجلس - ملکی کانفرنس -

بین الاقوامی انجمن -

جمنعیہ عمومیہ - عام انجمن

جمنعیہ ملیہ - قومی انجمن

جمنعہ البحر - درہیل پھلی

جمنعہ الیہود - گرگٹ - آفتاب پرست

جمنعہ - بارہ درجن

جمنعہ - عامۃ الناس - پیاک - رعایا

جمنعہ - (مولد) جمہوری سلطنت - پیاک

جمنعہ السولیس - سوئٹزرلینڈ کی

جمہوری سلطنت

جمنعہ الحقوق محفوظہ - تمام حقوق محفوظہ

جمنعہ السفراء - ڈیپلومیٹک کور -

ایلیٹیوں کی مجلس -

جَمِیلُ الْمَنْظَرِ - خوبصورت

جَنَاب - (عربی - جناب بمعنی صحن خانہ)
ہیں) اہل فارس تعظیم کے مقام پر
مثلاً حضور - حضرت - سرکارِ سماں
کرتے ہیں - ان معنوں میں عجم سے
مغرب ہوا -

جَنَابِ اَفْحَمَ - ایک القاب جو راسٹ آئیل
کے معنوں میں مستعمل ہے -

جَنَائِیَّة - جرم - گناہ

جَنَائِی - (مولد) باغبان - (دیکھو) جنینہ

جَنَائِی - مجرم -

جَنَب - پہلو - زیرِ نفل

جَنَبَار - (بالفتح) - (مغرب فارسی جانبار)

پہلوان - نٹ

جَنَبْدَة - (مغرب گنبد) گنبد - گنبد

جَنَجَبَة مُوقَّتَة - ہر وقت جرم

جَنَد - (مغرب فارسی یا سرطانی گند) لشکر

فوج - سپاہ - چھاوٹی -

جَنَدَار - (مغرب جاندار) باڈی گارڈ

محافظ شاہی -

جَنَدَرَمَة - (مغرب فرانسیسی جنڈرمری)

پولیس - کوتوالی -

جَنَدَرَه - (مغرب ترکی یا فارسی) - (۱)

لکھے ہوئے کو دوبارہ لکھنا تاکہ حروف

روشن ہوں - تبیض (۲) کپڑے

کے نقوش کو صلی کرنا -

جَنَدَل - آبشار - چادر آب - چھڑنا -

جَنَدِمِی - (مغرب) سپاہی - لشکری -

جَنَدِرَال - (ایطالیائی - جنرالی یا انگریزی

جنرل کا مغرب ہے) - سپہ سالار

اعلیٰ کانسل فرنگی -

جَنَدِرَالِ اَجْوَدَان - میر تازک - فوج کا

افسر اعلیٰ بزرگ - چیف سکرٹری -

مصاحب کلان

جَنَدِرَالِ عَام - اعلیٰ عہدہ

فَرِیقِ اَوَّل - فوجی اعلیٰ عہدہ

جَنَدِرَار - (مغرب فارسی رنگار) (رنگار سے

زنجار اور زنجار کا مقلوب جنزار ہو گیا)

ایک سبز رنگ -

جَنَدِرِیْر - (مغرب فارسی زنجیر) کڑی

جَنَس - (مغرب یونانی کنوس) قسم - قوم -

قومیت

جَنَسِيَّة - قومیت - نیشنلٹی -

جَنَفَا ص (معرب انگریزی کینوس) ایک ٹوٹا
جَنَفِيض (دبیز کپڑا) - کانواس کپڑا

جَنَفَس (معرب ترکی جانفس جو فارسی
جانفازے سے مشتق ہے)

جَنَگ (معرب فارسی جنگ صند صلیح)
لڑائی -

جَنَگ (معرب فارسی چنگ) ایک
مشہور و معروف بابجے کا نام -

جَنَکَان (معرب ترکی جنکانہ) ویکھو
(شمنکان)

جَنُوبِيَّة - وہ بڑا عظیم جو قطب جنوبی کے
الدرگرد واقع ہے -

جَنِي - گنی - انگریزی پونڈ
جَنِي (فرنجی) - انگریزی پونڈ جو پندرہ
کلدار کے مساوی ہے -

جَنِيَّة الْاِنْكَلِيْمِي - اشرفی پندرہ
روپے کی -

جَنِيْفَا - (معرب جنوا) ٹاک سوٹمز لینڈ
کا پائے تخت -

جَنِي فَرَنْسَاوِي - فرینچ پونڈ جو بانہ روپے

چار آنے کلدار کے مساوی ہے -

جَنِيَّة - (مولد) جنت کی تصغیر - باغچہ
بُنْيَا -

جَنِيَّة - (معرب انگریزی گنی) ایک سونے
کا سکہ جو اکیس شلنگ کے مساوی ہے ۷۶

جَوَاب - خط - مکتوب -

جَوَابِ اِعْتِمَاد - سفارشی چٹھی -

جَوَابِ تَوْصِيَّة - سفارشی خط

جَوَابِ رَفْض - تاسف نامہ

جَوَاخ - (معرب) - (۱) جلاہ - (۲)

پارچہ فروش

جَوَارِش - (معرب فارسی گوارش)

(۱) شیرینی (۲) وہ دوا جو غذا

مہضم ہونے کے لئے کھائی جاتی ہے

جَوَاز - (ع-م) پاسپورٹ (جوازات)

صبح -

جَوَازُ الْاِمْتِحَان - (ع-م) امتحان

پاس کرنا - کامیاب ہونا -

جَوَاكِبِيَّت - گھر کا اندرون

جَوَالِق - (معرب فارسی گوال یا گوالہ

بواسطہ ترکی) بُورَا - تھیلہ -

جَوَّاق { معرب فارسی جوخ بمعنی گروہ -
 جَوَّاقہ } فوج مردم - ایکٹروں کی جماعت -
 نٹوں کا گروہ -
 جَوَّاقہ - گروہ
 جَوَّاکان - جوگان - بَلَّا -
 جَوَّانک و جَوَّانکیہ - الونس - بھتہ -
 جَوَّامہ - گروہ مردم - تھیلٹر - پارٹی
 جَوَّون - (معرب فارسی گون) رنگ
 جون - (معرب یونانی کونیا) (۱) خلیج
 کھاری - (۲) دریائے جمننا -
 جَوَّہر - اصل شے اور اس کا مادہ
 جَوَّہرچی - زیور فروش - جوہری -
 جَوَّہر فرد - (جزء لایتجزئی) مادہ کے
 نہایت ہی چھوٹے چھوٹے اجزاجن سے
 وہ مرکب ہوتا ہے جو ہر فردہ کہلاتے
 ہیں جس کا واحد (جوہر فرد) ہے -
 جَوَّہلی - اعتقاد کسی شے پر جو نفس الامر
 کے خلاف ہو -
 جَوَّو جَوَّو - سینہ - چھاتی -
 جَوَّیارہ - چونے کی بھٹی -
 جَوَّیا لَوَّجیا

(جَوَّالیتی) جمع
 جَوَّالیتی - جمع (جَوَّالیتی) تھیلا -
 جَوَّاید - معاون - کابین -
 جَوَّامع - ع (جامع کی جمع) مسجدیں -
 مساجد -
 جَوَّانی - اندرونی -
 جَوَّائب - غیر ملکی خبریں -
 جَوَّوخ - (معرب ترکی چوقہ) بانات - کپڑا
 (اَجَوَّاخ) جمع -
 جَوَّوخہ - کپڑے کا تھان -
 جَوَّوڈر - نیل گائے -
 جَوَّوڈیاء - تلاح -
 جَوَّوڈ - (بواد معروف) مثل - طرح - جوڑ -
 ہم رنگ - ہم پلہ -
 جَوَّوڈ - میلان حق سے باطل کی طرف -
 جَوَّوڈ - موزہ -
 جَوَّوز - کامیاب ہونا
 جَوَّوسق - (معرب کوشک فارسی) - (۱)
 چھوٹا محل - قصر - (۲) جدید عربی -
 جھونپڑا -
 جَوَّوشنُ اللیل - آدھی رات -

کے ساتھ لڑتے تھے۔

جیل - صدی

جینہ - رال
قلفونہ

جینینہ - گنی - مشہور سکہ ہے۔

باب الحاء

حابل - فنکاری جادوگر۔

حاجب - یورپ کی عدالتوں کا ایک

بڑا حاکم (مُحَاجِب) جمع

حاجب الدولہ - شاہی دربار کا عرضی

دربان شاہی - میر تنگ - خلوت -

حاجتہ - باورچن - ماما -

حاجر - پارٹیشن وال - پردے یا بیچ

کی دیوار خاکنائے - (خواجر) جمع

حاد - تیز -

حاد الطرف - تیز نظر -

حارات - جمع (خارہ) گلی - محلہ

حارین تصنائی - مال مسروقہ کا رکھنے

والا -

جیا لوجی (مغرب علم الارض - علم

جیولوجیا) طبقات الارض

جیب - (مغرب سنگرت جیوا) علم ہیئت

میں دتر کو کہتے ہیں - چنانچہ کہتے

ہیں جیب مستوی -

جیب - کالر

جیر - پشت پر دستخط کرنا - منظور کرنا - یا

دستخط کرنا -

جیر - کاش {

جیر و سکوب - (مغرب) گردش زمین کے

تجربہ کرنے کا آلہ جو ۱۸۵۳ء میں

بنایا گیا -

جیش - مرغ - رومی -

جیش الخلال - انگریزی فوج

مقیم مصر -

جیش الخلاص - عیسائی پادریوں کی

وہ جماعت جس کی غرض مسیحیت

کی اشاعت ہے -

جیشان - سمندر کی حرکات

جیل - مجرمان جو صلیبی لڑائی میں مسلمانوں

حَارِسٌ - گارڈ - محافظ - سنتری

حَاوِرَةٌ - (ع - د - ارامی) محلہ - اودھ کلاں

(حَاوِرَاتُ) جمع

حَاوِسِيَّةٌ شَيْخَانِيَّةٌ - فٹ نوٹ -

حَاوِصِلٌ - مخزن - اسٹور -

حَاوِصِلُ آبِي - زراعت چاہی - کنوئیں یا

نہر کی کھیتی -

حَاوِصِلَاتٌ - پیداوار -

حَاوِصِلٌ ذِيْمِي - بارانی زراعت

حَاوِصِلَاتٌ طَبِيعِيَّةٌ - قدرتی پیداوار -

حَاوِصِلَاتٌ عَرْضِيَّةٌ - ہنگامی پیداوار

حَاوِصِلَاتٌ مِيرِيَّةٌ - سرکاری مال گزاری

حَاوِصِلُ الْهَيْجُومِ - حملہ کے لئے تیار ہوجائے

حَاوِصِرَةٌ - (ع - م) پاسے تخت - دار

دارالامارت - صدر مقام

حَاوِصِرُنٌ - مستعد تیار -

حَاوِصِنَةٌ - (ع - م) دانی - آیا - کھلائی

حَاوِصِلٌ - سُم

حَاوِصِلٌ - جاسوس - (حَاوِصِلَةٌ) جمع

حَاوِصِلَةٌ الْاِرْسَالِ - (ع - م)

پارسل کا فارم

حَاوِصِلَةٌ الْوَدِيعَةِ - فوطہ دار - امانت دار -

تھویدار -

حَاوِصِلَةٌ - (ع - م) موٹر کار - موٹر گاڑی

(حَاوِصِلٌ) جمع -

حَاوِصِلٌ - کنارہ - جانب -

حَاوِصِلُ الشَّرْعِ - حج - نصف -

حَاوِصِلُ الضَّمِيمَةِ - جسٹس آف دی پیر -

حَاوِصِلٌ تَامٌ - گورنر جنرل - والٹر اسے -

حَاوِصِلٌ - (ع - م) (۱) فونو گراف (۲)

ٹیلیفون -

حَاوِصِلٌ الْخَرْمِ - مال کے بند کرنے کا طریقہ -

حَاوِصِلَةُ اَمْوَالٍ مَوْقُوفَةٍ - اس قسم کی

ملکیت اراضی جس سے وہ ناقابل

انتقال ہو جائے یہ اس صورت

میں ہو جاتی ہے جب اراضی کسی

جماعت کی ملکیت ہو جائے -

حَاوِصِلَةٌ دَرِيْئِيَّةٌ - نفل کی وہ صورت

جس میں کچھ بیان کیا جائے -

یا کچھ پوچھا جاوے -

حَاوِصِلٌ قَدِيمٌ - (ع - د) قدیم مصری - پمپہ

کا ڈھادو دھ (عوام علوم کہتے

حائک - جلاہ -

حَبْت - (معرب فارسی خم یا خنب)

بڑا گھڑا جس میں شراب یا سرکہ رکھیں۔

حَبَاک - جلد ساز۔

حَبْتُ الذَّات - (ع-م) خود غرضی۔

حَبْتُ النَّفْس - (ع-م) خود غرضی۔

حَبْوَظ - عطر کی شیشی۔

حَبْر - (ع-د) ارامی (۱) دانشمند

(۲) یہودی عالم (۳) سیاہی دوا

حَبْر - (ع-م) ساسن لیٹ - ایک کپڑا

حَبْرِ عَظْم - (ع-م) پوپ - روم کا

سر دار - پادری - پونٹیف -

حَبْس مَعَ التَّشْعِيل - قید با مشقت

حَبَاک - جلد باندھنا۔

حَبْلُ الْكَبُول - چھوٹی رسی -

(صنڈر کی)

حَبْلُ الْمَسَاكِين - ساند

حَبْلِي - حاملہ عورت (حبالی) جمع

حَبِيَّة - دانہ (حَبَات) جمع

حَبِيَّة - بندہ کی گولی (حَبَات) جمع

ہیں جو محض غلط ہے)

حَامِض - (ع-م) ایسڈ - ترشی

حَامِل - اٹھانے والا - لدنے والا -

حَامِلُ الرَّأْيَةِ - علم بردار - جھنڈا

اٹھانے والا -

حَامِيَّة - سپاہیوں کا دستہ جو کسی

قلعہ میں مقیم ہو - محافظ

سپاہیوں کی جماعت - فوج -

حَان (ع-م) سے فروش کی دکان -

حَانَتَةُ الشَّرَابِ خانہ -

حَانُوت - مخزن -

حَانُوت - (ع-د) سریانی - (قبول)

بعض معرب قدیم معنی شراب خانہ

دکان - شراب کی دکان -

(خَوَائِنَتَا) جمع -

حَارِنِيَّة - (ع-م) شراب خانہ -

حَارِوْمِي - (ع-م) حیثہ (سانپ) کو

اسم فاعل - سنپیرا - سانپ والا -

جمع حَوَاة -

حَارِيْد - غیر جانب دار - نیوٹرل -

حَارِيْرَه حَارِيْرَه - فوراً بنا یا ہوا -

حجر آرزق - ایک قیمتی نیلا پتھر۔
 حجر الامتجان - (ع۔م) کسوٹی۔
 حجر الحاکوک - (ع۔م) اکوہ آتش فشاں
 سے پگھلا ہوا مادہ حجری۔ لادا۔
 حجر الخفاف - جھاواں پتھر
 حجر التیشیہ - (ع۔م) حقے کی چلم
 حجر الصقعی - (الحجر الصقعی) (ع۔م)
 قرظینہ۔

حجر الحکات
 حجر الامتجان { کسوٹی۔ معیار
 حجر النار - چقماق۔
 حجر علی الحجر ابد - (الحجر علی الجرائد)
 ع۔م۔ اخبارات پر سختی، نگرانی
 اور روک تھام
 حجر کریم - جوہر۔ گوہر
 حجرہ توقانیہ - اپر روم۔ اوپر کی منزل
 حجر ہوائی - شہاب ثاقب۔ وہ پتھر جو
 کرہ ہوا سے گرتا ہے۔
 حجریت - پتھر پن۔ پتھر ہو جانا۔ سختی۔
 حجریتہ - (ع۔م) سڑک وغیرہ پر پتھر
 بچھانے کا فن۔

حجۃ - دُئل
 حجۃ البرکہ - کدوخی۔ حجۃ السواد بھی
 جہان - الاچی۔
 حثت - موت
 حثاک - ضروری۔ لا بدی۔
 حثوۃ حمو صنف - (۱) کھٹائی۔ ترشی۔
 (۲) تیزاب۔ ایسٹ۔
 حثہ - ہر چیز کا ٹکڑا۔
 حجاب - توہید۔ گنڈا۔
 حجابتہ - چمبر لین کا عہدہ۔
 حجاب مسدول - لٹکایا ہوا پردہ۔
 حجار - سنگ تراش۔ پتھر چھوڑا۔
 حجاری - صنعت سنگ تراشی۔ پتھر کا کام۔
 حجاتہ بالکاسات - بھری شلی۔
 حجۃ - کورٹ آن لاز کا سرٹیفکیٹ۔
 (حج) جمع
 حجۃ - وثیقہ۔ دستاویز۔ تمسک۔
 حجر - (ع۔م) شطرنج کا مہرہ (حجائہ۔
 آحجار) جمع۔
 حجر - (ع۔م) لیتھو سنگ طبع
 خجرات نشمین - بیٹھنے کے حجرے یا کونٹھریاں۔

حجر - مانت

حجر: اداری - انتظامی ضبطی -

حجر: السفینة - دشمن کے جہاز کو روکنے

کا حکم -

حجیوس (مغرب یونانی انگشوس)

حجیوس { زہریلا درخت -

حجہ - وثیقہ - تمسک - انکار باللسان -

حجیم - موٹا - دلدار

حدا - آہن گر - لہار -

حد اذنی - چھوٹی ٹسی چھوٹی مقدار -

حد اقصی - بڑی سے بڑی مقدار

حدرا مطرئی - شراب کی تیزی دریافت

کرنے کا علم -

حدیث السنن - جوان -

حدید اللسان - چرب زبان

حدید النظر - تیز نظر -

حدیقہ - باغ - پارک

حدیقہ عمومیہ - (ع - م) پبلک گارڈن

باغ عامہ -

حر - (ع - م) روشن خیال - آزاد خیال -

(اخرار) جمع -

حراج - (ع - م) نیلام - انگش - نیلام کرنا -

حراج - نیلام کرنے والا - اکثر

حراس السلطان - باڈی گارڈ - خاص

بردار - فوج محافظ شاہ

حراف و زرنگ - حراف - گویا -

باتون - تقریری - کسان - زرنگ

چلاک - چست -

حراقہ - (ع - م) تار پیڑ - جہاز تباہ کن

(یونانی میں آتش بار جہاز کو حراقہ

کہتے تھے) - (حراقات) جمع

حراقہ - پلاسٹر - مرہم جس سے چھالا پڑ جائے

حراقہ - (ع - م) زر کے تار جلا کر جو چاندی

یا سونا نکالا جائے -

حراک - (ع - م) مقرر یا ایکٹر کی تقریر

یا کھیل کرتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں

کی حرکت - پوزیشن -

حرام - (ع - م) شال - کبیل - بلائکٹ -

حرامی - چور - رہزن (حرامیہ) جمع -

حرائر - (حریر کی جمع) ع - م - شیمی کپڑے

حربا - (مغرب فارسی خوبان بمعنی محافظ

آفتاب) آتش پرست - شماس

حَرْبِ اَهْلِي - خانہ جنگی - سیول وار۔
 حَرْبِ اہلِیَہ - خانہ جنگی۔
 حَرْبِ زُبُون - ہولناک لڑائی۔
 حَرْبِہٖ مِفْرَاق - بے رحمی - نیزہ
 حَرْبِہٖہٖ (ع۔ م) محکمہ جنگ - جنگی قوت
 حَرْبَہٗ اَلْوَجْہِہٖ رِخْصَارَہ - کلا
 حَرْث و نسل - زمین اور اس کی پیداوار
 حَرْثُ دُون - (ع۔ د) ارامی - زرگاہ۔
 گھوڑ پھوڑ (دکنی) سوسار۔
 حَرْس - اسکورٹ - محافظ راہ - ہم رکاب
 گارڈ - نگہبان - بدرقہ - راہ کی
 حفاظت کے لئے سپاہیوں کا ساتھ
 جانا۔
 حَرْسُ السُّلْطَانِی (ع۔ م) الحرس السلطانی
 فوج خاصہ - باڈی گارڈ۔
 کوکبہ سلطانی
 حَرْسِ اَمَامِی - (دیکھو باشدار) ہراول
 دان گارڈ۔
 حَرْش - جنگل

حَرْکَت - حملہ - چڑھائی
 حَرْکَہٗ - وضع جس سے خیال جوش وغیرہ
 نکلا ہو۔
 حَرْکَہٗ (ع۔ م) شورش - غدر - بغاوت
 حَرْکَتِ اَفْسَاد - قومہ - جوش سیاسی
 ایکٹیشن - روانگی - کوچ۔
 حَرْکَتِ اَزِ تَفَاعُلِی - پانی کا چڑھاؤ - تَد
 حَرْکَتِ اِسْتِخْفَاضِی - پانی کا اتار - جزر
 حَرْدَان - (مغرب فارسی خردان) (۱)
 کاغذ رکھنے کا چرمیں تھیلا۔ (۲)
 گلدستہ (۳) کسبت - حجام کا ڈبہ۔
 حَرْمَلَہٗ - زمانہ کرتا۔
 حَرْمَہٗ - (ع۔ م) بیوی
 حُرُوف - (ع۔ م) ٹامپ
 حُرُوتِ اَزَادِی - لبرٹی۔
 حُرُوتِیَہٗ (ع۔ م) آزاد خیالی - روشن خیالی۔
 حُرُوتِیَہٗ الْاَوَّلِیَّان - امور مذہبی میں آزادی
 حُرُوتِیَہٗ دِیْنِیَہٗ - مذہبی آزادی۔
 حُرُوتِیَہٗ شَخْصِیَّہٗ { شخصی آزادی
 حُرُوتِیَہٗ الشَّخْصِہٗ }
 حریری - ریشمی کپڑے بیچنے والے

حَرْفِ نَظْمِی - وہ حرف جس کا مخرج نالو ہے

حُرْمِیس - ہوشیار - واقف -
 حُرْمِیۃ سِیَاسِیۃ - ملکی آزادی -
 حُرْمِیۃ - (ع - م) بیٹی - کمر بند - کمر پٹا -
 حُرْمِیۃ الْأَحْرَار - لبرل پارٹی - انگلستان
 کی ایک سیاسی جماعت
 حُرْمِیۃ الْأَسْتَبْدِادِیۃ - (ع - م)
 کنسر ویٹو پارٹی - انگلستان کی ایک
 سیاسی جماعت جو (حُرْمِیۃ الْأَحْرَار)
 کے مقابل ہے -
 حُرْمِیۃ الْحَرْب - وار پارٹی - جنگ کرینوا
 گروہ -
 حُرْمِیۃ الْحُرْمِیۃ - لبرل پارٹی - یورپ
 حُرْمِیۃ الْمُتَشَابِهِیۃ - اکی ایک سیاسی
 جماعت جو آزادی کی حامی ہے -
 حُرْمِیۃ الْمُتَحَافِظِیۃ - (ع - م) کنسر ویٹو
 پارٹی -
 حُرْمِیۃ الْمُتَبَدِّلِیۃ - کنسر ویٹو پارٹی -
 حُرْمِیۃ سِیَاسِیۃ - پولٹیکل پارٹی -
 حُرْمِیۃ - گٹھری بنانا - باندھنا - پارسل
 پیک کرنا -
 حُرْمِیۃ - پارسل - گٹھری - بچہ - پلندہ

حُرْمِیۃ - (ع - م) اردو مہینہ مطابق جون -
 حُرْمِیۃ - قوت - ادراک -
 حُرْمِیۃ - بل - مطالبہ -
 حُرْمِیۃ الْأَحْرَارِ - جن حسابات کی
 ادائیگی لازم ہو -
 حُرْمِیۃ الْأَحْرَارِ - وہ حسابات جن کی رقم
 قابل وصول ہو -
 حُرْمِیۃ التَّوْبِیۃ - حساب کا تصفیہ یا
 جھڑتی -
 حُرْمِیۃ التَّامِّ وَالْمُقَاصِلِ - علم ریاضی
 کی ایک قسم -
 حُرْمِیۃ التَّوْبِیۃ - (ع - م) ایک کیپیٹنگ
 دفتر داری - حساب کتاب -
 حُرْمِیۃ التَّوْبِیۃ - جھوٹا حساب -
 حُرْمِیۃ جَارِی - چلتا لیکھا - جمع - خرچ -
 حُرْمِیۃ رُومِی - تاریخ یا سنہ کا وہ قدیم طریقہ
 جو یورپ میں رائج تھا -
 حُرْمِیۃ مَطْلُوبِ مِیۡنَہ - دین کا کھاتہ
 حُرْمِیۃ مِیۡنَہ - زنگٹا یا بے کا حساب
 حُرْمِیۃ - { رسالہ
 حُرْمِیۃ -

حِصَانِ اَشْمَر - بھوڑا گھوڑا۔

حَسْم - (ع۔ م) قیمت میں کمی کرنا۔

حَسَبَات - (ع۔ م) جذبات۔ فیلینگ

حَشْرَه - کیرا لکھوڑا۔ (حشرات) جمع

حَشْم - مویشی۔ دھن۔ جانوروں کا گلہ

حَشْوُ الْبِنْدِ الْعَقِيْبَةِ - (ع۔ م) بندوق بھڑا۔

بندوق میں گولی بھڑا۔

حَشِيْشِ الْمَغِيْبِ - گانجا۔ بھنگ۔

حَصَاة - ککمر۔ پتھری (ایک مرض)

حِصَان - زرگھوڑا

حَصَالِيَان - (ع۔ م) روز میری۔ ایک

انگریزی پھول۔

حَضْبَةٌ - مرض چھپک۔ آبلہ۔ سیتلا۔

حِصَص - منافع رسدی کے حصے۔

حُصُولُ الْجُرُودِ - حساب آمد و خرچ نمکٹ

مندرجہ ذیل کا مقابلہ و امتحان کرنا۔

حَضْوَه - پھیل۔ گار کا پتھر

حَصِيْر - بویا۔ چٹائی۔

حَصِيْرِي -

حُصْرِي - بویا بان۔ چٹائی بچنے والا

حَصِيْرِيَان - حصیر بان

حَضَار - (حاضر کی جمع) حاضرین۔

حَضَارَةٌ - (ع۔ م) شائستگی۔ تہذیب۔ تمدن

حَضَانَةٌ - بچے کی پرورش

حَضْرَات - حضرۃ کی جمع۔

حَضْرَةٌ - (ع۔ م) ایک کلمہ تعظیمی جو نام سے

پہلے مثل جناب۔ حضور آتا ہے۔

مسٹر صاحب۔

حَضْرَتِ خْتَمِي مَابِ عَلَيْهِ السَّلَام - (ن۔ م)

خاتم المرسلین حضرت پیغمبر صلی اللہ

علیہ وسلم سے مراد ہے۔

حَطَّاب - خجکل سے لکڑیاں لانے والا۔

لکڑیاں بچھنے والا۔

حَفَاض - نگوٹ۔

حُفْرَةٌ - غار۔ کھدائی۔ خندق۔

حَفْش - سیاہ خانہ۔ (احشاش) جمع۔

حُفْلَةٌ - (ع۔ م) جلسہ۔ مجلس۔ محفل۔ حفلات

حَفِيَّة - ٹونٹی۔

حَقِيْقٌ - جو دلیل سے ثابت ہو

حَقِيْقُ الْمَلِكَةِ - اختیار یا حد سماعت جو رسد

علاقہ اختیار سماعت۔

حَقِيْقُ الْمُرُوْر - محصول راہ داری۔

حکمہ الڈسٹوری - (الحکم الڈسٹوری)

(ع-م) پارلیمنٹ والی سلطنت

حکمہ العزنی - (ع-م) اربٹری گورنمنٹ

وہ سلطنت جو کسی جماعت یا ثالث

کی نگرانی میں قائم ہوتی ہے۔

حکمہ العصبی - نواب و عقاب مراد ہے۔

حکمہ العقوبیہ - تجویز سنا

حکمہ المحکمین - فیصلہ ثالثی

حکمہ التمزاع ملکیت - جلا وطنی کی تجویز

حکمہ باشی استنبالیہ - شفاخانہ کا

صدر افسر

حکمت - معرفت اشیائے موجودہ۔

حکم مہندی - تجویز یا ڈگری جو اٹھانے

نالش میں صادر کی جائے اور جس کا

منشا فیصلہ قطعی کرنے کا نہ ہو۔

حکم جنائی - فیصلہ فوجداری

حکم دار - گورنر - کمانڈنگ آفیسر۔

حکم دار - (ع-م) (۱) ویسٹ (۲)

سپاہ دار - سپاہ سالار۔

حکم دار پولیس - کمانڈر پولیس

افسر پولیس۔

حقانیت - (ع-م) محکمہ عدالت دیوانی

جہاں حق کا دعویٰ ہوتا ہے۔

حق - (ع-د) ارامی - ہر اکیس

کھڑی کھیتی۔

حق منکسب - محصلہ استحقاق

حقنہ - پکاری - عمل (حقن) جمع

حقوق - (ع-م) حق کی جمع - قانون

حقوق الاممہ - قومی قانون -

حقوق الملل - قومی یا بین الدولی

قوانین ملیہ - قوانین -

حقوق مستحیذہ - وہ حقوق جو غیر جانب دار

سلطنت کو حاصل ہوتے ہیں۔

حقہ باز - بازی گر - بھان مٹی - مداری

حقہ بازی - بازی گری - بھان مٹی کا تماشا

حک - (ع-م) قطب ناما - قبلہ نما۔

حکاک الالکاسن - ہیرا تراشنے والا۔

حکم - تجویز - فیصلہ (ع-م) سلطنت

گورنمنٹ۔

حکم اثبات الذنب - تجویز ثبوت جرم

حکم الحجج - فیصلہ ممانعت۔

تجویز ممانعت۔

حکومہ دارینہ - سرداری

حکومہ دستوری - آئینی حکومت - وہ سلطنت جس میں پارلیمنٹ کے ذریعے

بادشاہ کی طاقت محدود ہوتی ہے۔

دستوری حکومت

حکیم عرفی - کسی شخص واحد کا فیصلہ تالیفی

حکیم غیبی - فیصلہ بوجہ عدم پیروی -

تجویز عدم پیروی - تجویز عدم

تعمیل حکم عدالت -

حکیم محکمہ استیناف - ہائی کورٹ کا فیصلہ

حکیم محکمہ جزئیہ - سمری ٹریبونل کی تجویز

حکیم تائف - تجویز مرافعہ -

حکومت - (الحکومتہ) ع - م - گورنٹ

سلطنت -

حکومتہ اجرائیہ - اگزیکوٹیو پور -

تعمیلی اقدار -

حکومتہ الاعیان - امرا اور شرفا کی

سلطنت -

حکومتہ انخواص - وہ سلطنت جس میں

چند امرا حکومت کا انتظام کریں -

حکومتہ السنیہ - (الحکومتہ السنیہ)

ع - م - ترکی گورنمنٹ -

حکومتہ الشنب - جمہور یا کسی قبیلہ کی

حکومت -

حکومتہ انتخاریہ - نیابتی سلطنت

حکومت دستوری - پارلیمنٹ

حکومہ دستوری - اولی سلطنت

کانسٹیوشنل گورنمنٹ -

حکومتہ شوریتہ - ریپریزنٹیو گورنمنٹ

نیابتی حکومت -

حکومتہ متساہلہ - وہ حکومت جو امور

ملکی یا مذہبی میں آزادانہ برتاؤ کی

حامی ہو - لبرل گورنمنٹ -

حکومتہ محلیہ - مقامی حکومت

حکومتہ مطلقہ - شخصی سلطنت -

آبسولیوٹ پور - مطلق العنان -

یا خود مختار ریاست -

حکیم بائشی - (ع - م) افسر اطبا -

صدر طبیب - رئیس الاطبا -

حکیم بیطاری - سالونری - وٹرنری - جن

خلاجی - روئی دھنکنے کا کام -

خلاجی - (ع - م) عوام کی زبان ہے -

دھنیا - حلاج -

حَلَّاق - نائی - حجام -

حَلَّال - جس میں کسی قسم کی قید نہ ہو

حَلَّاءِہ - (ع - م) مٹھائی -

حَلَب لَمْ فَوَلَّاد

حَلَبِی سَازِی - بٹن کا کام

حَلَزُون - گونگا - (حَلَزُونَات) مچ

حَلَزُون - سنگھ - گھونگا -

حَلَزُونِی - بیج دار کیل -

حَلَف بِالْمَحْرُکَات - مقدس چیزوں

کی قسم کھانا -

حَلَق - کان کی بائی -

حَلَوَانِی - مٹھائی بنانے والا -

حَلَوِی - چقندر -

حَلَه - گوشت ترکاری پکانے کی چوٹی

دیکھی -

حَلِیب - دودھ

حَلَّاق - چھوٹی پچیپک -

حَمَّال - (ع - م) قلی -

حَمَّالَاتُ الْبِظَلُون - (ع - م)

پتلون کے تسمے -

حَمَّامَاتُ عَمُورِ مِیْرَہ - پبک - عامۃ الناس

عَسَلِ خَانِی -

حَمَّال - (ع - م) بڑھی - سیلی - ہار (۲)

وہ چوڑے بچیتے کا دو ال جسکو

باوٹھا یا ویسراے گلے میں

ڈالتے ہیں - بال -

حَمَّایَہ - (ع - م) وہ لوگ جو کسی

سلطنت میں رہتے ہوں مگر اسکی

دعوت نہ ہوں بلکہ کسی دوسری

سلطنت کے زیر حمایت ہوں -

دعوت - وہ سلطنت جو کسی قوم کی

سلطنت کی نگرانی میں ہو -

حَمْرَہ - سرخی - لالی - رنگ سرخ -

حَمَض - (ع - م) ایسڈ - تیزاب

حَمَضُ الْخَمَل - اسٹیک ایسڈ

حَمَطِیْط - (یونانی ہیمنٹیس) ایک

حَمُوط - اکیڑا جو ہار میں پیدا ہوتا ہے

حسابتہ پوروں کو اس سے تشبیہ

دیتے ہیں -

حَمَلَة - (ع - م) فوج کا دستہ - اسیاب کا

ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔
 حمل و نقل - لادنا اور اتارنا - اتارنا چڑھانا۔
 حرم - آتش خیر بہاڑوں کا پگھلا ہوا مادہ
 حمو کوکہ - بار - بوجھ - بھرتی - کھپ
 کرایہ بار برداری -
 حمو کوکہ المروکب - بار جہاز - مال جہاز
 حرمیہ - مجلس انتظامی یا وضع آئین -
 حناء - رت جگا - جس رات کو شادی میں
 جاگتے ہیں -
 حنّانہ - مہربانی - نوازش
 حنش - زسانپ
 حقیقیہ - قلعی جو حوض وغیرہ میں پانی
 نکالنے کو لگاتے ہیں - ٹونٹی -
 حتمہ - عورت کا نام
 حتمہ - جوش - رقت - دسوزی
 حوادث التلیغراف - تار برقی
 کی خبریں -
 حوادث انجمنیہ - جرائم فوجداری
 حوادث تلغراف الاخیرہ -
 تار برقی کی آخری خبریں -
 حوادث محلّیہ - لوکل خبریں - مقامی

خبریں -

حوارہ - کنکر

حوالہ - درافت ہندسی - پل - مطالعہ -

حوالہ البحرزائہ - کاغذ زرہ سرکاری

جس پر سود ملتا ہے -

حوالہ ترفیح مال عند الاطلاع - درشنی

حوالہ - خورد حساب - مطالعہ (حوالات)

حسب

حوالہ بوستہ خارجیہ - ممالک غیر کامنی آرڈر

حوالہ بوستہ داخلیہ - ان لیسٹ

ہنی آرڈر -

حوالہ تقدیمی - درشنی ہندسی -

حوالہ داخلیہ - پل آف اسٹینج جو مالک

کے اندر خرید کیا گیا ہو اور مالک کے

اندھی قابل ادا ہو -

حوالہ لشلأشہ اشہر - ہندسی میعاد

شہادہ -

حوالہ - کپڑوں (لباس) کی گٹھڑی - میلے کپڑے

جو دوونے کے لئے دئے جائیں

انساب

جوش - سخن خانہ

حیل تَدْلِیْسِیَّة - فریب کی تدبیریں -
دھوکے کی چالیں -

حیوانات الحئیة - جانور ان زندہ جیسے
گھوڑے - گدھے - گائے بکریاں وغیرہ

حیوانات بریة - جنگلی جانور

حیوانات دروا - بے دانت کے جانور

حیوانات لیونہ - دودھ پلانے والے
جانور -

حیوانات مجتہرہ - کترنے والے جانور -

— — — — —

باب الخاء

خابیه - (مغرب ارامی) خم

خاتم اللہ ولہ - سلطنت کی مہر

خاتم حکمداریہ خاض - پریوی سیں -

مہر شاہی -

خاتم رشمی - سرکاری مہر -

خاتون - (ع - د) ترکی - لیدی - بیگم -

مڈم - (خواتین) جمع

خاوم الشفرہ - ویٹر - کھانا کھلانے والا

ملازم -

حوش البقر - گوسالہ

حوض - گودی - لنگر گاہ -

حوض دریا کا طاس - ملک کا وہ حصہ

حوضہ جس کا کل پانی کسی ایک دریا میں

جاگرتا ہو -

حوض السوئیس - نہر سوئیس کے متصل

حوض سوئیس ہے جس میں بوقت

طغیانی و طوفان جہاز لنگر انداز ہوتا ہے

حوض خانہ - وہ مکان جو حوض کی حفاظت

کے واسطے بنایا گیا ہو -

حوض خانہ کاری - حوض کے اوپر کی

کھپرل - چھپر یا سیان -

حوضہ وہ قطعہ زمین جس کا پانی پہنچ کر

دریا میں جاتا ہو - طاس

حوقلہ - جس کا ذکر کم زور ہو -

حوک - بنا -

حیاط - دیوار کا احاطہ - صحن انگنائی -

حیثیہ - عزت و دولت - حیثیت الحکم -

حیدر انلو - ایک قبیلہ کا نام -

حیضہ - احاطہ - چار دیواری - حصار -

حیشان - جمع (حوش) -

الخطار

خارجی - بیرونی -

خارجی - (سولہ) غیر بورڈر طالب العلم -
ڈسے سکار -

خارجیہ - (ع-م) وہ مدرسہ جس میں
بورڈنگ نہ ہو -

خارجیہ - (ع-م) فارن آفس ممالک
غیر کے متعلق محکمہ -

خارطہ - (مغرب لاطینی چارتہ) جغرافیہ نقشتہ
جغرافیہ کا نقشہ -

خارطہ { جغرافیہ کا نقشہ
خریطہ

خاروف - بھیر کا بیج -

خازن - خزانچی -

خازن الملک - لارڈ ٹریسزر - امیر خزانہ -

خاستوقہ (ع-د) ترکی چمچہ

خاشوقہ - چمچہ -

خاطر - (ع-م) - (۱) تصور - خیال (۲)

پاس - لحاظ - (خواطر) جمع

خاطر - (ع-م) آنے والا (خطار) جمع

خاطف - عورتوں یا لڑکیوں کو بھگانے

جانے والے -

خاطف البشیر - انسان کو جبراً لے گئے والا

خاقان - (مغرب ترکی) مغلوں کے بادشاہ

کالقب -

خالص المصارف - محصول یا اخراجات

سے پیری یا معاف -

خالصہ - شاہی ملک - زمین شاہی -

علاقہ شاہی -

خالصہ اجرة البرید - (ع-م) پیسہ

محصول ڈاک ادا کیا ہوا -

خالی من الرسوم - بلا اخراجات -

اخراجات سے معاف -

خام - (۱) ع-م - سوتی کپڑا چینٹ (۲)

مغرب فارسی - ناپختہ کچا -

خان - (مغرب فارسی) (۱) دکان - سرائے

ہوٹل - (۲) دکاندار

خانات - ہوٹلیں - سرائیں -

خانقاہ (مغرب فارسی خانگاہ) درویشوں

خانگاہ { اور زاہدوں کا عبادت خانہ

خانیقہ

خانم - (مغرب ترکی) صاحبہ لیڈی - خاتون

خانوار - گھر - مکان - جوہلی -

خانہ - کالم - عمود -

خباز - نان بانی -

خبازۃ - نان بانی کا کام

خبر رشمی - سرکاری اطلاع -

خبرہ - (مغرب انہ سی کوہہ) برس تانبہ

خبریتہ - خبرین - اطلاعیں -

خبر - روٹی

خبر از فر دخی - (ع-م) پاڈروٹی - نان پنہ

خبر الغراب - جو چھتری کی طرح موسم

بارش میں زمین سے اُگتے ہیں -

خبر بلدی - (ع-م) دیسی روٹی

خبر عشم - خشک روٹی - خراب روٹی -

خبر - (ع-م) اکیرٹ - مبصر -

خبر - پیشہ ور - محاسب - ماہر - مبصر -

خبر الخطوط - اکیرٹ - ان ہینڈ رائٹنگ

خطوط یا تحریرات کی شناخت کا ماہر

خبر قانونی - لیگل ادوائزر - مققن

خبریں - (مغرب سریانی) افروشر

ایک قسم کا حلوا

خجام - (م-ترکی) بیہودیوں کا راہب

خدش - رگڑ - گھسانی -

خدم القصر - افسروں کا محل -

خدمتہ - (ع-م) نوکری - فرض - فیشل

خدمۃ الدوکتہ السیاسیۃ والقلمیۃ -

سیول سروس - دیوانی نوکری -

خدمۃ الیومیۃ - روزانہ انتظام -

خدمۃ رشمیۃ - سرکاری فریضہ یا ڈیوٹی

خدمۃ عسکریتہ - فوجی نوکری -

خذن - دوست (اخذان) حج

خذیو - (مغرب فارسی) شاہ مصر کا لقب

جو تزکوں نے ۱۸۶۵ء میں عطا کیا

خذیوی - (منسوب بہ خدیو) (۱) مالک

بادشاہ وزیر (۲) مصر کے سابق

حکمران کا خطاب -

خرّاج - کلام -

خرّاج - پھوڑا پھنسی -

خرّاط - خراہی

خرّاب اطلال - ڈھیر - کھنڈر -

تودوں کے ڈھیر

خرّبز - (مغرب ترکی قارپوز) تربزہ

خرّوس - کارٹوس -

خرج - (مغرب فارسی) خرصین - جوال -

خَرْجُ الْجَنْبِ - جیب خرج -

خَرْجُ كِرَايَةِ دَرَبِيمَةِ - فریٹ اور انشورنس

کافرہ

خَرْجَةٌ - (معرب فارسی خرگاہ) جھروکا -

خَرْجَةٌ - (معرب) پورٹمنٹو - وہ چھوٹا سا ٹھیلہ

جو زمین میں ہوتا ہے - خرچین -

خَرْجَةُ الْجَبَّةِ الشَّيْرَقَةِ - جیب خرج - پاکٹ

خَرْجُ دَقِّ - (معرب فارسی خوردہ) چھرا -

خَرْجُ دُقِّ - (خرادوق) جمع

خَرْجُ دَلِّ - رائی -

خَرْجُ دَلِيَّةٍ - رائی دان

خَرْجُ دَوَاتٍ - (معرب فارسی بواسطہ ترکی)

معمولی اسباب تجارت - اشیائے

فروختنی -

خَرْجُ دَوَائِيٍّ - بساطی -

خَرْجُ دَوَائِحِيٍّ -

خَرْجُ دَاهٍ - دیکھو (خردوق) -

خَرْجُ دَوِيقٍ - (معرب فارسی خوردہ) ایک قسم

کا طعام جو مثل حریرے کے پکایا جاتا ہے

خَرْجُ زُ الظُّهْرِ - ریڑھ کی ہڈی -

خَرْجُ زَانٍ - (غالباً یہ ملایا کی زبان ہے)

دیکھو (خیزران)

خَرْجُ زَمَنَةٍ - معرب یونانی خرمنہ - یوبر - نوزہ

خَرْجُ زَهِّ - مہرہ - سکا -

خَرْجُ زَهْرَةٍ - درخت کینر

خَرْجُ سَانَةِ سَبْجٍ - گچی -

خَرْجُ سَبْتِيَانٍ - (معرب کرسچن) عیسائی

خَرْجُ سَبْتِيَانَةٍ - (معرب کرسچیان) ملک

ناروے کا پائے تخت -

خَرْجُ شَفْتٍ

خَرْجُ شَوْفٍ { ایک قسم کی بھاجی -

خَرْجُ طَوْشٍ - (معرب انگریزی) کارتوس

خَرْجُ طَوْشٍ - تاجرون کے روزانہ فروخت کا

کچا چٹھا -

خَرْجُ طَوْشَةٍ - کارتوس - ٹوٹا

خَرْجُ طُومٍ - ملک سوڈان کا پائے تخت -

خَرْجُ ظِّ

خَارِطَةٍ { نقشہ

خَرْيَطَةٍ

خَرْجُ طَيْبِطٍ - (افریقہ کی کسی زبان سے آیا ہے)

کرگدن - گینڈا

خَرْجُ طَيْبِطٍ - پروانہ

خَزْ عَوْب - نرم شلخ - (خزاعیب) جمع
 خَزْ فَا ن - جمع (خزوف) مینڈھا - دُنبہ -
 خَزْ ق - سوراخ -
 خَزْ ق - نادان - احمق
 خَزْ قَاہ - (معرب فارسی خزگاہ) خیمہ - ڈیرا -
 خَزْ قَاہِمہ - (معرب خزگاہ) خیمہ ڈیرا
 خَزْ قَہ - دیکھو (خزقاہہ) -
 خَزْ قَہ - عبا - لباؤہ -
 خَزْ کُو ش - (معرب فارسی خزگوش) خزگوش -
 خَزْ م - (معرب فارسی) خوش تازہ
 خَزْ وَا ر - ایک وزن جو نو من تیرہ سیر پانچ
 چھٹانک ایک تولہ ۸ ماشہ کے برابر ہے -
 خَزْ وِج - چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے
 وقت ضائع ہوتا ہے -
 خَزْ وِجِی - باہر نکلا ہوا - ابھردان
 خَزْ وِس - پاشنہ بندوق -
 خَزْ وِغ - ارٹ
 خَزْ وِو ف - دیکھو (خاروف) -
 خَزْ وِی نِج مَدْرَسَہ - کسی مدرسہ کا سند یافتہ
 خَزْ وِی ر - رقیق شے کا تھوڑا تھوڑا کرنا -
 خَزْ وِی طَہ - (معرب لاطینی چارتا) ممالک کا نقشہ

میا پ - خارطہ -
 خَزْ - (معرب فارسی خز) - (اندلسی میں خزج)
 ریشم - ریشمی کپڑا -
 خَزْ ا م - ڈورا -
 خَزْ ا نَہُ السَّیْح - (معرب) مخزن -
 میگزین - گودام - سلاح خانہ
 خَزْ ا نَہُ اَلکُتُب - کتب خانہ
 خَزْ ا نَہُ اَلْمَلْبُوس - کپڑے رکھنے کا
 صندوق -
 خَزْ ا نَہ - سرکاری محکمہ
 خَزْ ا نَہُ حَوَاج - تو شک خانہ
 خَزْ وِ اَلعَیْن - شارٹ سائٹ ہونا -
 قصیر النظر ہونا -
 خَزْ وِ اَلق - (معرب فارسی خوش رنگ یا
 خود رنگ) ایک قسم کا سفید کپڑا -
 خَزْ وِ ن - (معرب فارسی) خزانہ
 خَزْ وِ ن دَا ر - (معرب فارسی) خزانہ دار
 خزاہنجی -
 خَزْ وِ نَیْنَةُ اَلدَّوْلَہ - وہ روپیہ جو گورنمنٹ
 کو قرض دیا جائے - کفالت حاجات
 سرکاری مثلاً نوٹ جن کا سودا ہوتا

مقررہ پر ہوتا ہے پہلک فنڈ۔

خَزْرَمِيْنَةُ الْمِيْرِي - سرکاری خزانہ۔

خزانہ عامرہ

خَزْرَمِيْنَةُ عَامَّة - خزانہ عامرہ۔ اکیسویں ٹریڈی

خَزْرَمِيْنَةُ مَالِيَّة - فینانشل ٹریڈری

خَسَارَةٌ - نقصان - ٹوٹا - خسارہ -

خَسَائِر - نقصانات

خَشْكَةٌ - (مغرب فارسی خستہ) کسلمندی

نا درست طبیعت -

خَسْتَةُ خَانَةٌ - بیمارستان - ہسپتال

خُسْرَان - نقصان - ہلاکت -

خُسْرُوَانِي - (مغرب فارسی) نرم اور باریک

ریشم جو بہت عمدہ بنا ہو۔

خُشْبَاب - لکڑی والا۔

خُشَابَةٌ - (۱) سگ خانہ - کتا خانہ (۲)

حقیر گھر

خُشَاف - (مغرب فارسی خوش آب) میوے

انگور جنھیں پانی میں ڈالا ہو۔

خُشْبُ الْبُنْدُقِيَّة - بندوق کا کندہ

خُشْتَق - (مغرب فارسی) کم کے

خَشْك (عوام) (۱) قریب کا جب

خَشْكَا شْتَه - مجوسیوں کا قبرستان

خَشْكَا ر - (مغرب فارسی) گیہوں کا کچا آٹا۔

بن چھنا ہوا آٹا۔

خَشْكُنَا نَج - (مغرب فارسی خشک نان) مالین

خَشْكُنَا نَك - دیکھو (خشکناج)

خُصَّ - جھونپڑی (خصاص) جمع

خِصَامٌ - جھگڑا - خرخشہ - قضیہ

خصتہ - توڑا۔

خُضْم - (مولد) کمیشن دینا قیمت کم کرنا۔

خُضْم - فریق

خُضْم سَكُوْتُو - سود وغیرہ کی سہنائی کرنے کے

بعد روپیہ دینا

خُصُوْمِي - (ع-م) اسپلٹ - خانگی۔

بچ کا ماہر علم خاص۔

خُصُوْمِي - پرائیویٹ - ذاتی

خُصَارَاتُ الطَّازِه - ترکاریاں۔

خُصَارَات - سبزی - ہریالی۔

خُصَان - (مغرب فارسی) فزاک کوٹ۔

خُضْرَت - سبزی - ہریالی۔

خُضْرَتِي - سبزی فروش - کنبڑا

خُضْم - کمیشن دینا۔

خَطَّ - (ع-م) گاڑی کی لائن - ریل -

خَطَّاءُ - (مذ صواب) جو مقصود کو نہ پہنچا -

خَطَّاب - (ع-م) لکچر - تقریر (خط)

خَطَّابَتہ - (ع-م) تقریر - اسپچ -

تقریر کرنے کا علم -

خَطَّاط - خوش نویس

خَطَّاطَا - منشی - کاتب

خَطُّ الْبَلَد - حارہ یعنی محلہ -

خَطُّ الْحَرْق - آتش بازی کا خط

خَطُّ الرَّجوع - واپس ہونے کا خط

خَطُّ السَّكَّة (ع-م) ریل کی سڑک

خَطُّ الشَّاقُول - ساؤل کا سوت - پلم لائن

خَطُّ الشَّرِيف - نوشتہ سلطانی

خَطُّ الطَّوَالِي - سیدھی راہ -

خَطُّ الْمَوَاصِل - حل و نقل کا راستہ

خَطُّ السَّار - اونچی دیوار - پیراٹ

خَطُّ النَّظَر - حد نظر -

خُطْبَةُ الرِّيَاسَةِ - پریسیدنٹشل اسپچ -

خُطْبَةُ شَرَوَانِيَّة - فصیح و بلیغ اسپچ -

خُطْبَةُ لِكْچِر - اسپچ - تقریر - وعظ - گفتگو

درس - (خطب) جمع

خُطْبَةٌ نَعْرًا - فصیح خطبہ - فصیح تقریر

خُطْبَةُ ثَلَاث - خط شکستہ

خُطْبَةُ خَبَر

خُطْبَةُ رَسْمِيَّة - سرکاری مراسلہ -

خُطْبَةُ رَفِيع - خوش خط

خُطْبَةُ شَرِيف - فرمان سلطانی -

خُطْبَةُ الْبَنَات - لڑکیوں کو بھگا لیا جانا -

خط قبلی - مصر کا قدیم خط

خط مزدوج - دہری لکیر

خط سُخْتِي - مڑی ہوئی یا خمیدہ لکیر

خطوط - جمع (خط) راہ

خطوہ - قدم - رفتار - (خطاوی) جمع

خطہ - (ع-م) پالیسی روشن -

خط ہمایونی - سلطان روم کا فرمان

خطیب - مقرر - اسپیکر

خفتان - (مغرب فارسی خفتان) ایک

قسم کا جتہ جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں -

فراک کوٹ (ترکی) قلماتی

خفربکبیر - صدر ہراول -

خفص - پست کرنا

خفیر - گارڈمن -

وزن جس کی لکڑی سخت ہوتی ہے۔

خَلْوَةُ الرَّقَادِ - سونے کا کرہ

خَلْوَص - مال تیار کرنا۔

خَلْوَةُ آذَانِ بَابِ سِيَاسَتِهِ - دیوان خاص

خَلِج - (سرب فارسی کاریز) کھاڑی کلفت

نہسہ۔

خَلِيك - عربی، فرانسیسی مرکب خلی۔

سرکہ کی طرح کھٹا۔ سرکہ کی ہی ترشی۔

خَلِيْبِيَّة - مادہ غزال۔

خَلِيْبِيَّة - شہد کی مکھیوں کا چھتہ (خلایا) جمع۔

خُم - (سرب فارسی خُم) فارغ باغ۔

خُم - (سرب فارسی خُم) ادب جس میں گھاس

بچھاتے ہیں تاکہ مرغیاں انڈا دیں۔

خَمَار - (ع۔ م) شراب فروش۔

خَمَارَه - شراب خانہ۔

خَمْرٌ مُشْتَوِكٌ - باسی شراب

خَمْرَةٌ - سبوحہ۔ ٹھلیا۔ مٹکا۔ گھڑا۔ خُم

خَمْسَةٌ بِأَلْفَاةٍ - حساب پنچ فی صد

خَمَل - (فارسی کملی) یہ لفظ کئی زبانوں میں

موجود ہے اس لئے کہہ نہیں سکتے کہ

اسکی اصل کیا ہے۔ (مخمل۔ رکین۔ گھات

خَفِيْر - (ع۔ م)۔ (۱) بدرقہ (رہسہ) (۲)

سنتری۔ چوکیدار۔ بیع خنز

خَفِيْفَت - مہیا کدو۔ ہر کدو۔

خَفِيْفُ الرَّوَادِ - جس پر عیال اور فرزند

کا بار کم ہو

خَفِيْفَةُ الْعَارِيَةِ - چھدری ڈال ہونی۔

خَل - سکہ۔

خَالِس - فارغ ہونا۔ چھٹی پانا۔ برخواست کرنا۔

خَالِصَات - خلاصہ کی جمع۔ جوہر۔ وعین د

عزق وغیرہ۔

خَالَف - (ع۔ م) سوا۔

خَالَع - جوڑ کا اتر جانا۔ بے جگہ ہو جانا۔

سرکاؤ۔

خَالَع - عزل کرنا یا ہونا۔ کام سے علیحدہ ہونا۔

استعفا۔

خَلْف - (ارامی) تیر

خَلْفِيْن - (سرب یونانی خلکنان) تانے

کی بڑی دیگ۔

خَلَقْتُ مَعِيُوْب - عیب دار خلقت۔

پیدائش سے عیب دار۔

خَلِج - (سرب فارسی خذگ) ایک صحرائی

خواجہ - شریف آدمی - معزز آدمی -

جنٹلمین -

خوام - (ع-م) مشتق از خام - پارچہ فروش

خوان - (معرب فارسی خوان)

(۱) دسترخوان (۲) کھانگی میز -

خوجتاس - خواجہ تاش - ایک ہی آقا

کے دو غلام -

خوجہ - (از ترکی) معلم - استاد - مدرس

(خوجات) جمع -

خوذ - خود لوہے کی ٹوپی -

خور - خلیج - کھاڑی

خور - پانی کے راستے جو آپ سے آپ

پیدا ہو جائیں -

خورمی - ضلع کا پادری - پادری

خوش تاش - رفیق ہمراہی - ساتھی -

خیال - اسپ - گھوڑا (شترخ میں)

خیال - شہسوار -

خیالہ - (ع-م) مشتق ہے خیال سے

یعنی اسپ (۱) سوارہ فوج - کیوبی

(۲) سوار

خیالہ خاصہ - سوارہ محافظ فوج -

کی جگہ -

خمن - (معرب فارسی گمان) خیال کرنا -

گمان کرنا -

خمیر - (معرب ارامی) صدفیتر

خمیسہ - (معرب ارامی) بڑی قبا جس کے

کنارے سیاہ کپڑے کے ہوں -

خمیلہ - گھنے درخت (خائل) جمع

خون - (معرب فارسی خون) - (۱) مرغیوں

کا ڈربہ - قفس مرغیاں - (۲) گاڑی

کا ڈیا

خندق - (معرب فارسی کندہ) سناک

خنداق - کھائی -

خندریس - شراب

خندریس - (معرب یونانی خندروس)

خندق البندیرہ - (ع-م) جہاز کے

نصف مستول پر پھیرا بلند کرنا -

مخونکار - شہزادہ -

مخونس - بچہ خوک

خواجہ - (معرب فارسی خواجہ) (۱) تاجر

(۲) مسٹر - صاحب - کلمہ تعظیم -

آفندی -

دَاخِلِي - (ع-م) بورڈر - وہ طالب علم جو بورڈنگ میں رہتا ہو -

دَاخِلِيَّة - (ع-م) - ۱۱ وہ درس گاہ جس میں بورڈنگ ہو - (۲) ہوم ڈپارٹمنٹ - ہوم سکریٹ - سلطنت کی اندرونی نظامت -

دَارَانِي شَيْوَنَات - اعزاز کا نشان یا تمغہ رکھنے والا -

دَارِصِنِي - (مغربی فارسی دارچینی) ایک درخت کا نام جو چین میں پیدا ہوتا ہے دَاوَات - (ع-د-ت) دایہ - دادہ کی

جمع

دَاوَات - (ع-د-ت) دایہ - دادہ کی

دَاوَات - (ع-د-ت) دایہ -

دَارُ الْأَشَار - آثارِ قَدِيمَةِ كَاعِجَابِ خَانَةِ - دَارُ الْأَشَارِ الْعَرَبِيَّة - قاہرہ میں ایک عجائب خانہ ہے جہاں عرب کی

قدیم چیزیں رکھی گئی ہیں

دَارُ الْإِيْتَام - دار الیتامی - یتیم خانہ دَارُ التَّجَارَةِ - چیمبر آف کامرس - تجارت کے امور کے متعلق انجمنِ بفرض

خَيْبَرِي - افغانوں کی قوم (خیابرا جمع خَیْبَرِيَان - بید - بچک دار لکڑی -

خَیْبَرِ مُشِير - عمدہ مشیر

خَیْش - (ع-م) بڑا بورا - تھیلا - تپو کرچی کپڑا

خَيْطُ الْقَنْب - ولایتی باریک ڈوریا -

خَيْطُ الْقِيَاس - ناپنے کی ڈھلی -

خَيْطُ الْكِرَارِه - ریل - ولایتی دھاگے جو لکڑی پر لپٹے آتے ہیں -

خَيْلِ رِيَان - شرط کے گھوڑے - خَيْلِيَّة - حجرہ - کوٹھڑی -

خَيْم - طبیعت

بَابُ الدَّلَالِ

دَابُوق - (ع-م) آرامی - سریشم لاسا دَبِيق - جس سے پرندے کو شکار دَبُوقَاء - کرتے ہیں -

دَاوُدَه - (مغربی ہندی دستورہ) ایک قسم کی زہریلی دوا جس کے پھلوں کو عربی میں (جوز ماثل) کہتے ہیں -

حفظ تجارت -

دَارُ التَّحْفِ - میوزیم - عجائب خانہ

دَارُ السَّعَادَةِ - قسطنطنیہ

دَارُ الشِّفَاءِ - ہسپتال - دوا خانہ

دَارُ الشُّورَى - پارلیمنٹ ہوز -

دَارُ الصَّنْعَةِ - جہاز سازی کا کارخانہ

سلاح خانہ

دَارُ الضَّرْبِ - ٹکسال - منٹ

دَارُ الطَّبَاعَةِ - پرنٹنگ آفس - چھاپنے

کا دفتر - حیدرآباد میں (دارالطبع)

کہتے ہیں -

دَارُ الْعَجِزَةِ - (ع - م) محتاج خانہ -

بکیس خانہ - غریب خانہ - اپاہج خانہ

جس میں لوے لنگڑے اندھے

بوڑھے آدمیوں کی پرورش ہو

دَارُ الْغِنَاءِ - میوزک ہال - نغمہ خانہ - سرگودھا

دَارُ الْقُنُونِ - (ع - م) اکاڈمی - مجلس

علمی - یونیورسٹی -

دَارُ الْقَضَاءِ - کورٹ - محکمہ عدالت

دَارُ الْكُتُبِ - (ع - م) کتب خانہ

دَارُ الْمُتَصَرِّفِ - انگریزی میں - برٹش

رز پڈنسی -

دَارُ الْمَرْضَى - شفا خانہ

دَارُ النَّذْوَةِ - کمیٹی

دَارِج - وضعدار

دَارُ مَضْرِبِ الْعَمَلِ - دارالضرب

دَارِج - (ع - م) مشتق از دس - ندرہ پو

جہاز - آہن پوش جہاز (دو دارج)

جمع -

دَاسُونِس - (ع - م) جاسوس کا مہدیل -

بقول بعض مشتق ہے دَاش سے جسکے

معنی ہیں سازش کے -

دَاش - (معرب) ایک کھیل کا نام -

دَاشِق - (معرب فارسی دستاران) نیا کپڑا

جو نہ پہنا ہو -

دَاعِي - ماموں -

دَاغ - (معرب) وہ نشان جو حیوانات پر

شناخت کے لئے لگایا جاتا ہے -

دَاغِع - ادا کرنے والا -

دَالِيَةِ - (ع - م) (دال) انگور (۲) انگور کی شہر

(دوآلی) جمع -

دَاِمَجَانَةٌ - (معرب اطالیہ دامجانا) قرابہ

گپ بیشیشہ کلاں -

دائم دلوڑ - (مدرس انگریزی ڈام ڈینور)

دایہ - بیمار دار عورت - خادمہ -

مصاحب عورت کی دایہ - آیا -

ڈاموس - (مغرب لاطینی دیموس) وہ

عمارت جو مفید عام ہو - مثلاً حمام

یا حوض کلاں - قید خانہ - سردایہ

ڈاموق - (مغرب فارسی دیموگیر) سخت

گرم روز -

ڈارنق - (مغرب دانگ) بقول قفاجی -

مغرب دانہ

ڈاینمارک - ڈنمارک -

ڈاؤہ - ایک قسم کی دریائی رکشتی

ڈاہنیہ زبانا - بڑی مصیبت سخت شکل

ڈائرہ - ڈپارٹمنٹ - محکمہ - سرکل

ڈائرہ البلدیہ - (ع-م) سررشتہ

صفائی - میونسپلٹی کا محکمہ - میونسپل

کمیٹی -

ڈائرہ التشریفات - سرکاری

استقبالی کمرہ

ڈائرہ الرسوم (ع-م) چنگی خانہ -

ڈائرہ الرسومات (کرورنگیری کا دفتر)

محصول خانہ - کسٹمز ہوس -

ڈائرہ الشنیہ - (ع-م) مصری قرضہ -

ڈائرہ القوانین - لیجسلیٹو سکشن

ڈائرہ المعارف - علوم و فنون کا

سائنس کلو پیڈیا -

ڈائرہ العلوم - علوم و فنون کا لغت

انسائیکلو پیڈیا

ڈائرہ اختصاص المحکمہ - علاقہ اختیار

سماعت -

ڈائرہ اعمال - سررشتہ - صیغہ - محکمہ

ڈائرہ جنابات استینافیہ - کریمنیل

چیمبر آف اپیل کورٹ -

ڈائرہ داخلیہ - وہ دائرہ جس کا محیط

کسی اور دائرے کے محیط کے اندر

واقع ہو -

ڈارم الا خضرار - سدا بہار - ہمیشہ سرسبز

رہنے والا -

ڈاینمارک - (مغرب ڈنمارک) -

ڈائن ممتاز - وہ قرض دینے والا جس کے

پاس تنک قرضہ ہو -

دَایَہ - دَائی - اَنا

دَائی - (د-ع- ترکی) خالو- بزرگ-

حاکم-

دَب - ظالم - بد معاشر

دَکَاڑَہ { (معرب ارامی) (۱) خیابان-

دُثْرَہ { کیارمی (۲) زراعت کھیتی

دَبَّان - کھی

دَبس - راب - گڑ

دَبیق - { (ر-ع- و- ارامی) سریشم-

دَبوقاؤ - { لاسا-

دَبز - (ر-ع- م) الپن - پن - مراکو اور

الجزائر میں دَبس کی جگہ کہتے ہیں-

دَبَلان - (معرب) ماڈاپلام کپڑا-

دَبور - غربی ہوا-

دَبوش - گرز

دَبوش - پن - الپن (دبایش) جمع

دَبلوما - (معرب ڈپلوما) تمغا - سند

دَبیلوما - (معرب ڈپلوما) تمغہ - سند

دَبلون - (معرب اندلسی دبلون) یورپ

کا ایک سکہ جو سولہ ریال کے مساوی تھا

دَباج - (معرب ارامی) - مرغا - مرغی

دَکبان - خروس -

دُوح - عمدہ اور نفیس شے -

دُخال الاذن - دوزخ کے درجے -

دُخان { (ر-ع- م) (۱) سگریٹ چرٹ

دُخان { (۲) ہسوکھا تمباکو -

معرب فارسی ازودہ دخانہ - یعنی

خانہ وہ - وہ خان کے اصل معنی

ہیں دہقان گرجہ کو بمعنی خانہ نہیں

مستعمل ہو گیا -

دُخاخنی - (ر-ع- م) سگریٹ بیچنے والا -

تمباکو فروش -

دُخل - آمدنی - یافت -

دُخل من الرُشوم - انکم ٹیکس -

محصول آمدنی -

دُخن - باجرا ایک قسم کا اناج

دُخول وِصی - اشتمال دلی

دُخولیتہ - چٹنگی

دُراپزون - { (یونانی تراپڈزنان)

دُراپزون { لوہے کا جھکا جو زردبان

دُراپزون { (زینہ) کے گرد اگر دو لگاتے

ہیں -

دَرَّاجِحہ - (ع-م) ماخوذ ہے دَرَج بمعنی

رفتن - بامیکل -

دَرَادِنُوت - (مغرب انگریزی ڈریڈناٹ)

جنگی جہاز -

دَرَاتِق - (مغرب یونانی دوراکناس)

شفتالو -

دَرَاتِقن - (مغرب یونانی) زرد آلو -

شفتالو -

دَرَاتِقُون - (مغرب ترکی سپاہی -

دَرَاکُون - (مغرب ترکی سپاہی

دَرَب - (ع-م) سڑک -

دَرَب - (مغرب یونانی دربی) اصل

میں ایک شہر کا نام ہے جو ایشیا

کوچک میں واقع ہے - (۱) دَرہ -

(۲) بڑا دروازہ گلی یا سڑک کا

دَرَج - (مغرب درائر) میز کا خانہ (آڈراج -

درج) جمع -

دَرَج - زمین -

دَرَجَاتُ الْکُھْنُوت - پوپ کے

مقدس احکام -

دَرَجَةُ الْجَمُود - سردی کی وہ حد جس میں

پانی جم جائے -

دَرَز - (مغرب) داغ (دَرُوز) جمع

دَرَس - سبق - تعلیم - لکچر (دروس) جمع

دَرَك - (مغرب) پولیس (دَرَکات) جمع

دَرَکَاة - (مغرب فارسی درگاہ) برآمدہ -

دَرَکَہ - پیشگاہ - بالان - جناب

(دَرَکات) جمع

دَرُوزِمِی - ایک اسلامی فرقہ

دُرُوسُ الْمَوْسُوعَات - (ع-م)

معلومات عامہ کی کتاب انسائی کلو پیڈیا

علوم و فنون کا لغت -

دَرہ - دو پہاڑ کے بیچ کی زمین - وادی -

گھائی -

دَرْدَار - (مغرب فارسی زردار) محافظہ

پاسان قلعہ - رئیس قلعہ - قلعہ دار

دَرَکَاة - (مغرب فارسی) تاجروں کے

اسباب تجارتی رکھنے کی میز

دَرْمِنِیَّة - (مغرب ایطالیائی دوزینا)

درجن - بارہ عدد -

دَسْتِاس - (مغرب یونانی دیسیاس) ایک

قسم کا سانپ جسکو (مکار) کہتے ہیں -

دَسْتَنَرِیَا - (مغرب ایطالیائی دَسْتَنَرِیَا)

اسہال - پچپش -

دَسْنِیَسْتَه - (ع-م) سازش - ملی جگت

(دَسْنَالَس) جمع

دَشْتَا - (مغرب فارسی دستہ) - (۱)

رَدْمِی - بیکار کاغذ - (۲) آلا بلا -

ناقابل استعمال شے

دَعَاوِی الْاِلْحِیَاذ - گتوں یا تعہدات

کے مقدمات -

دَعَاوِی بَدْنِیَہ - اسباب دیوانی -

دَعْوِی اِثْمَہ - الزام - علت

دَعْوِی عَمُورِیَہ - شہرت - اشتہار -

عام مقدمہ -

دَعْوِی اَفْرَعِیَہ - اتفاقی مقدمہ - مزاحمت

مقابلہ -

دَعْوِی - (مغرب ترکی) (۱) لغوی صحیح -

مستقیم (۲) جدید معنی، مرد صاف نش

بے دخل - سیدھا -

دَفَاتِرِ اصْنِافِیَہ - یہی کھاتے کی کتابیں -

دَفْتَر - بیاز کھاتے (دَفَاتِر) جمع

دَفْتَر - (مغرب یونانی) رجسٹر حساب کتاب

دَسَالَس سِیَاسِیَہ - ملکی سازشیں -

دَسْتَان - (مغرب فارسی) آلات سبقتی

کا ایک پرزہ -

دَسْتَجِہ - (مغرب دستہ فارسی) - (۱)

درجن - بارہ کا مجموعہ - (۲) شیشہ

کی بڑی صراحی -

دَسْتُور - (مغرب فارسی دستور) (۱) مادہ دفتر

جس میں سپاہیوں کے نام مندرج

ہوتے ہیں (۲) قانون (۳) وزیر -

دَسْتُور الشَّرَاح - ضابطہ - کوڈ -

دَسْتُور المَذْنَبِیَہ -

قَانُون الحَقُوق - ضابطہ دیوانی - سیو

دَسْتَه - رجمنٹ - رسالہ - ٹروپ -

(دَسْتَجَات) جمع -

دَسْتَه - (مغرب فارسی دوازده) -

(۱) بارہ درجن (۲) قاشوں اور

چمچوں کا مجموعہ (۳) دیگ کلاں

دَسْدَسْتَه - (ع-م) ماخوذ از دسیسہ

خفیہ سازش کرنا -

دَسْتَمْبَر - (مغرب انگریزی ڈسمبر) انگریزی

بارھوان مہینہ -

سرکاری کاغذات رکھنے کا مکان -
 دفتر دار - (دخیل از زبان فارسی بواسطہ ترکی)
 اکونٹ جنرل - ناظرالیہ - مستوفی
 محاسب تختہ ملازمان شاہی -
 دفتر تذکرہ - نوٹ بک - یادداشت کی
 کتاب -
 دفتر مشترکات - پرچیز بک -
 کتاب خریداری -
 دفتر میزان المراجعه - بلیس بک
 دفتر نقل التجاریہ - رجسٹر مجاریہ
 دفتر یومی - (ع - م) روزنامچہ - روزانہ نمبہ
 دفتر یومیہ - روزنامچہ -
 دفتر یومیہ - روزنامچہ خریداری -
 دفتر یادداشت - روزانہ یادداشت
 دفتر یومیہ - سیاہ
 دفتر یا - (سرب انگریزی دفتر یا خفاق
 دفتر یا - آرد گلو - گلے کی ایک بیماری -
 دفع - (ع - م) ادا کرنا -
 دفع المجرأة - ایک حصہ کا ادا کرنا -
 دفع بانو اسطہ - ادایہ پاس خاطر -
 دفع سلفی - پیشگی ادائیگی -

کی بھی مشق ویادداشت کی کاپی -
 دفتر اخبار السنہ - سالانہ کتاب -
 سالنامہ -
 دفتر اسناد اکبر - اصل سیاہ - بڑا
 بھی کھاتہ -
 دفتر اسما المکتبتین - ممبروں کا رجسٹر کرنا
 دفتر اقراد الذم - خانگی سیاہ -
 (بھی کھاتہ) -
 دفتر لاسناد - بھی کھاتہ سیاہ -
 دفتر الاسناد - بکی بھی -
 دفتر الطلبات - آرڈر بک
 دفتر الوفاة - فونی نامہ -
 دفتر الايداع - پاس بک
 دفتر اوراق القبض - ہنڈی بھی -
 دفتر تسجیل - نشان کی کتاب
 دفتر تقویم المودات (ع - م)
 فہرست اشیا - کیا ٹلاگ -
 دفتر جیب - پاکٹ بک
 دفتر خانہ - (ع - م) محافظ خانہ محفظی
 رکارڈ آفس -
 دفتر خانہ عمومیہ - قومی محافظ خانہ -

دُکُتور - (معرب انگریزی) ڈاکٹر (دکارتہ)
 حسیع -
 دُکُگہ - (ع-م) لغوی معنی بیٹھنے کا چھو ترہ
 (۱) دیوار میں بنی ہوئی الماری
 (۲) بیچ -
 دُکُرتیو - (معرب ایطالیانی ذکر تیو)
 حکم - فرمان -
 دُکُین - بائل سیاہی
 دُکُنجی - (معرب فارسی بواسطہ ترکی) دکا -
 دل - (معرب فارسی دل) روح - خیال -
 دُلاّہ - (معرب ترکی دلی) - لغوی معنی
 دُلات | بہادر - دلاور - ترکون کی ایک
 خاص فوج -
 دُلاک - (ع-م) وہ شخص جو حمام میں
 بدن ملتا اور میل کھیل نکالتا ہے -
 دُلاّان - ہراج کرنے والا -
 دُکُفائتہ - (ع-م) چکتی مٹی -
 دُکُفین - (معرب یونانی دلفین) ایک
 قسم کی مچھلی جو قرینا پانچ فٹ
 لمبی ہوتی ہے -
 دُکُک - (ع-م) پالش کرنا - صقل کرنا

دُقع شہریتہ - ماہانہ ادائیگی -
 دُقع عاجل - نوری ادائیگی -
 دُقع موبحل - وہ رقم جو کسی کام کو ترقی دینے
 یا بخوبی چلانے کے لئے دی جاتی ہے
 دُقمہ - (معرب) سگان کشتی -
 دُقاق - (ع-م) لغوی کوٹا ہوا) سفوف
 پودر -
 دُقاق - (ع-م) شتق از دق - ہاتھ سے
 باجا بجانا) باجا بجانے والا -
 دُقریا - (معرب انگریزی) ڈاکٹری -
 دُقتور - ڈاکٹر
 دُقر { (ع-م) چٹھنی -
 دُقرہ - (ع-م) چٹھنی
 دُقینتہ - (معرب یونانی وکناس) ایک
 دُقسہ - ا پرندے کا نام -
 دُقیقہ - جو ہر فرد - جزو لای تجزی - جمع
 دُقاتق -
 دُکُ المذقع - (ع-م) لغوی کوٹنا)
 توپ میں گولہ بارود بھرنا -
 دُکان - (معرب فارسی) دکان (مخفف)

چلا دینا -

دلیل - توت نما - انڈکس - کانا -

دلیل - گائیڈ - مہیر -

دلیل مصری - مصر کی گائیڈ بک -

دوام - پلاسٹر - ضماو

دوان - پتوا -

دو مجانہ - جگ - شیشے کی صراحی -

دو مخ - (مغرب) عیسائیوں کی ایک عیبہ

دو مہ - (عام) لغوی دامنو کا قطرہ

قطرہ -

دو مخ - د - ع ترکی (نشان لگانا -

دو مہ - (مغرب ترکی تمغہ) نشان

مہر - مارک -

دو متق - (مغرب فارسی دمنہ) طوفان

برف -

دو مقس - دیکھو (دقس)

دو تکل - (مغرب فارسی) دنبل -

دو ملوج - (مغرب زبان حبشی) دو گلما -

بازو بند -

دو منجان { (مغرب فریادی) دیمین
دو مجانہ }

میناٹے آگینیہ - شیشہ کلاں -

بڑا شیشہ -

دو مہ - سنا چنے کا لباس - (دومن) جمع

دو مہ - (مغرب ایطالیانی دمنہ)

لباس رقص -

دو موس - (مغرب لاطینی دمس) مردانہ

دو میٹر - (م - ت) قمیص - جبہ -

دو میٹرہ - (ع - م) (۱) طوفان (۲)

طوفان دریا سے نپل -

دو مہیہ - (مغرب ارامی) مجسمہ - مجسمہ

دو تچ - (مغرب اندلسی) بواسطہ انگریزی

دینگ - استخوان درد -

ہڈی کا بخار -

دو تچ - (مغرب فارسی) عقلمند -

(دانا ج) جمع -

دو تچ - (مغرب فارسی دونی) ایک قسم

کی کشتی جو کارو منڈل میں چلتی ہے -

دو ند - (مغرب سنسکرت) کچلہ - جمال گوٹہ -

دو ندر مہ - (مغرب ترکی) طور کدر مہ -

تسنی - برف کی جمائی ہوئی

ملائی -

میں دور اور فارسی میں بند اور
 ہندی میں کڑا کہتے ہیں۔
 دُورِق - (معرب فارسی دورہ) پیمانہ شہزاد
 سپوے گوشہ۔ بڑی صراحی۔ کوزہ
 دُورِقِ یَلُور - کنٹر۔ بینائے شراب۔
 دُورِی - (معرب م) گوریا۔ کنجشاک
 دُورِئِمہ - آلات موسیقی کے ڈھیلے تاروں
 کو کسنا۔ راگ بھرنا۔
 دُورِئِنہ - درجن۔
 دُوسِیَہ - معرب فرانسیسی دوسی۔
 دکلا کے کاغذات مقدمات
 دُوشاب - (عبرانی) دوش بمعنی شہد۔
 آب پانی) انگور یا خرما کا شیرہ۔
 دُوس (معرب)
 دُوطہ - (معرب ایطالیانی دوتہ) یورپ
 میں بیوی کی طرف سے شوہر کو
 جو جہیز ملتا ہے۔
 دُوق { (معرب ڈوک) اول درجہ کے
 دُوک { امر کا خطاب۔
 دُوک - نواب۔ ایک اعلیٰ خطاب۔
 دُولاب - (معرب فارسی) جو دول اور

دُوق - (معرب م) سردی سے ٹھنڈ کرنا۔
 دُوادار - (معرب فارسی دویدار یا
 دوات دار بمعنی حامل دوات) تیرتی۔
 کاتب شاہی۔ سکرٹری۔
 دُوار - (معرب م) (1) پھیری والے خواجہ
 یہ والوں کا خواجہ۔
 دُوارِ الشَّمس - (معرب م) سورج کبھی پھول
 دُوارِ الماء - (معرب م) گرداب بھنور
 دُوارۃ - (معرب م) ٹوٹ۔ بھوریا۔
 دُوارۃ الرِّیح - مرغ باد نما۔
 دُوارہ - پرکار۔ کمپاس
 دُوارِ سیاسی - ملکی حلقے۔
 دُوبیا - ہی کھاتہ۔ حساب کتاب۔
 دُوبیا - حساب کا ایک طریقہ۔
 دُوخ - گھومنا
 دُوخہ - دوران سر گھمیری۔
 دُوخہ - (معرب م) دوران سر۔
 دُور - مکان کی منزل ٹھیسٹر کا پارٹ۔
 دُور - ایک مخصوص مصرعہ جو بار بار تین
 مصرعوں کے بعد لیا جائے۔ ان
 ہر چار مصرعوں کے مجموعے کو عربی

دَوْلَةُ مُشْرُوطَةٍ - یعنی یا دستوری سلطنت
دَوْلِ مُتَّحَاثَةٍ - وہ حکومتیں جن میں
باہم دوستی ہو۔

دَوْلِي - (ع.م) شاہی منسوب بہ دولت
حکومتی - سرکاری۔

دَوْمَا - (مغرب ڈوما) روسی پارلیمنٹ۔

دُونَانِمَةٌ (مغرب ترکی دوننا) - (۱)

دُونَمَةٌ - جنگی جہازوں کا بیڑا - مجموعہ

کشتی ہائے جنگی (۲) فوج کا بڑا حصہ

دُون كِشُوت - عجیب و غریب لباس
پہننے والا اور شہمی شخص۔

دُونْم - (م - ترکی) ایک ڈیوسوفٹ مربع
ہوناسے۔

دَوِي - ہوا کے چلنے کی آواز۔

دَهَان - (ع.م) روغن پھیرنے والا
وارنش کرنے والا۔

دَوَلِيز - (مغرب فارسی) - (۱) دروازے

سے لیکر گھر تک کا راستہ - (۲) گیلری

(۳) عوام - تنگ راہ۔

دَوْنَمَه - (مغرب فارسی و خمہ) پارسیوں کا

بُرج خاموشی جس میں اپنے مردوں کو

آب - پانی سے مرکب ہے) - (۱)

چرخ - چرخ (۲) لوہاروں، بافندوں

وغیرہ کا کارخانہ - (۳) پیشہ وروں

کی دکان۔

دَوْلَاب - الماری

دَوْلَابُ الشَّكَّان - جہاز کے کھمبے کا پھتیا۔

دَوْلَابُ بَاخِرَه - دائر یا پتور کا پھتیا۔

دَوْلَابُ طَلُج - پھاپنے کی کل

دَوْلَاة - دیکھو (دلالة)

دَوْلَةٌ - (ع.م) سلطنت حکومت
(دَوْل) جمع

دَوْلَةٌ - گردش - تغیر۔

دَوْلَةُ الشَّمَادِيَّة - چین کی سلطنت۔

دَوْلَةُ الْوَالِي - اقباب تعظیم مثلاً

بزرگسلیسی وغیرہ جو روس یا حکام

اعلیٰ کے نام سے پہلے استعمال

کئے جاتے ہیں۔

دَوْلَةُ عُثْمَانِيَّة - ترکی حکومت کو کہتے ہیں۔

دَوْلَةُ عَلِيَّة - ترکی حکومت کو کہتے ہیں۔

دَوْلَتُ الشُّو - (ترکی) صاحب دولت

بزرگسلیسی۔

رکتے ہیں اور اس کو نادر دوس کہتے ہیں۔
 دہن - (ع-م) - (۱) روغن - (قدیم)
 (۲) مرہم (جدید) -
 دَیْب (بلندی پر بیٹھ کر دشمن کے لشکر
 ویدبان) کی جانچ پرتال کرنے والا -
 دَیْدَن - عادتِ خصلت - گن -
 دَیْر - بت خانہ - مند
 دیرگ ٹور - (مغرب انگریزی) ڈائرکٹر
 دَیْسِق - راہِ فرخ - مرد پیر - نرگاؤ -
 سپیدی - چاندی کا زیور - خوبصورتی
 نہر صاف - سفید روئی - خونِ سیم
 دَیْسَمْبَر - (مغرب انگریزی) ماہِ دسمبر
 دَیْصَان - نہر
 دَیْقَل - کدال -
 دَیْک - (مغرب فارسی) - (۱) خروس
 (۲) ماکیان
 دیکرہتو - (مغرب ترکی) فرمان شاہی -
 دیمو قراطی - مغرب فرانسیسی دیموکرات
 جمہوری - عمومی - نام فرقہ سیاسی
 دیمو قریطی - (مغرب دیمو کریٹھی) جمہوری
 حکومت - جمہوری پسند فرقہ -

پمپک پارٹی -
 دینار - سرب لاطینی دینار یوس - ایک شہر
 و معروف سکہ
 دین اسمی - برائے نام قرض -
 دَیْنُ الدَّوْلَہ - قومی قرض -
 دینار سیت (مغرب ڈانامیٹ) باروت
 دینار سیت کی ایک قسم جو جہازوں وغیرہ
 کے اڑانے کے کام آتی ہے -
 دینامیک - (مغرب انگریزی) علم قوانین
 حرکتِ سالمات -
 دینمزک - (مغرب ڈنمارک) جو ایک چھوٹی
 سی ریاست فرنگستان میں ہے -
 دَیْنِ مِیْرِی - ملکی یا قومی یا دولتی قرض
 دَیْوَان - (مغرب فارسی) (۱) رجسٹر - دفتر -
 وہ کتاب جس میں اہل فوج کی حاضر می
 درج ہوتی ہے (۲) کورٹ - محکمہ
 دَیْوَانِ اِبْلِیْس - بھوتوں کی جگہ
 دَیْوَانِ اَعْمِیَانِ المَمْلَکَۃ - سینٹ -
 شرفائے ملک کی مجلس
 دَیْوَانِ البَلَدِیَہ - میونسپلٹی -
 دَیْوَانِ الحَرْب - جنگی کمیٹی فوجی عدالت

ذَوِیَوَانُ الْعَرَفِی - (ع-م) آذربائیجان کی کوشہ

ذَوِیَوَانُ كَمْ كَمْ - محصول خانہ - دفتہ

ذَوِیَوَانُ جَمْرِكْ - کروڑگیری

ذَوِیَوَانُ كَالِیَّةُ الْحُكُومَةِ - بادشاہی قرض

اور لین دین کا محکمہ - اکس چکر -

ذَوِیَوَانُ مَحْكَمَةِ الْعَدَالَةِ - صدر عدالت

صدر دیوانی -

ذَوِیَوَانُ - (مغرب یونانی ادویتیں بے قیمت

اور بے غیرت شخص -

ذَوِیَوَانُ الدَّوْلَةِ - سرکاری قرضہ - قومی قرض

ذَوِیَوَانُ غَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ - وہ قرضہ جات جنہیں

کوئی احتمال نہ ہو -

ذَوِیَوَانُ مُسْتَحِقَّةٌ - وہ قرض جس کی ادائیگی

واجب ہو -

ذَوِیَوَانُ مَعْدُومَةٌ - ناقابل پزیرائی قرض

ذَوِیَوَانُ مُنْتَظَمَةٌ - وہ قرض جو ادھو چکے ہو

کے ملازمین -

ذَاتُ الرَّوَاعِدِ - مصیبت

ذَاتُ السَّفَارَةِ - ملازمین سفارت

ذَاتُ الشَّاهِدَانِیَّةِ - (مولد) سلطان کی ذات

ذَاتُ الصُّدُورِ - ولی خیالات

ذَاتُ الْعُنَاكِرِ - فوجی ملازمین

ذَابِلٌ - جس کے اوسان بجانہ ہوں

ذَابِلَةٌ - پھیکا پڑنے یا بے آب ہونے والا -

ذُبَابَةُ النَّارِ - جگنو -

ذُبَابَةٌ - (ع-م) قتلہ - بتی

ذُبُولٌ - مڑھانا -

ذُرْبِيدٌ - (مغرب فارسی دبید) ایک دوا کھانا

ذُرْبِيحَةٌ خَطِيئَةٌ - گناہ کے کفارے کی نیاز

یا نذر

ذُرْبِيحَةٌ سَلَامَةٌ - سلامتی کی نذر یا نیاز -

ذُخَارٌ - سامان جنگ - گولہ بارود -

بارود کا گونٹھا - میگزین -

ذُرْبِيحَةٌ - (ع-م) سامان جنگ - میگزین

مخزن (ذُخَارٌ) جمع

ذُرَاعٌ لَيْسَرِيٌّ - یاہاں بازو -

ذُرَاعٌ يَمْنَنِيٌّ - سیدھا بازو

باب الذال

ذَاتٌ - (مولد) معزز شخص (ذوات) جمع

ذَاتُ الْأَرْكَانِ الْحَرْبِيَّةِ - فوجی اسباب

ذَوُّ سُنْطَارِيَّة - (مغرب یونانی دستنریا)

اسہال معدی - اسہال جو زخم امعا

یا معدے سے پیدا ہو۔

ذَوُّ سَبِّ الْأَبْيَض - (ع-م) اپلا ٹینم۔

ایک نئی ایجاد کی ہوئی دھات

ذَوُّ سَبِّيَّة - (قدیم مصری قبطنی) دریا سے نیل

میں چلنے والی کشتی۔ یہ کشتیاں مختلف

قسم کی ہوتی ہیں۔ بڑی کشتی کو ذہیبیہ

کہتے ہیں۔ کانٹہ ذہیبیہ سے چھوٹی

ہوتی ہے۔ قارب کانٹہ سے چھوٹی

مرکب بڑی کشتی جس میں ایک سال

تک اسباب معیشت کافی ہو۔ غیاثہ

سب کشتیوں سے بڑی کشتی۔

ذَوُّ ابِطِيس - (مغرب یونانی ذیابیتیس)

ایک مرض ہے جس میں آدمی کو سخت

پیس لگتی ہے اور جو پانی پیتا ہے

وہ پیشاب ہو کر بہ جاتا ہے۔

باب السراء

رَابِطُ الدَّرْبِ (۱۱) لغوی راستہ باز دھننے والا۔

رَابِطُ الطَّرِيقِ (۱۲) مولد۔ ڈاکو۔ رہزن۔

ذَرِبُ اللِّسَان - تیز زبان

ذَرَعَه - قابلیت۔

ذَرِيَاب - (مغرب فارسی زرآب) سونے

کا پانی۔

ذَوِّ عَال - کوئیل

ذَكَر - وظیفہ۔ یاد آہی۔ حمد و نعت پر

حال و حال

ذَكَرُ الْحَقِّ - تحریری قانون

ذَوِّلَ ذُلُّ النَّاسِ - کھینے لوگ۔

ذَوِّمَاء - (مغرب فارسی واریا دم) بقیہ جان۔

ذَوِّمَاتُ الشَّجَرِ - قرضہ بھی کھاتے پر۔

ذَوِّمَةٌ - (ع-م) نگرانی۔ ذمہ داری۔ ہدایت

ذَوِّمَةٌ - وجدان سلیم۔ کانشنس۔ اعتبار

ذَوِّبَةُ الْعَبْرِ وَالشَّرَفِ - عزت و بزرگی

کا نشان۔ ناصیہ

ذَوِّاتٌ - جمع (ذوات) اعیان۔ عائد۔

ذَوَاتُ الشَّيْءِ - (ع-م) شئی والے

جانور۔ دودھ پلانے والے جانور۔

ذَوَاتُ الرِّيشِ - پرندے۔ طیور

ذَوُّ الطَّرْفَيْنِ - دو سنا کا سانپ

ذَوِّبَانُ الْعَرَبِ - چور۔ دزدان عرب۔

رازیب - (مولد) تنخواہ پنشن -

(روایب) جمع -

رازیب -

رازیب - (معرب فارسی اتناج) صنوبر

رازیب - (کاگوند) رال

رازیب - (معرب) جہاز کا ستول -

پال کا ڈنڈا (روایب) جمع

رازیب - (معرب) ریڈیم یا راجمن

کی روشنی سے علاج -

رازیب - (معرب) ریڈیم - ایک عنصر جو

حال میں دریافت ہوا ہے اور جس سے

روشنی ہوتی ہے -

رازیب - (معرب سریانی رازیک) (۱) شہر

رازیب - (۲) جامہ سفید -

(۳) مے - شراب -

رازیب - (معرب رازیانہ) ایک قسم کا

خوشبو ترہ

راس الحزب - صدر انجمن

راس الفتنہ - سرغنہ -

راس المال اشمی - فرضی سرمایہ

راس المال شائع - روپیہ جو اخراجات

رواں کے لئے رکھا جائے -

راس المال متغیر - ہر پیر تا سرمایہ -

راس التکرکیہ - (م-ع) حلقے کی چلم

راسد - بانج - سن باورغ کو پہنچا ہوا -

راشیتیم - معرب ذرانیسی - کج پیشی -

کبر اپن - ایک مرض -

رام - ہر ماہ شمسی کی اکیسویں تاریخ کا نام

رامشند - برگ آس -

رامق - (معرب) وہ پرندہ جس کو شکاری

جال میں باندھتا ہے تاکہ اُس سے

باز کو غلکار کرے -

راج - جوز ہندی -

راوند - (معرب فارسی ریوند) ایک ست اور

دوا

راشعہ متغیرہ - ناگوار بو -

رائی - (معرب قدیم مصری) دریا کے نیل

کی مچھلی -

ربا و مرگب - سود مرکب - کینوڈ انٹرسٹ

رباط - (مولد) (۱) لنوی - مسافر خانہ -

(۲) محتاج خانہ (ربط) جمع

ربان - (معرب فارسی رہبان) (۱) جہاز کا

رُثْمِيَّةٌ - (م - ع) گرڈ - درجہ - عہدہ -
 خطابِ ملکی یا جنگی - (رُتَب) جمع
 رِجَالُ الْعَسْكَرِ يُون - (م - ع)

فوجی لوگ -
 رِجَالُ الْقُوَّةِ الْعَمُومِيَّةِ - اہل قندار
 سرکاری لوگ جیسے جنرل پولیس وغیرہ
 رِجَالُ الْمُطَاغِي - آگ بجھانے
 والے لوگ -

رِجَالُ الْمَعِيَّةِ - (م - ع) شاہی
 ہمراہ لوگ - اسٹاف کے لوگ
 رِجَالُ الْمَلَائِكِيُون - (م - ع) سویلین
 ملکی لوگ -

رِجَالُ حَقْرٍ - محافظہ چوکیدار
 رُجْعَةٌ - (م - ع) ازناد عمل - ری ایکشن
 معاکسہ عمل - ایک شے یا مادہ جب
 دوسری شے یا مادہ پر کوئی عمل
 کرے تو دوسری شے یا مادہ بھی
 پہلی شے یا مادہ پر اسی قسم کا اثر
 لوٹا دے اس کو رُجْعَةٌ کہتے ہیں -
 رسید -

رُجْعَةٌ - (ریلوے کی) رسید (رسیٹ)

کاکپتان - مدیر مرکب - (۲)
 کشتیبان

رَبَّانٌ - (مغربی کشتی بانوں کا درجہ)

رَبَّانٌ { ملاح جہازران
 رُبَّانِيٌّ {

رَبَّانِيُونٌ - (مغربی عربی ربانی) ربانی
 کی جمع - عیسائیوں کا عالمِ صالح -
 خلیفہ -

رَبْحٌ صَافِيٌّ - خالص نفع

رَبْحٌ مَرْكَبٌ - سود مرکب -

رَبْحٌ يَأْتِيكَ - نفع - فائدہ - منفعت

رَبْحٌ وَخَسَارٌ - نفع و نقصان

رَبْطَةٌ - (مولد - ع) نکٹائی - گلوبند

رَبْطَةُ الرَّقَبِ - نکٹائی - گلوبند

رَبْطَةُ السَّاقِ - پاؤں میں باندھنے کی چٹی -

رَبِيْطٌ - خریشہ - چھوٹی گھڑی (ارَبِيْطَةٌ)

جمع

رَبِيْعٌ - (م - ع) - (۱) کاشت کار (۲)
 حصہ دار - (ارَبِيْعٌ وِرباع) جمع

رَبُوٌّ - (م - ع) - (۱) لغوی - تنگی نفس

(۲) مرض تنفس - دُمہ -

رَبِيْعٌ - (م - ع) - (۱) کاشت کار (۲)
 حصہ دار - (ارَبِيْعٌ وِرباع) جمع

<p>(رداء دروہات) جمع رزویت - رزوفوج - محفوظ فوج - محفوظ - (زاید) فوج - رزفیل - اصول اخلاق کے خلاف رز - دیکھو (آرز) رزواق - (معرب فارسی) روستا سے پارستاق (۱) سیاہی تیرگی - (۲) پرگنہ جو چند دیہات کا صدر مقام ہوتا ہے - یاسواوشہر - رزوق - (معرب فارسی) رستہ (۱) صف مرواں (۲) کھجور کے درختوں کی قطار (۳) مطلق درختوں کی قطار - رزق - (معرب فارسی) روزک (۱) روزینہ - خوراک - (۲) مشاہرہ سپاہیاں - فوج کی تنخواہ - رزمنہ - کاغذ کا پاکٹ - گٹھا - پشتارہ ہنڈل - (رزمن) جمع - رزنامہ - (معرب فارسی) روزنامہ تقویم - جنتری - کیلنڈر - رساطون - (معرب یونانی) رساتون</p>	<p>رجمعی - میوں کی دوسری فصل - رخوان - (معرب فارسی) ہوار مسافر - رخ - (معرب سنسکرت) رخ یعنی اراہہ شطرنج کے مہرے کا نام رخ - بقول بعض معرب استیر یا سترخ یعنی سیمرغ کلان اور بقول بعض معرب روقوق زبان طایا یعنی بڑا مرغ - رخت - (معرب فارسی) (۱) سامان خانہ - اثاث البیت - (۲) ریشمی کپڑا - زین - رخصتہ - لائسنس - اجازت - رخصتہ - (م - ع) پھٹی - رخصتہ رخصتہ نامہ - کابل اقتدار رخیض - ارزاں - سستا ردو الزیارة - (م - ع) ملاقات بازدید - ردو خالص - (م - ع) رپلائی ٹیلیگرام - پیڈجو ابی تار - ردہنتہ - (م - ع) ہال - بڑا کمرہ -</p>
---	--

(۲) نقشہ فوٹو - تصویر نقشہ نویسی

(۳) محصول جنگی - جمع رسوم

رشمال - (مخفف راس المال) سرمایہ

رشم الأَرْض - (م - ع) جغرافیہ -

رشم الخارِطَات - نقشے کھینچنے کا علم -

رشم المَرْفَأ - بندرگاہ کا محصول -

رشملة - (رشمال سے مصدر وضع کر لیا

گیا ہے) سرمایہ جمع کرنا -

رشمی - (م - ع) سرکاری طور پر -

رشمیّا - باقاعدہ - آفیشل -

رشمی - مصدقہ - معتبر - مہر شدہ

رسن - (مغرب فارسی رستن یا رشتن)

خطام - شکال -

رُسوم - محصول کروڑ گیری - زبرد واجب

محصولات -

رُسوم التَّشْرِيفِيَّة - اٹلیٹ - آداب

معاشرت -

رُسوم الخمرِک - محصول کروڑ گیری -

رُسوم خمرِکِیَّة - جنگی - سائر -

رُسوماتِ الْمُطْبُوعَات - پریس

رگیویشن - قوانین طبع -

(۱) شراب - سے (۲) شربت جو

شہداد اور انگور کے عصارہ سے

تیار کیا جاتا ہے -

رِسَالَه - (م - ع) خط - پیغام - پہنچانے

رِسَالَةُ التَّلَک - ٹیلیگرام - تار برقی

رِسَالَةُ بَرَقِيَّة - ٹیلیگرام - تار خیر -

رِسَام - (مولد - ع) نقشہ نویسی

نقشہ کش - ڈرافٹس میان -

مضور - فوٹو گراف -

رِسَامُ الْبِلَاد - کسی خط کا نقشہ بنا لینا والا -

رِسَامُ الخارِطَات - نقشہ کھینچنے والا -

رِسَائِل - حواریوں کے مکاتیب - اعمال -

رِشْتاق - (مغرب فارسی روستائے)

گاؤں - دیکھو (رزواق) -

رِشْتَق - دیکھو (رزوق) -

رشم - احوال بیان کرنا - کیفیت لکھنا

رشم - (مغرب فارسی - رستن) ایک سی

جس کو جانوروں کے گلے میں ڈال کر

ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتے

ہیں -

رشم - (م - ع) (۱) انوی - نشان آئین

اونٹوں کے پینے کے بعد حوض میں
بچ رہا ہو۔

رِطْل - پونڈ - ایک سیروزن (مغربی یونانی
بشتر (آرطال) جمع -

رِعَايَة - (ع-م) سرپرستی مثلاً تخت
رِعَايَة الامير - یعنی فلاں امیر کی
سرپرستی میں -

رِعْبُون - عربوں کا غلط العام ہے -
دیکھو عربوں -

رِعْيَشُ الْبَيْدَيْنِ - بزدل
رِعْوَةُ الصَّابُونَ - صابن کا پھین یا جھا
رِعْيَف - نان پاؤ -

رِف - اندھی کھڑکی - حجرے کے اطراف
کی الماری

رِفْت - (ع-م) لغوی - توڑنا، ٹوکرے
سے برطرف کرنا - برطانی و سچارج -

رِفْيَّة - (مغربی فارسی رفتن) بقول بعض
ترکی سے ماخوذ ہے - اسے محصول
کی رسید -

رِفْرَف - (ع-م) (۱) لغوی = طاق
(۲) دیوار میں لگی ہوئی الماری -

رِسْمِيَّة - دیکھو - (شجم) -

رِسْمِيَّة - نقشہ نویس -

رِسْمِيَّة - زکام

رِسْمِيَّة - سرخ باوہ - دورا - حمہ -

رِسْمِيَّة - (مغربی اندلسی رزما یعنی خرما)

رِسْمِيَّة - جو بیس دستہ کاغذ کا مجموعہ -

رِيم -

رِصَاص - (ع-م) لغوی - سیسہ -

رِصَاص کی گولی -

رِصَاص - بندوق کی گولی -

رِصْف { (مغربی امامی) گھاٹ
رِصْفَة

رِصِد - باقی - واصل بلقی

رِصِيْدَة الْحَسَاب - باقی -

رِصِيْف - (ع-م) معصر - ہم پیشہ -

(رِصْفَاء) جمع -

رِصِيْف - (ع-م) - (۱) چوتراہ پٹری -

گھاٹ - (۲) ریل یا جہاز کا پلیٹ فارم

رِض - چوٹ - صدمہ -

رِض - زخم -

رِطْرِيْط - (مغربی قدیم مصری) وہ پانی جو

رَقْمٌ - (ع-م) لغوی - لکھنا (نقش و نگار
بنانا۔

رَقِيبٌ - (دکھیں میں) اُمپائر
رَقِيعٌ - (مغرب ارامی) آسمان دنیا۔
درلا آسمان۔

رَكَابٌ - جمع (راکب) ع-م - یل باہواز
کے مسافر۔ پیاسنجر۔

رَكْوَةٌ - (ع-م) قدیم (۱) چمڑے کی
تھیلی - (جدید) (۲) کافی کی کیتلی۔
(رکوات و رکاو) جمع

رَكَّةٌ - (مغرب جرمنی رکو) (۱) دوک
دو کچھ جسپر سی بٹتے ہیں - (۲)
بوڑھی عورت۔

رَكْنِيكٌ - وہ طرز عبارت جو ڈھلڈھلی
اور بے ربط ہو۔

رَكْنَةٌ - (مغرب پہلوی رنک) گھوڑی۔
رَمْحُ الْبِنْدُوقَةِ (ع-م) بندوق یا
رَمْحُ الْمِدْفَعِ (توپ چلانا۔

رَمْحُ الرَّصَانِ (ع-م) گولی چلانا۔
رَمِيَّةٌ - (ع-م) کارتوس جمع رَمَائِكُ
رَمِيَةٌ - بیرونی و مال

(۳) اخبار کا کالم۔

رَفُوضٌ - کسی ہندی وغیرہ کو نہ سکاڑنا۔

رَفْعٌ دَعْوِيٌّ - مقدمہ دائر کرنا

رَفْعَةُ عَسَاكِرِ التَّجْمِيلِ - گارڈ آف آزر۔

رَفِيحٌ - (ع-م) باریک

رَفِيعَةٌ - بڑی نڈیا نیاڑ۔

رَفِيقٌ بِالصَّفِّ - ہم جماعت۔

رَفِيقٌ بِالْمَدْرَسَةِ - ہم مدرسہ - اسکول فلو

رَفِيقٌ فِي الدَّرْسِ - ہم جماعت - کلاس فلو

رَفِيقٌ - (مغرب حبشی) ہرن کی باریک

اور سوکھی کھال جس پر لکھتے ہیں۔

رِقَابُ الْأُمَّةِ - قومی حسد

رِقَاصٌ - (ع-م) پنڈلم - لٹکن۔

رِقَانٌ - (مغرب یونانی رینی ارامی رندہ)

معدال - ع - رندہ - بڑھپون

کا لکڑی صاف کرنے کا آلہ

رَقْعَةُ الزِّيَارَةِ - ملاقات کا کارڈ۔

وزیٹنگ کارڈ (رقاع الزیارہ)

رَقْعَةُ الشَّطْرَنْجِ - (ع-م) شطرنج کی

بساط۔

روایت غرابیہ - (ع-م) عاشقانہ ناول
 روایت مجونیت - (ع-م) کومیڈی
 ہندو ٹریڈی وہ قصہ جس کا خاتمہ بالآخر ہو
 روایت منجھتہ - (ع-م) ٹریڈی
 ہندو کومیڈی وہ قصہ جس کا خاتمہ
 غم پر ہو۔

رُوتہ - (معرب ریوٹ) ایک خبر رساں کمپنی
 رُوح العرق - (ع-م) روح - شراب
 اسپرٹ۔

رُوحانی - (ع-م) مذہبی لوگ معتقدین
 عالم روحانی - باہرین علوم روحانی -
 رُوزن - (معرب فارسی خوش) دریچہ کھڑکی -
 رُوزنامہ - تقویم جنتری - کیلنڈر - پنشن - وظیفہ -
 رُوزند - (معرب فارسی روز) روزن - دریچہ -
 روس - ٹاک روس

رُوسم - (معرب ارامی) - (۱) وہ مہر جس سے
 رُوشم - گھڑوں اور پیوں وغیرہ کا سر
 بند کرتے ہیں۔

رُوسیا - (معرب روسیہ) ٹاک روس
 رُوشن - (معرب فارسی روشن دان)
 روزن۔

رُتجن - (معرب رتجن) ایک عنصر جو مال
 میں دریافت ہوا ہے۔

رُندہ - (معرب فارسی لایل بیائے مجول)
 رُندج - (معرب فارسی زندہ) بخارون
 کا ایک آلہ جس سے لکڑی صاف
 کرتے ہیں۔

رُنگ - (معرب فارسی رنگ) (۱) لون -
 رنگ سفید یا سیاہ (۲) نشان
 شرافت جو امر کے گھروں یا گاڑیوں
 میں رکھا جاتا ہے۔

رُواسب - سمندر کی تلچھت کی تہیں -
 رُواق - (معرب رواگ - فارسی) -
 (۱) خیمہ - ڈیرا (۲) برآمدہ - بڑا کمرہ -
 (۳) گیلری (۴) جامع ازہر کے
 طلبہ کے کمرے۔

رُواق - غلام گردش
 رُواق - طلبہ کا حجرہ (آزوقہ) جمع -
 رُواسب طینی - دریا براہٹی - کچھار -
 رُوانی - (ع-م) ناولٹ - ناول نگار -

رُوائتہ - (ع-م) ناول - افسانہ
 رُوائتہ تشخیصیہ - ڈراما - ٹاک

رُوعُ فُجائی - ناگہانی ڈر۔

رُوقَةُ - (معرب بروک) مدد معاش۔

روزیتہ۔

رُوک - (۱) پیمائش (۲) جائداد مشترکہ۔

مال مشترکہ۔

رُوکہ - (بغدادی سے معرب ہوا ہے)

موج دریا۔

رُول - (معرب فرانسیسی رول (۱)

رجسٹر۔ دفتر جس میں آدمیوں کے

نام درج ہوں (۲) اسم نویسی۔

رُوم - رومی کی جمع رومیہ قدیم کے

باشندے۔

رُوما تَرْتَرُم } (معرب فرانسیسی روماترم

رُوما تَرْتَرُم } درو مفاصل۔ وجع مفاصل

رُومان - (معرب فرانسیسی) (۱) ناول

(۲) قوم رومن۔

رُومانیہ - رومن امپائر۔ رومانی سلطنت

بلقان کی ایک ریاست۔

رُوملی - (معرب ترکی) ارض روم۔

بلقان کا ایک خطہ

رُومہ - روم۔ دارالخلافہ اٹلی۔

رُومیۃ - (معرب اطالوی) شہر رومیہ

واقع ملک اٹلی۔

رُومیۃ - چھت کی کرطی (ردامی) جمع۔

رُومیلی - یورپی ٹرکی کا ایک صوبہ۔

رُوبہص - گارا جس سے دیوار بناتے ہیں۔

چینیہ۔ بن دیوار

رُوبط - (معرب فارسی رخت) وہ (پیشین طامن)

کپڑا جسے لوہار وغیرہ پیشہ درکام کے

وقت سامنے باندھ لیتے ہیں۔ تاکہ

آگ وغیرہ سے محفوظ رہیں۔

رُہن السَّفینۃ - باٹری بانڈ۔ وہ دستاویز

جسکی رو سے سمندر میں جانے والا

جہاز کا ناخدا بہ مکفولی جہاز مذکور کی

حفاظت یا منزل تک پہنچنے کے

لیئے روپیہ قرض لیتا ہے۔

رُہنناج - (معرب فارسی راہ نامہ) دریا کا

وہ نقشہ جسے دیکھ کر کپتان جہاز

چلاتا ہے۔

رُہوان - (معرب فارسی رہوار)

گھوڑا۔

(۱۲) دریائے نیل کے قریب کی زمین

ملک مصر کا حصہ زیرین -

رئیہ - (مغرب لاطینی رمی) گنچھے کا وہ

پتا جس پر بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے

رئیس - صدر - پرنسپل -

رئیس - پریسیڈنٹ - صدر انجمن -

رئیس اعظم - گرانڈ ماسٹر - فوج کا ایک

افسر - فرمی ہسٹون کا ایک افسر -

رئیس الاساقفہ - لارڈ بشپ -

لاٹ پادری - آرچ بشپ -

رئیس البنائین - میر عمارات

رئیس تحریر الجریڈہ - چیف ایڈیٹر -

رئیس الجھموریہ - سلطنت جمہوری

کا پریسیڈنٹ -

رئیس الشمامسہ - بڑے پادری کا

نائب - مسیحی مجتہد کا نائب -

رئیس الصنف - اسکالینڈ میں پرنسپل

کی انجمن کا پریسیڈنٹ

رئیس الضبطیہ - کوتوال - افسر پولیس

ماسٹراٹ آرمز - جہاز کی پولیس کا افسر

رئیس الکتبہ - پرنسپل رائٹر -

رہنوج - (مغرب فارسی رہوار)

رہوجہ - رفتار رام -

رے - آب پاشی -

رمتی - (ع-م) - (۱) قدیم - سیراب کن

(۲) جدید - آب پاشی

ریاستہ - (ع-م) افسری - صدارت

ریال - (مغرب اندلسی ریال) فرانس کے

ایک چاندی کا سکہ جو تین روپے کے

مساوی ہے - ڈالر - مصر کا نقرہ

سکہ مساوی (سے)

ریال امریکائی - ڈالر امریکہ کا ایک سکہ

جو سوا دو روپیہ کے مساوی ہے -

ریئاس - (مغرب فارسی ریواس) گلبن

بوٹہ

رئیس حرکت - (ع-م) ناخدا - ملاح

رئیس - (فارسی سے مغرب ہوا ہے)

نشر، پر -

رئیسہ - پر کا قلم - زبان قلم - نب -

رئیع - میوہ جات - پھل

رئیت - (مغرب لاطینی ریپہ) (۱) سال

دریا کے قریب کی زرخیز زمین

جیدانٹا پرواز۔

رئیس المأموریتہ - صدر و فدیا افسر

رئیس مہر کتب - ناخدا

رئیس المعلمین - ہیڈ ماسٹر - صدر مدرس

رئیس عمارت - امیر البحر - میر بحر

رئیس قلم - افسر محکمہ

رئیس مجلس - صدر نشین - پریڈنٹ

رئیس میونسپلٹی - لارڈ ڈپٹی کابینل

(زوا یا) جمع۔

زاد یہ مجتہد - سالڈا نیگل - ٹھوس کون

زراہی اللون - چکیدا یا روشن رنگ -

شوخ رنگ -

زراچہ - (مغرب فارسی زراچہ) وہ مربع یا

دور شکل جسکی حدودوں سے منجم لوگ

آسمان اور تاروں کی کیفیت حالت

معلوم کر لیتے ہیں تاکہ مولود کی خوش بختی

یا بد بختی دریافت کریں۔

زبال - (ع۔ م) بھنگی - مہتر - حلال غور

زبان - (مغرب فارسی زبان) (۱) جلیبہ

(۲) زبانہ

زبانہ - (مغرب اسوریا) (۱) دوزخ کے

فرشتے - بادشاہی چاؤش (۲) پوس

زبان - (ع۔ م) ہم پیشہ

زبرد - (مغرب یونانی سمر گڈوس - زبرد

(زبارج) جمع۔

زبڑب - (مغرب) (۱) چھوٹی کشتی (۲)

(۲) ایک قسم کی کشتی

زبط - (مغرب) بطن کا آواز کرنا۔

زبون - موکل۔

باب الزاء

زاج - سلفیٹ آف زنگ

زاج - جہاز کا صحن

زار - (ممالک قریہ حبش سے مغرب ہوا ہے)

(۱) جن - دیو (۲) بھوت پریت

کا عقیدہ۔

زادرب - تنگ گلی (زادرب) جمع۔

زادوق - (مغرب فارسی زریہ) پارہ سیلاب

زادویہ - (ع۔ م) بقول بعض ارامی (۱)

گوشہ خانہ (۲) خانقاہ - صوفیائے کرام

کے رہنے کا مکان - (۳) مسافر خانہ

زَبُون - گاہک - خریدار - (زبائن - زبونات)
حسب -

زَبُون - (معرب ترکی) نیم آستین - صدری
زُجَاج - (معرب اراچی) کاسہ بلوریں - آئینہ -
لال ٹین کی چھٹی -

زُجَاج - (ع - م) شیشے کا کارخانہ دار -
زُجَاج العَرَبِیَّة - ڈبہ کا دریچہ - بگھی یا ریل
کے ڈبہ کا آئینہ

زُجَاجَہ - (ع - م) شیشی - بوتل -
زُجَاجِی - (ع - م) شیشہ فروش
زُجَاز - (معرب اراچی) ایک قسم کی بڑی مچھلی

زُجَاجِجَل - دیکھو (سججل) -
زُخْم - (ع - م) قوت محرکہ -

زُخْمَہ - (ع - م) استار - ہارمونیم پر بجانے
والے کی ضرب (زُخْمَات) جمع -

زُخْمِیْرَہ - (ع - م) سامان جنگ (زُخَاْر)
زُخْمِیْرَہ - (ع - م) جمع

زُر - (۱) قدیم - گھنڈی - بٹن (۲) رومی
ٹوپی کا پھندنا - (ازرار - زُرَار) جمع

زُرَافَہ - (معرب زرافہ) مشترکاً و پلنگ
ایک مشہور جانور

زُرَبَطَانہ - (معرب اندلسی زبرتنا) (۱) کمان
گروہ (۲) بندوق -

زُرَبُون - (معرب یونانی سربولان) - ایک قسم
ذُرَبُون - اکا جو تاجس کی ایٹری اٹھی ہوئی
ہوتی ہے -

زُرَجُون - (معرب فارسی زرگون) - (۱)
سے شراب (۲) بارش کا صفات پانی
جو پتھروں میں ہے -

زُرُوج - (معرب) اعصفر - ایک مشہور رنگ -
زُرُکَشْتہ - (باخود از فارسی زرکشیدن)
طلانی کرنا - زرتیں کرنا -

زُرہ - جوار - مکئی
زُرط - جات

زُرْعَامَہ - (ع - م) لیڈری - ہدایت - لیڈر
زُرْعَاج - (ع - م) پتلا (ہلکا) ابر -

زُرْعَیْر - دیکھو (صعتر)
زُرْعُرور - (معرب اراچی) ایک میوے کا نام

زُرْعَلَان - ناراض - تنگ - دق -
زُرْعِیْم - (ع - م) لیڈر - رہنما (زُرْعَاو)

جمع وکیل
زُرْعِیْم الخَطْبَاء - چیف اسپیکر - خوش نظریہ

صدر مقرر۔

زُغایہ - (معرب بربری) نیزہ۔ تفتنگ۔ تیر

زُفنت - رال۔

زُفائق - کوچہ۔

زُلابیہ - (معرب فارسی زلیبیا) شکر پارہ۔

زُلط - (معرب روسی رودوتو) ایک تانبے کا کلمہ۔

زُلو بِنیہ - دیکھو (زلابیہ)۔

زُلون - (شام) حریف۔ ہم پیشہ۔

زُماندار - (معرب فارسی زمانہ دار یا زمان دار)

زنان خانہ کا دربان۔ محافظ۔

زُمانہ ثالثہ - علم طبقات الارض میں

تیسرا زمانہ۔

زُمانہ معدومیت - زمانہ حیات حیوانی

کا قدیم دور۔

زُمرہ - (معرب فارسی) باقوت سبیر

زُمرہ وہ - (معرب فارسی زن مرد) وہ

زُمرہ وہ - عورت جو بالشیخ مردوں سے

مشابہ ہو اور ان کے اخلاق سے

متخلق ہو۔

زُمنیل - (سولہ) ہم پیشہ۔ حریف۔ رقیب۔

ساتھی (زُمانہ) جمع۔

زُناہ - (معرب یونانی زونارمان) (۱) وہ

دھاگہ جو آتش پرست دھنڈو اپنے پاس

رکھتے ہیں۔ (۲) کمربند۔ پٹکا۔ پیٹی

زُنا الزوہجہ - بیوی کے ساتھ چام چوری۔

زُنبیرک - (معرب ترکی) اسپ۔ بنگ۔

گھڑی کا ایک جز۔ بندوق کا گھوڑا۔

زُنبیریہ - (معرب فارسی زنبیر) ایک قسم

کی کشتی۔

زُنبیق - (معرب فارسی زنبہ پروزن انہ)

ایک سفید بھول جس کے پتے لمبے

اور خوشبودار ہوتے ہیں۔

زُنبک - دیکھو (زُنبیرک)۔

زُنبیل - دیکھو (زُنجیل)۔

زُنجار - (معرب فارسی زنگار) وہ سبھی

مادہ جو تانبے کے برتنوں پر تہ تعلی

استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔

زُنجیل - (معرب فارسی زنجیل) سوٹھ۔

الوجہ۔ ششکویز۔

زُنجیل - معرب فارسی زنجیل و زنجیل۔

شراب۔ مے۔ خمر۔

زُنجفر - (معرب فارسی شنگرف) (۱) شنگرف

زوالوجیا - (معرب ژالوجی) علم الحيوان
زواج - (معرب یونانی ردگوس بواسطہ

کلدانی) جفت صد طاق -

زوجه السطان - بادشاہ وقت کی بیگم -

زود - (معرب فارسی زود) پتھیل - جلد -

زور - (معرب فارسی زور) قوت -

زورق - (معرب فارسی) چھوٹی کشتی -

زوط - ہندوستان کی جاٹ قوم -

زوق - (بروزن ضرڈ) پارا - سیاب -

دیکھو (زادوق) -

زون - (معرب فارسی ژون) گلبن -

جائے گلبن -

زہر - پاس -

زہر الزند - کبابین - ایک کھیل -

زہید - ناچیز - ادنیٰ شے - محقر جنس -

زتی - معرب فارسی ژیب یازی - لغوی -

ہینت - طریقہ - (۱) لباس -

(۲) منظر - صورت (۳) طریقہ طرز -

فیشن - وضع -

زیارۃ رسمتہ - سرکاری استقبال -

زیمی الوقت - موجودہ وضع یا فیشن -

کارنگ (۲) وہ سرخ وارنش جس سے

لوہا رنگا جاتا ہے کہ رنگ نہ لگنے پائے

زنجیر - سلسلہ آہنی -

زندہ پیل - (معرب فارسی زندہ پیل)

فیل مادہ - ہتھنی -

زندہ لیق - (معرب فارسی زندیک) وہ شخص

جو راہ راست پر نہ ہو گویا حامل زندہ ہے

زندہ پارسیوں کی آسمانی کتاب ہے -

بقول بعض یونانی گنوستکوس کا

معرب ہے -

زئز - (فارسی لفظ زئاز سے ماخوذ ہے) باریک

زئز لخت - (معرب فارسی آزاد درخت)

دیکھو از درخت -

زقطاریہ - (معرب یونانی و سنسکرت) قوی

اور سخت اسہال - سنطاریہ -

زنک - (معرب فارسی) توتیا -

زنک الساعۃ - (معرب فارسی) گھڑی

کاباج -

زنکا وہ - (معرب فارسی) رکاب

زو - (معرب چینی زاد) امیر المومنین

کی کشتی کا نام -

زنبق - (معرب فارسی زبوه) سیما پاره
 زنبیل - (معرب ارامی) زنبیل - سبد -
 زیت - (مولد) - (اصلی) روغن زیتون
 (جدید) روغن تیل کسی قسم کا ہو -
 زیت الخروع - کاسٹرائیل - انڈی
 کاتیل -

زیت الغاز - مٹی کاتیل - کروین تیل
 زیت القطران - پرائن - ایک لے رنگ

بے مزہ چربی دار جوہر

زنج - (معرب فارسی زنگ) بقول خفاجی

معرب زہ (۱) سا قول (۲) زیج
 زیر - (معرب آذیر) گھڑا - مشکا - (آز یاد)

حسب -

زیر - (معرب فارسی) باریک تار - ضدیم
 زیر - (دیکھو زیر) -

زیزفون - معرب یونانی ززفان -

ایک آزاد درخت جو ملک شام
 میں ہوتا ہے جس میں پھول تو لگتے
 ہیں مگر پھل نہیں آتے - اس کے

پھول بہت ہی سفید ہوتے ہیں -
 تشبیہاً وہ شخص جو وعدہ کر کے

دفا نہ کرے -

زیزہ - (یہ زیزہ سے بنا ہے جو زیزہ سے

ماخوذ ہے) سرستان - بھلتی

زلیف - (معرب ژندی) بہ قول بعض

کلدانی (پزل وغیر راج الوقت
 و خراب -

زینبی - (معرب فارسی زیک) قمیص کا لہ

زیلیاندا - (معرب نیورلینڈ) امریکہ کے

ایک مقام کا نام ہے -

زینہ - آراستگی

بَابُ السَّيْنِ

سَابَاط - (معرب شاہ آباد) (۱) مضافاً

مدائن سے ایک شہر کا نام جو نوشیروان

کا پاپے تخت تھا - (۲) کوچہ

مستف -

سَابِجَتَه - (مولد) - قدیم پیرنے والی (جدید)

جہاز اسٹیمر -

سَابِرْتِي - (معرب فارسی شاہ پور) رشتم

کا ایک باریک کپڑا جو زرہ کے

نیچے پہنتے ہیں -

جاننے والے۔ ماہرین علم سیاست۔
ساعتہ۔ گھنٹہ۔ گھڑی (ساعات)۔

جمع۔

ساعتہ بسیطہ۔ انقی دھوپ کی گھڑی۔
ساعتہ صغیرہ۔ چھپی گھڑی۔
ساعتہ عمومیہ۔ گھنٹا گھر۔ ٹاور کلاک
ساعتہ منجر فہ۔ ترچھی دھوپ گھڑی
ساعتی۔ گھڑی ساز۔
ساعور۔ (کلدانی) مقدم نصاری درشنا
طب۔

ساعی۔ (مولد)۔ (قدیم) دور ٹے والا (جدید)
پوسٹ میں۔ چٹھی رساں۔ چپراسی
سعاة جمع۔

ساف۔ (معرب ارامی) دیوار کی تزی اور
سافین۔ (معرب یونانی سفینیس)
پنڈلی کی دوڑگوں کا نام۔

ساقہ۔ رہٹ۔ دولاب

ساکو۔ اور کوٹ

ساری۔ وہ انشایا طرز عبارت جس میں بلند
پر دازی اور علو شان ہو۔

سان بطر سببرخ م

ساج۔ (معرب ہندی سال) ایک قسم
کی لکڑی جس سے کشتیاں بنتی ہیں۔

ساحب۔ ہندی یارقوہ لکھنے والا۔

ساحب۔ ہندی کرنے والا۔

ساخلو۔ (معرب ترکی) محافظان قلعہ

سافرج۔ دیکھو سافرج

سافرج۔ (معرب فارسی سادہ)۔

(۱) وہ چیز جس پر نقش و نگار نہ ہو۔

(۲) خوش خلق۔ سادہ مزاج۔

سادہ دل (سندجہ) جمع۔

سارقی کلبی۔ لقب زن۔ سیندھ مار۔

ساروفیم۔ (معرب عبرتی) فرشتہ۔

مالک۔

ساریتہ۔ (معرب ارامی بمعنی ستون)۔

(۱) سواری۔ (۲) جہاز کا مسئول

سیاس۔ (معرب مصری قدیم شن)۔

غلیظ و سطر۔

سیاسال { دیکھو سیاسی

سیاستہ۔ (مولد) سائس کی جمع جو

اسم فاعل سیاستہ کا ہے پالیٹکس

سَبَّح - (مغرب فارسی شبھی) قمیص
 سَبَّح - (مغرب فارسی شبھی) مہرہ سلیمانی
 سَبَد - (مغرب ٹوکرا) ٹوکرا -
 سَبَدہ - (مغرب سبد) ایک قسم کی ٹریل -
 سَبْرمان - وہ آئندہ انسان جو مسئلہ ارتقا
 کی رو سے موجودہ انسان سے کمالات
 علمی و تمدنی میں بہار ج بالاتر ہوگا -
 سَبستان - (مغرب پستان یا مہر پستان)
 سوڑہ -
 سَبط - (دیکھو سببت)
 سَبَنزِی - بن مانس - مناس
 جنگلی آدھی -
 سَبَنسہ - بریک پھیار و کئے کا بیج -
 گاڑی رو کئے کا دستہ -
 سَبَنسہ - ضابطہ -
 سَبَنیہ - (مغرب یونانی سبنان)
 توال - بدن پوچھنے کا رومال -
 سَبیا - اختبوط
 سَبَّج - (مغرب فارسی یا حبشی)
 سَبَنجہ - کالا کمل
 سَبَنیداج - (مغرب فارسی سپیدہ)

سَنان بَطْر سَبْرَج | سینٹ پیٹری برگ
 ہاک روس کا پائے تخت -
 سَناپور - (مغرب) ہالہ مہتاب - منڈل
 سَنائِق - (مولد) (۱) ہانکتے والا (۲)
 کوچوان -
 سَنائِل - (مولد) مانع بچنے والا مادہ -
 (سائلات - سوائِل) جمع -
 سَب - انسٹ - ابانت
 سَباط - ردھی مہینے کا نام جو فروری سے
 مطابق ہے -
 سَباط - (مغرب اندلسی زیا تو) (۱) پاپوش
 (جوئی) جس کی ایڑھی نہ ہو - سلیپر -
 (۲) کمر بند - پنکھ -
 سَبانج | مغرب لاطینی سپنا کیوم -
 سَبانغ | اسپانج - ایک مشہور ترکاری
 جسکو پالک کہتے ہیں -
 سَبَبُ التَّعْتُد - وجہ امور قابل لحاظ -
 سَبَبُ صَحیح - قانونی مواخذہ -
 سَبَبت - (مغرب فارسی شود) ایک قسم
 کی بھاجی جو پکا کے کھائی جاتی ہے -
 سَبَبت - (مغرب ترکی) جھابہ - ٹوکرا -

سبیر تو - (مغرب اسپرٹ) روح شراب -

سبت - (مولد) سیدہ کا مخفف -

شریف عورت -

سبت - شریف عورتوں کے نام پہلے بطور

لقب مستعمل ہوتا ہے -

ستا - (مغرب مصری قدیم) تاجامہ -

احسان - دیکھ (سندا)

ستارہ - (مولد) پردہ - تھمیر کا پردہ -

ستترہ - (مولد) کوٹ چنہ

ستمبر - (مغرب ایتالیائی ستمبری -

ماہ ستمبر - ایلول

ستوق - (مغرب فارسی ستوا غیر

مروج سکہ - درہم نامبرہ وغیر راج

ستوکلم - (مغرب سٹاک ہالم) ملک

سوڈان کا دارالخلافہ -

سجا - (مغرب ترکی ساچاق) - (ہودج

کی) جھارہ سلسل

سجآدہ - (مولد) قالین شطرنجی (سجآجید)

جمع

سجآرہ - (مغرب فرانسیسی سگار) سگار -

سگریٹ (سجآرہ) جمع

سجاف - (مغرب ترکی سنجاف)

سجس - (مولد) حرکت - بیداری - شور -

سجیل - (مغرب لاطینی سگلم - یونانی (۱)

خط - مکتوب - (۲) روداد - سرکاری

کاغذات - قانونی کاغذ -

سجیل - یادداشت - تحریر - خطا صہ راستہ -

سجلاط - دیکھو (سجلاطس) -

سجلاطس - (مغرب لاطینی سگلانس)

یاسین - پردہ پشمین - (پاچہ جات)

سجلی الجلسات - کمیٹیوں کی یادداشت

کی کتاب -

سججیل - (مغرب لاطینی سگسگلم - آئینہ

آرسی -

سججیل - (مغرب لاطینی سگسگلم - آئینہ

آرسی -

سججوق - (مغرب ترکی) مہتابی - فیتلہ سوز

سججیل - (مغرب فارسی سنگ گل) کنکر

سججآبہ - (مولد) صندوق - مینر کاخانہ -

سججآرہ - فردف اور چارپائے وغیرہ کے

سامان رکھنے کی مینری الماری -

بکس (سججآجیر) جمع

سَحْبُ الْحَوَالَةِ - بل کاروپہ وصول کرنا۔

سَحْلَب - (مخرب ثعلب) خصی الثعلب۔

سَحْمُون - (مغرب سینوروس) ایک مشہور

پرنڈ جسکی عادات کتے سے ملتی جلتی ہیں۔

سَحْت - (مغرب فارسی) اورشت۔

سَحْتِیت - (مغرب فارسی) سخت (شدید

زرم کی ضد۔

سَحْرَه - بیگار۔

سَحْطَه - (مغرب فارسی) سخت (غصہ ہونا

نارضا مندی۔

سَحْتِیَان - کمایا ہوا (دباغت کیا ہوا) چمڑا۔

سَد - بند۔ پال۔ جمع۔ سُدود۔

سَدَا - (مغرب قدیم مصری) تَدہ - تاراجہ

احسان۔ شہد۔

سَدَایَہ - دیکھو (سنداب)

سَدَاجَتہ - (مغرب فارسی) سادہ (سادہ مزاجی

سَدَاد اِکَاک

سَدَادِہ

سَدَر - (مغرب فارسی) سدر (ایک کھیل کا

نام جس سے جو کھیلتے ہیں جس میں

تین خانے ہوتے ہیں۔

سَدَلہ { شیمن نیم تخت۔

سَدِی {

سَدُوس - (مغرب یونانی) اساتس (ہری چادر)

سَدِیْم - (مولد) ایک ہنایت ہی لطیف نواز۔

ار شیر۔ ایچتر۔

سَدِیْن - (مغرب ارامی) مندون پروردہ۔

سَدَاب - (مغرب فارسی) سَدَاب (

ایک گھاس جو اسقاطِ حمل کے لئے کام

آتی ہے۔ آتش اور سالن بھی پکایا

جاتا ہے۔

سَدَاجَتہ - (مغرب فارسی) سادگی۔

سَدَر { (مغرب فارسی) سردار۔ افسر

سَدَر

سَدَرَاج - (مغرب فارسی) چراغ (چراغ

سَدَرَاج - (مولد) پاسپورٹ۔ بندرگاہ سے

جانے کا پروانہ (سَدَرَاجَات) جمع۔

سَدَرَاج - (مولد) سرائی۔ قید سے آزادی

سَدَرَاوِق - (مغرب فارسی) سردار و بقول

بعض سرائیوہ (دہلیز۔ سراپوہ

سَدَرِ اللَّیْلِ - پرول۔ وہ پوشیدہ نفظ

جس سے فوج دہلے اپنے ساتھیوں کو

سیرِ دَاسِب - (مغرب و مولد) (۱) تہ خانہ
(۲) گنبد

سَمَر دَاہ - (مغرب فارسی) امیر فوج - سپہ سالار
سَمَر دَا الْعَسَاکِر - فوج کا ملاحظہ -
سَمَر دَوین - (مغرب سار دین) ایک قسم
کی نمکین مچھلی -

سَمَر عَسْکَر - سپہ سالار - کمانڈر این چیف
سَمَر قَه - (مغرب فارسی سرہ) ریشمی

کپڑے کا تختان - جمع سَمَرَق

سَمَر قَه اللَّیْل - سیندھ - نقب -

سَمَر قَه سَنَدَات رَشْمِیَّہ - سرکاری
دستاویزات کا نکال لے جانا -

سَمَر قَین - دیکھو (سرجین) -

سَمَر کِی - (مغرب ترکی) بل آف آرڈر -
منی آرڈر -

سَمَر کِی - (مغرب ترکی) ہنڈوی - برادہ

سَمَر م - ایک آنت کا نام

سَمَر م - مقعد کا سوراخ -

سَمَر مَق - (مغرب فارسی سلمہ)

سَمَر مَق - (مغرب فارسی نمرہ) ایک

پھول ہے جسے اشک زمین اور طبلق

پہچان لیتے ہیں -

سَمَر اَوِیْل - (مغرب فارسی شلوار) -

پانچامہ - ازار -

سَمَر اَمِی (مغرب فارسی) قصر - محل شاہی

سَمَر اَیَا (سرکاری دفتر -

سَمَر اَمِی اَنخُو مَتہ - گورنمنٹ ہوس -

سرکاری محل -

سَمَر یَہ - (مغرب فارسی) شاہی محفل

سَمَر اَی شہابی مجلس

سَمَر بَال - (مغرب ارامی) بیراہن پہنی -

قمیص -

سَمَر ت - (مغرب ترکی) سخت - میوہ جات

کی صفت میں آتا ہے -

سَمَر تَشْرِیْفَاتِی (مغرب ترکی) شاہی حاجیوں

کا افسر -

سَمَر ج - (مغرب فارسی سرگ) سَمَر ج - لال -

سَمَر ج - (مغرب) زین -

سَمَر جِن - (مغرب ترکی سورکون) جلاوطن

کرنا - شہر بدر کرنا -

سَمَر جَلِین - (مغرب سرگیس) گوہ فضلہ -

سَمَر دُ - (مغرب فارسی زرد) زرہ

کہتے ہیں۔

سَمْرُوج - (مغرب ترکی) جوٹا۔ ایک
 سَمْرُوجِہ - پاپوش۔ بالائی کی قسم جو اندر
 سَمْرُوزَہ - پاپوش کے حفاظت کے
 سَمْرَایَہ - لئے پہنتے ہیں

سَمْرَن - (مغرب ترکی) باربان کلاں۔

سَمْرَنَاکے - (مغرب فارسی) شہنائے۔

سَمْرَج - (مغرب ترکی) ساریج حوض

سَمْرُوجی - (مولد) زین ساز

سَمْرُومَطَا - (مغرب یونانی) ستر و میتان

حصیر۔ بوریاء۔

سَمْرِیَاق - (مغرب انڈلی زریا کو) (۱)

کوڑا۔ تازیانہ (۲) رس۔ رستی۔

سَمْرِیَہ - (مولد) دیکھو (سراے)

سَمْرَایَا - (سَمْرِیَا ت) جمع۔

سَمْرِیَہ - (مولد) کانشنس۔ ضمیر۔

وجدان سلیم

سَمَطَام - (مغرب یونانی ستمہ) کشتی کا

پہلا حصہ۔

سَمَطَام - (مغرب یونانی ستموما) دیم شیر۔

تلوار کی دھار۔

سَمَطُ مَسْمُوحِی - جھکی ہوئی یا خمیدہ سطح۔

سَمَطَل - (مغرب یونانی سبتلہ) (۱)

پنگان بادستہ۔ اون دستہ۔

(۲) طشت آفتابہ

سَمَطَل - (مغرب) دست ہونا۔

سَمَاعَاوَاة - (مولد) ایک تعظیمی کلمہ جو مغز

اور جلیل القدر اشخاص کے لئے

مستعمل ہوتا ہے۔

سَمَاعَاوَاة الصُّدُورِ الْأَعْظَمِ - ہزکنسی

وزیر اعظم۔

سَمَاعَاوَاة العُظْمَا - بادشاہ کا لقب۔

یورپیجیستی۔

سَمَاعِیْن - (مولد) عیسائیوں کی ایک عید۔

سَمَعَةُ اِخْتِیَارِی - وہ اقتدار جو بعض

حالتوں میں حکام عدالت کو دیا جاتا

ہے کہ بلحاظ حالات اپنی ہی تجویز کے

موافق کارروائی کریں۔

سَمْعَر - (مولد) نرخ۔ بولی۔ دام

سَمْعَرِ الْفَائِدَہ - بینک کا نرخ

سَمْعَرِ اَقْل - کمترین قیمت

سَمْعَرِ الْبَلَدَہ - بازاری نرخ

سِفْرُ التَّكْوِينِ - تورات کی پہلی کتاب جس میں

پیدائش عالم کا حال لکھا ہے -

سِفْرُ الْجَلِيَانِ - اہام - سینٹ جان کا

خواب -

سِفْرُ الْخُرُوجِ - توریت کی دوسری کتاب

جس میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے

کا حال لکھا ہے -

سِفْرُ الْخَلِيقَةِ - توریت کی پہلی کتاب جس میں

دنیا کی پیدائش کا بیان ہے - دیکھو

سِفْرُ التَّكْوِينِ -

سِفْرُ الرُّوْيَا - عہد جدید کی آخری کتاب -

بک اور وپلیشن -

سِفْرُ الْعَدَدِ - توراہ کی چوتھی کتاب

سِفْرُ الْقَصَاةِ - توراہ کی ایک کتاب

سِفْرَةُ - (مولد) میز - میز پوش -

سِفْرُ جَمِي - (مولد) باورچی - طبخ -

سِفْرُ قَع - (مغرب سیکر گاہ) ایک قسم کی شراب

جو جادوس سے تیار کی جاتی ہے -

سِفْسِر - (مغرب فارسی ہمسار) - (۱) دلال

(۲) وہ شخص جو مختلف چیزیں

بیچتا ہو -

سِفْرُ دَاخِلِي - (ملکی بھاؤ

سِفْرُ جَارِي - زرخ روان

سِفْرُ لِمَاةٍ - شرح فیصدی

سِفْرُ تَفِيحٍ - اعلیٰ قیمت

سِفْرُ مَوْصُوعٍ - کسی خاص شے کا نسخ

سِفْرُ وَاطِي - ہلکی قیمت - ادنیٰ قیمت

سِفْعَةُ كَاوَلَةٍ - پورا اقتدار

سِفَار - (مغرب فارسی افسار) مہار -

نکیل (اسفیرہ - سِفْر - سِفَار) جمع

سِفَار - وہ رسی جو جانوروں کے گلے میں

ڈال کر باندھتے ہیں -

سِفَارَةٌ - سفارت خانہ

سِفَانَةٌ - معمولی موتی -

سِفْتَجَةٌ - (مغرب فارسی سفتہ) چپک -

بزات (سِفْتَج) جمع -

سِفْتَجَةٌ - ہنڈی - بل آف اسپنج -

سِفْعُ مَشْحَرٍ - اُتار - ڈھال نشیب -

سِفْعٌ -

سِفْعٌ - (مغرب یونانی سپنگوس) ابرو -

سِفْعِيَّةٌ - موسے بادل - اسفنج -

سِفْرُ الْاَيَامِ - توراہ میں تاریخ کی کتاب -

سُقْسُقَة - (مغرب یونانی سفستیس) بران
تراشی -

سُقْسُقِیر - (مغرب فارسی سفسار) بائع و
مشری کا درمیانی دلال -

سُقْط - (مغرب سبذ) طبلہ عطار - عطر دان
کا صندوقچہ -

سُقْطُوْجَة - دیکھو (سُقْتَجَة) (سُقَاطِج)
جمع -

سُقْکُ الدَّم - خونریزی

سُقْن - دیکھو (سُقین)

سُقْفِیر قُوق العَاوَة - غیر معمولی ایچی -

سُقْفِیر مَخْصُوص - اسپیشل ایچی -

سُقْفِین - دیکھو (ساقین) -

سُقْفِین - (مغرب یونانی سفین) پانہ -

فانہ - ساکن -

سُقْفِینَة تُجَارِیَة - دکانی کشتی -

سُقْفِینَة تَوْر بَیدِیَة - (مولد) تارپیڈ کشتی

سُقْفِینَة حَرَبِیَة - (مولد) جنگی جہاز

سُقْفِینَة شَرَاعِیَة - (مولد) بادبانی جہاز -

سُقْفِینَة مَدْرَعَة - زرہ پوش جہاز -

سُقْفِینَة - (مغرب کشتی)

سُقْقَاطَه - (مولد) کواڑ کی بلی -

سُقْقَالَة - (مولد) جہاز پر چڑھنے کا مصنوعی

سُقْقَلَب - (مغرب اندلسی) اسکلا دو -

بندہ غلام - خواجہ سرا -

سُقْقَس - (مغرب قطبی) نشان میل -

سُقْقَط - (مغرب ترکی) کمزور جو بڑھاپے

کی وجہ ہو

سُقْقَا الوَرَق - { ردی کاغذ

وَرَق بَوَارِی - {

سُقْقِطِی - سقظار

سُقْقَف - (مولد) چھت گیری

سُقْقَلَاط - (مغرب لاطینی سیکلٹس)

سُقْقَلَاطون - اوہ ریشم جس میں زکام کام

کیا گیا ہو خصوصاً جو بغداد میں بنایا جاتا ہے

سُقْقَمُوْنیَا - (مغرب یونانی سکموٹیا) محمودہ -

ایک دوا جو سہل کے لئے مفید ہے -

سُقْقَنقُور - (مغرب یونانی سنگکس) جو قدم

مصری سے ماخوذ ہے (ریگ ماہی -

سُقْقُوط - خسارہ - گھانا -

سُقْقُوط - (مولد) پستی - تنزل - زوال -

سُقْقُوط الحَقِّق فی الِاسْتِیْنَاة - حق مرافعہ

کا سوخت ہو جانا۔

سُقُوطُ الْمَدَّة - دقت کا گزر جانا۔

سُقُوطُ فِي الْإِمْتِحَان - (مولد) امتحان میں ناکامیاب ہونا۔

سُكَّ - لوہے کی پن (سوئی)۔ (سکاک)

سُجَّ -

سُكَّ النَّقْوُود - (مولد) سکہ ڈھالنا۔

سُكَّان - (مغرب سرانی) لنگر کشتی۔

دم کشتی۔

سُكَّتَة - (مولد) کوما۔ رقم الخط میں جو علامت ذرا سے وقفہ کے لئے لکھی جاتی ہے۔

سُكَّة الْحَدِيد - (مولد) ریلوے لائن۔

ریل کی سڑک۔ جمع سبک الحدید۔

سُكَّاتِنْدَا - (مغرب اسکاٹ لینڈ) ایک

ملک جو انگلستان کے شمال کو واقع ہے۔

سُكَّر - (مغرب شکر جو سنکرت शकर سے متوافق ہے) قند چینی

سُكَّرَاتِيَّة - (مغرب سکر ٹری شپ)

معدی۔ نظامت۔

سُكَّرَاتِيَّة - معدی۔ ناظم۔

سُكَّرَاتِيَّة مَالِيَّة - معتمد فیئانس

سُكَّرَجَة -

سُكَّرَجَة - (مغرب فارسی سکرشہ) شکر دان

سُكَّرَجَة - اپیالہ۔ تشریحی۔ کپ۔

سُكَّرِ دَان - خون شراب۔

سُكَّرِ كِه - (مغرب فارسی سکرکہ) ایک قسم

کی شراب جو زرت سے بنائی جاتی ہے۔

سُكَّرِ كِه چینی - (مغرب فارسی سکرکہ انگبین)

ایک دوا جو سکرہ اور شہد سے بنائی جاتی ہے۔

سُكَّرِ كِه اَرَه - (مغرب یونانی کشر دوس) ایک

قسم کی مچھلی۔

سُكَّرَاتِيَا - (مغرب اسکاٹ لینڈ) ایک ملک

کا نام جو انگریزوں کے زیر حکومت ہے۔

سُكَّرَاتِيَا - (مغرب اطالیائی سکورتا) ضحمت۔

نقصان۔ ہیہ۔

سُكَّرَاتِيَا - (مغرب اطالیائی) ثمانیہ

سُكَّرَاتِيَا - (مغرب یونانی سکریاں) ایک

قسم کی کشتی۔

سُكَّرَاتِيَا - (مغرب لاطینی) چٹنی

سُكَّرَاتِيَا الْعَسْكَرِيَّة - (مولد) فوج کا اگلا حصہ

ہرول۔ مقدمتہ الجیش۔

سَلَاق - (مغرب سرپانی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے صلیب چڑھنے کا دن -

سَلَاطِق - (مغرب) (سلاطین)

سَلَا نَاک - (مغرب ترکی) سلاطین و کرب
ہے سلام اور فنی ترکی میں بمعنی کرنا ہے

(۱) مردانہ (۲) جمعہ کے دن فوج

کی سلطان کو سلامی -

سَلَا نِیک - (مغرب سالونیکا) یورپی

ترکی کا ایک صوبہ -

سَلَب - (مولد) چقندر -

سَلْبَاح - (مغرب ارامی) مارا ہی -

سَلَبَہ - (مولد) ٹوکری - ٹوکرا -

سَلَجَم - (مغرب فارسی شلغم) ایک کاری

سَلْحَفَہ -

سَلْحَفَاة -

سَلْحَفَنی - (مغرب فارسی سولاج پاس)

سَلْحَفَاء - (یا سوراخ پائی)

سَلْحَفَنی -

سَلْحَانَاة - (سَلْح خانہ کا مغرب) مسلخ -

کسیلا -

سَلْسَلَة السَاعَة - چین - گھڑی کی زنجیر

سَلَا - (۱) شور باہنجی - (۲) چاشنی -
طرطور -

سَلَا طَة - (مغرب لاطینی سلا تو - اچار چینی)

سَلَا طَة - قوت - طاقت - سلطنت

حکومت - اختیار -

سَلَا طَة - (مغرب) (سلاطہ)

سَلَا طَة - (مغرب سیلڈ) چینی اچار -

سَلَا طَة اجرائی - قوت تعمیلی -

سَلَا طَة تائمہ - پورا اختیار - اقتدار کمال -

سَلَا طَة قَضَائی - عدالتی حکومت

سَلَا طَة قَضَلِیة - کانسل کا اقتدار

سَلَا طَت مَتَوَ اَرِثَة - موروثی سلطنت

سَلَا طَت مَنفَرَدَة - شخصی سلطنت

سَلْعَة - سودا - مال

سَلْف - (مولد) پیشگی ادوانس -

سَلْفَة - قرض - ادھار

سَلْفِیة - پیشگی - اگلا روپیہ - زر بیعانہ -

سَلْفِیة - امانتی قرضہ -

سَلَق - (مغرب یونانی سکوس) چقندر -

سَلَاک الْاِشَارَة - تیلیگراف

سِنَاکُ الْبَرْقِ - تار برقی کا آہنی تار -
ٹیلیگرام لائن -

سِنَاکُ الْتَلِغْرَافِ - تار برقی -
سِنَاکُ الْکَلْبَرِ وَبَانِی - (مولد) تار برقی
کا آہنی تار -

سِنَاکُوت - (مغرب یونانی سلوکس)
ایک جانور جو بیڑھی کا دشمن ہوتا
ہے اسی لئے اسے عربی میں
ابو الجرادہ کہتے ہیں -

سَلُوک - (مولد) روش - اخلاق -
چال چلن - کیا رکڑ -

سَلِیح -
سَلِیحُون - (مربانی) حواری مسیح -

سَلِیْمَانِی - (مغرب لاطینی سلیمانم)
ایک زہر دار دھات شلیمیم -
سَلِمْ - (مغرب ارامی) زہر

سَمَاح - الونس - بعتہ -
سَمَاح اِیْضَا حَاثِ مَدْنِیَّة - دیوانی
مقدرات کی سماعت -

سَمَاحَةٌ - تعظیمی لقب جو علما کے نام سے
پیشتر استعمال کیا جاتا ہے -

سَمَاک - (مولد) ماہی فروش -

سَمَاوِی - (مولد) آسمانی رنگ -

سَمَاح - (مولد) اجازت دینا -

سَمَاحِج - (مغرب فارسی) سہارہ یا
سہترہ (شاہ فارس کیخسرو کے
طریقے کے موافق تین مرتبہ خراج وصول کرنا)

سَمَسَار - دلال - کمیشن ایجنٹ -

سَمَسَار - (مغرب سیپ سار) دلال -
(سما سترہ) جمع -

سَمَسَارِ الْخَوَالِات - ہندھی کا دلال -

سَمَسَارِ الْوَرَاق - ہندھی کا دلال -

سَمَسَّرَہ - دلالی کمیشن

سَمَسَّرَہ - (مغرب کافی ہوس) قہوہ خانہ -
چائے خانہ -

سَمَمَقَہ - (مغرب ارامی) ایک لال رنگ
کا پتھر -

سَمَمَقَہُ الْفَرِیْلِ - (مغرب) اپریل فول -

ماہ اپریل کی ہنسی دنگی -

سَمَمَکُ الْمَقَدِّدِ - خشک پھلی -

سَمَمَجُونِی - دیکھو (اسماجنون)

سَمَمَنَد - (مغرب فارسی) اسپ - گھوڑا -

سنوئی - سالانہ (مونٹ - سنوئی)

سنوئی - سالانہ تنخواہ -

سنٹی میٹر - (مغرب فرانسیسی سنٹی میٹر)

سنٹی - (متر کے سو حصوں میں سے

ایک حصہ - (دیکھو متر)

سوابق - گزشتہ کیفیات - پہلے کا حال -

سواری - سواروں کا سالہ

سوجرہ - بیمہ کرنا -

سوشیائی - سوشلٹ

سواری فرسان - سوارہ فوج

سواق - ہانکنے والا - کوچوان - گاڑی

چلانے والا -

سوق راج - گرم بازار

سوق صناعی - دست کاری کی منڈی -

سوق عام - عام بازار - پبلک مارکٹ

سوکرنا - بیمہ

سوگرہ - بیمہ کرنا -

سولقات - سلفٹ

سواق - کوچیان

سود البیئہ - بڑا ارادہ - ارادہ جرم -

سہنم - حصہ لاٹری کا ٹکٹ - مشہ

سند عرفی - پریویٹ دستاویز -

سندیان - (مغرب فارسی) درخت بوط

کی ایک قسم جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے -

سندیک - (مغرب فرنگ سیندیک)

انسپیکر - مفتیش -

سقط - (مغرب قطبی) بول رہنمیان

سنطیر - (مغرب یونانی پلٹریان)

سنطور - اعود - بربط - ایک قسم کا ستار -

سنکڑہ - (مولد) فوٹو کو چوکھٹے میں لگانا

سنگری - (مغرب اٹالیائی رنگرو)

لفظی (خانہ بدوش) آہنی یا مسی

ٹھٹھیرا (سنکڑہ) جمع -

سنگری - ٹین کا کام کرنے والا -

سنکسار - (مغرب یونانی سنگساریان)

شہادت نامہ - تاریخ شہدا

سنکسار - (مغرب یونانی) ایک کتاب

جس میں صلحا کے حالات اور اعمال

لکھے ہوتے ہیں اور عیسائیوں

کے گرجے میں پڑھے جاتے

ہیں -

سنوٹو - اباہل -

سبان - سرکنڈا

سینا ما تو غراف - سینا ما تو گراف -

بَابُ الشَّيْنِ

شابرقان - (معرب شابرقان) (۱) فولاد

(۲) قفیز - ایک وزن ہے -

شاپورہ - (معرب) - (۱) خلیج - کھاڑی -

(۲) مصر میں شاپورہ کے معنی غبار بنم

دکبر کے مستعمل ہوتے ہیں غالباً شاپورہ

کا معرب ہے جو ایک قسم کی پھلی ہے

شاپیر - دیکھو - (مشیر)

شاذ - (معرب قطبی) - (۱) - (قدیم) ناظم

نگران کاروبار - (۲) (جدید) چیرا -

خطوط ارمان -

شادار - (معرب فارسی شتر بواسطہ ترکی)

(۱) تخت رواں - (۲) اجمہ - ڈیرا -

(۳) چھوٹا گھر -

شادرواں - (معرب فارسی شادربان)

(۱) شامیانہ (۲) چشمہ (۳)

کنگرہ قلعہ (۴) فرش منقش -

شادکونہ - (معرب فارسی شادگوشتا) (۱) بستر

سہام المورثین - منتظین کے حصص -

سیارہ - ٹوٹکار -

سیاستہ - پولیسی - تدبیر مملکت -

سیاستہ اللہ ولہ الخارجیہ - گورنمنٹ

کی فارن پالیسی -

سیاستہ اللہ ولہ الداخلیہ - گورنمنٹ

کی ہوم پالیسی -

سیاسی - ملکی - پولیٹیکل

سیاسی - ماہر سیاست جمع سائے -

سیاقہ سیاستہ - ملکی پروگرام -

سیتہ سکوب - سٹروپ - آلہ مجسم نما -

سیجارہ - سگار - سگریٹ

سیخ - چہرہ -

سیر - سر تنظیمی خطاب -

سیرہ - سوانح عمری -

سینرج - شیٹرم کا تیل -

سینالہ لو لو - سرکالہاس جو موتیوں کا

بنا ہوتا ہے -

سیدہ - میم صاحب - خاتون - بیگم

سیوکارتاہ - { بیمہ - انشورنس - مابین

سیکورتا -

شاکری - (معرب فارسی چاکر) (۱) نوکر۔

مزدور (۲) مزدوری - (۳) ایک قسم

کا خنجر - جمع شاکریہ

شاکریہ - (معرب فارسی) نوکری - مزدوری

شاکوش - (معرب ترکی چک) ایک آلہ جنگ

چکی ٹانگی جاتی ہے۔

شاکوش - ہتھوڑا - گھن - مارتول -

شال - (معرب فارسی) شال

شالیج - (مولد) بے دین - راہب -

شالوف - (مجاورہ شام) آبشار - جھرنہ -

شامبیت - (معرب فرانسیسی) اسپان

مزرع - کھیتوں کا رکھوالا -

شامورہ - (معرب) شاپورہ - ایک وزن -

شائوش - (دیکھو) شائوش

شائوش - (معرب ترکی چادش) جماعہ دار

شائوشیہ - آپولیس - ہیڈ کانسٹیبل -

سارجنٹ -

شامانی - (معرب فارسی) جو چیز بادشاہ

شاہی - ا کے لائق ہو - شاہی - شامانہ -

شاہترج - (معرب شاہترہ) ایک

مشہور دوا کا نام -

بچھونا (۲) رفاہ - منغیہ -

شادنج - (معرب فارسی شادنہ) حجر انصب -

یشم خطائی - ایک مسور کے برابر پتھر -

شادوف - (معرب) ڈوچی - چھاگل -

شاکہ - سُر - کئے - تان -

شارویم - (معرب عبرانی سرفیم) فرشتہ

سروش -

شارویم - (معرب عبرانی) فرشتہ کروبی

اسی سے ماخوذ ہے -

شاروف - (معرب فارسی جاروب) جھاڑ

شاروق - (دیکھو) صاروج

شاری - (معرب انگریزی) لائٹنگ پروٹکٹر

وہ آلہ جاذب برق جو بجلی سے محفوظ

رہنے کے لئے عمارتوں پر لگایا جاتا ہے

شاس - (معرب از زبان ہائے نواحی ہند)

تن زیب - ایک قسم کا باریک ملس -

شاعر الملک - ملک اشعرا - شاہی شاعر

شاعر - پالان - خوگیر (شواغر) جمع

شاعول - (ع - د) بڑا بادباں -

شاقوف - بڑا ہتھوڑا

شاقول - (معرب ارامی) ساہول

باندھا جاتا ہے کہ دوسرے پرند اس کو
دیکھ کر گرفتار ہوں۔

شَبَاط - (مغرب) رومی مہینہ جو ماہ فروری
شَبَاة - کے مطابق ہے۔

شَبَاک - جالی دار کھڑکی۔ جمع شَبَاکِیک
شَبَال - (مولد) دریا کے بہاؤ کے موافق
چلنا۔ ضد رَقَافًا۔

شَبْرَقہ - جیب خرچ۔ برتاؤ

شَبْرِیۃ - پلنگ۔

شَبْک - حقہ

شَبُور - رنگھا۔ قرنا۔ بگل۔

شَبُوق - روک کی لکڑھی۔

شَبِیۃ جزیرہ - جزیرہ نما

شَبِین - شاہ بالا۔

شَبِینہ - سہیلی۔

شِتا - بارش۔

شَتَل - پودا لگانا۔

شَتْلہ - چھوٹا پودا۔

شَحْجَب - مزائے موت

شَحْرَیۃ - { پود گھر۔ زسری۔ باغچہ۔
منغرس۔

شَاہِدُ الْقَبْرِ - (مولد) لوح مزار۔

شَاہِدُ النَّفْسِ - صفائی کا گواہ

شَاہِ سِیْرَم - { مغرب فارسی شاہ سپرم

شَاہِ سِیْرَم - { جو شاہ اسپرم بادشاہ سنفرم

مخفف ہے۔ صاحب ہونڈ کا قول

ہے کہ شاہ سپرغم کا مغرب ہے (ریجا

بزرگ۔ زیرہ۔ ضمیران۔

شَاہِیْن - (مغرب فارسی)۔ (۱) ایک شکاری

پرند (۲) ترازو کی ڈنڈی۔

شَاہِی - (مغرب ترکی چائے) جو بواسطہ

روسی ٹاک چین سے آیا ہے)

شَاہِیۃ - (مغرب اندلسی سایہ) ایک قسم کا

زنانہ لباس۔

شَاہِیْن - دیکھو (مضمین)۔

شَبَاہِیۃ - شہنائی۔

شَبَاہِ اَرَس - (مغرب فارسی سپارس)

دقت بقایا۔ رجسٹر وصول باقی (شبارستا)

صبح۔

شَبَارِق - (مغرب فارسی پیشاوارہ) ایک

قسم کا گوشت۔

شَبَّاش - وہ مرغ جو دام میں اس لئے

شُخْطُور - چھوٹی کشتی -

شَدِيدُ اللّٰهِيَّةِ - موثر بیان جس کا کلام قوی -

متین اور پر زور ہو -

شَرَاب - شربت - جمع شرابات

شَرَابَاتِي - شربت فردش - عَطَّار

شَرَاتِي - وہ زمین جو دریا سے نیل کی طغیانی

سے سیراب نہیں ہوتی -

شَرَايعُ البِلَادِ - قانون دیوانی - سیول لا

شَرِبَ الدِّخَانَ - حقہ پینا - سگار پینا -

شَرِبَ النُّخْبَ - جامِ صِحَّتِ پینا -

شَرَبَات - موزے - پائابے -

شَرَبَةٌ - شوربا

شَرَبَةٌ - جلاب - صراحی -

شَرَبُوش - تاناری ٹوپی

شَرَحَ - فرحت خیز مقام -

شَرَدَ - بارش

شَرَدَ - گمراہ ہونا - بھٹکنا -

شَرَدَقَةٌ - دم گھٹنے کی وجہ سے کھانسا

شَرَّابٌ - پھاہ - کالا -

شَرَدِمَةٌ - پارٹی - انجمن - جماعت

شَرَحَ - دیہاتی جوٹا -

شَحَار - گل سیاہ - کاجل - پھینپترا

شَحَاطَةٌ - دیاسلائی -

شَحْمَتٌ - نکال دینا - شَحَطَ دِیَاسَلَانِي رُغْوَانَا

شَحَطَانِي الالانوب - نلی کے ذریعے دود

یا پانی پینا -

شَحَطَطَةٌ - کشاں کشاں لیجانا -

شَحْنٌ - گاڑھی میں اسباب رکھنا - ٹپہ خانہ

میں پارسل ڈالنا -

شَحْنٌ - اسبابِ محمولہ - بار - بوجھ -

شَحْنَةٌ - پولیس

شَحِيمٌ - مسیحیوں کی کتاب اللہ کا -

شَحْمُورٌ - { چھوٹی کشتی -

شَحْمُورَةٌ - { چھوٹی کشتی -

شَحْمُورَةٌ - روشن دان -

شَحْمُورَةٌ - ایک قسم کا پائینجامہ

شَحْمُورَةٌ - مجسمہ - بت - آدمی -

شَحْمُورَةٌ - آدمی - ایک آدمی بخلاف جماعت

کے جو بطور شخص واحد تصور کیجاتی ہے

شَحْمُورَةٌ - وہ آدمی جسکو کسی امر کی

ماننت ہوگئی ہو

شَحْمُورَةٌ - دھکی دینا -

شتر شترہ - پانی - غلہ اور تھیلی کا نکالنا -
 شتر و شرف - بالا پوش - پانگ کی چادر
 جمع شتر اشرف -

شتر ط - عہد نامہ - اتفاق - جمع شتر وط

شتر طہ - مشیل کے گولے پھینکنے والی فوج -

شتر طہ - چیتھڑا - دھجی -

شتر طنہ - اہتمام کرنا - ادارہ کرنا -

شتر طوطہ - چیتھڑا - دھجی

شتر طیبہ - اجازہ نامہ

شتر قتیہ - شدید کھانسی -

شتر قطہ - آگ سے چنگاری اڑانا -

شتر قوطہ - چنگاری -

شتر ک - ناقص سیکہ - کھوٹا سیکہ -

شتر کہ - کمپنی - جمع شرکات

شتر کلہ - پھنسانا - بتلا کرنا -

شتر م - مٹی کے برتن کا اور وراجانا -

شتر مٹہ - پھاڑ کر پارہ پارہ کرنا -

شتر موٹہ - دھجی

شتر نقتہ - کیرے کا ریشم - ریشم خام (کوکون)

شتر قیطہ - { ڈوری - تار - فیتہ - قسمہ - رستی

شتر قیطہ - { ڈوری - تار - فیتہ - قسمہ - رستی

شتر نعیہ - قانون ملکی - لا - جمع شتر نعی

شتر نعیہ - دریائے آزون (جورڈن)

شتر لیف - سید کا تعظیمی خطاب - مسیح

اشتراف و شتر فا

شتر نیک - کسی کمپنی کا حصہ دار جمع شرکاء

شتر طہ - پولیس -

شتر وطہ اہلیتہ - دیسی پولیس

شتر طلی - سپہ سالار - سب اور بچے درجے کا

فوجی سردار -

شتر زعی - عدالتی عدیشل

شتر ف - سکارنا - ہندوی کار و سپہ ادا کرنا -

شتر ف الامتہ - قومی عربت -

شتر کہ - کمپنی - فرم - ساجھے کی دکان -

شتر کہ التجارہ - بیج بیوپار کی کمپنی - تجارتی

کمپنی -

شتر کہ اہل اصناف - انجمن تاجران

تاجروں کی کمپنی -

شتر کہ تاملین حیاة - لائف انشورنس کمپنی -

ہیہ زندگی کی کمپنی -

شتر کہ مدینتہ - دیوانی جماعت یا انجمن -

مجلس مال -

شَرِکَۃٌ مُّشْرَکَۃٌ - دوسرا حصہ - کسی معاملہ
 میں دو چند استحقاق ہونا۔
 شَرِکَۃٌ مُّسَاۡہَمَۃٌ - جماعت سندیافتہ۔
 جماعت جس کو مثل شخص واحد کے کاروبار
 کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔ جماعت
 جس کو دراثہ حقوق حاصل کرنے کا
 اختیار ہو۔ جائنٹ اسٹاک کمپنی
 شَرِکَۃٌ - انجمن - مجلس۔
 شَرُوۡدٌ اَلْعَقْلُ - محو - بے خبری۔
 شَرِیْعَۃٌ - قانون لا۔ (شرائع) جمع
 شَرِیْکٌ بَدِیْرٌ - وہ حصہ دار جس کو کارخانہ
 کے انتظام میں کوئی دخل ہو۔
 شَرِیْکٌ مُّضَارِبٌ - مل کر کوئی معاملہ کرنے
 والا۔ ساھی۔
 شَرِیْکٌ مُّسْئُوْلٌ - (وہ شریک جس کو کوئی حق
 شَرِیْکٌ مُّضَامِنٌ - (واقعی کارخانہ یا نفع
 میں حاصل نہ ہو۔ لیکن جس نے
 اپنا نام بحیثیت شریک مشہور کیا ہو
 شَرِیْکٌ مُّوَصَّیٌ - نفع و نقصان کا شریک
 شَشَخَانَةٌ - ایک قسم کی بندوق
 شَشْمَہ - پانخانہ

شَشَشَۃٌ - نمونہ۔
 شَطَارَۃٌ - دھوکا دینا۔ مکر کرنا۔ دغا دینا
 شَطَّابٌ - ہرکارہ۔ پوست مین۔
 شَطْبٌ - راجاق۔
 شَطْفَہٌ - نوکدار لکڑی۔
 شَطْفَہٌ - کپڑے کا ایک ہنر نگار جس کو
 سادات عامہ پر پہنتے ہیں۔
 شِخَارٌ - پوشیدہ لفظ جس سے فوج والے
 اپنے ساتھیوں کو پہچان لیتے ہیں۔
 شَعْبٌ - قوم۔ جمہور۔ پبلک۔ جمع شعوب
 شَعْبِیۃٌ - برنج۔ شاخ۔
 شَعْرِیۃٌ - جالی جو منہ پر ڈالتے ہیں۔
 شَعْشَاعٌ - انگور کی کوپل۔
 شَعْشَعۃٌ - چکنا۔ درختان ہونا۔
 شَعْنِیۃٌ - تاز یا کجور کا درخت
 شَعِیْرَیۃٌ - بیویاں۔
 شَعْرَمَیٌ - (مغرب یونانی سیرٹوس) ایک
 سفیری۔ (تارے کا نام جس کو عرب زمانہ
 جاہلیت میں پوجتے تھے۔
 شَغَالٌ - محنتی۔ مزدور۔ ملازم۔
 شَغَلٌ - محنت۔ مزدوری۔

شکرچیمہ - کپڑا رکھنے کی خانہ دار چرمی الماری بڑھانے پر
 شکرچیمہ - بڑا ہنڈیا - شکرچیمہ - الوام - آخر خزانہ
 شکر - (مغرب ترکی چول جو عربی جل سے
 بنا ہے زین پوش - غاشیہ -
 شکر - (مغرب انگریزی شیل) صدف سیلی
 شکر - (اٹھو از لفظ شکر) آبشار -
 جھڑنا (شکر لات) جمع -
 شکر - (مغرب یونانی سیلی) ایک قسم کی مچھلی -
 شکر - (مغرب ترکی شکر) اصلاح بنوانا خط بنوانا
 شکر - دیکھو (شکر) -
 شکر - (مغرب ترکی چلی) (چلیپ خدا
 کل یعنی خداوند) (۱) خوش خلق -
 خلیق (۲) مودب مہذب (۳) شریف
 بھلا مانس (۴) حجام - نائی -
 شکر - (مولد) گندھے ہوئے آٹے کو برابر کرنا -
 شکر - منڈانا - اصلاح بنوانا -
 شکر - (مغرب ترکی شکر) (۱) تکیہ
 بالش (۲) چٹائی -
 شکر - (مولد) چور کا سامان چالے جانے
 شکر - (مغرب) جڑ - بیج -
 (شکر) جمع -

شکر بالمقارنہ - ٹھیکہ کا کام
 شکر خارج - گتے کی مزدوری -
 شکرہ - درانتی -
 شکر جنوبی - وہ روشنی جو بلاد قطبیہ جنوبیہ
 میں (جب وہاں چھ ماہ کی رات ہوتی
 ہے) شکر کی طرح ہوتی ہے -
 شکر شمالی - وہ روشنی جو بلاد قطبیہ شمالیہ
 میں (جب وہاں چھ ماہ کی رات ہوتی
 ہے) شکر کی طرح ہوتی ہے -
 شکر - برتن یا کپڑوں کو دھونا -
 شکر - سر کے بالوں کی چوٹی -
 شکر - ڈھیر لگانا -
 شکر - کاٹنا تراشنا -
 شکر - اٹھانا - چھڑی سے ناپنا -
 شکر - منتشر کرنا -
 شکر - چٹان - پتھر کا ٹکڑا
 شکر - سادہ نمک
 شکر - مزرع - جمع شکر
 شکر - آتش دان -
 شکر - نازین عورت
 شکر - زود بیج - تنک مزارع

شَلَف - (مغرب) آہنی سلاح -

شَلَفَتَ - (مغرب) چھوٹی زنبیل

شَلَفَطَه - (مولد) - (۱) بدخط لکھنا (۲)

نکتہ چینی کرنا -

شَلَق - (مغرب) دیوار کرنا -

شَلَق - (مغرب سلیمان) ایک قسم کی پھل

جس کی دم کے پاس دو پاؤں ہوتے

ہیں -

شَلَاک - (مغرب چلیک) ولایتی توت

شَلَم - (مولد) پریشان کرنا -

شَلَن - بابدگو شوارہ -

شَلَنَدَرِی - (مغرب یونانی غلندیان)

ایک قسم کی جنگی کشتی یا جہاز -

شَلِیم - ویکیمو (شالم) -

شَلِین - (مغرب انگریزی شلنگ)

شَلَنَک - ایک انگریزی نعرہ سگے جو

شَلِن - بارہ آنے کے مساوی ہے)

شَلَرَبِیَط - ویکیمو (شبیط)

شَلَس - (مغرب سریانی) (۱) پیشوا سے

ذہب عیسائی سڈکین (۲) عیسائیوں

کے پیش نماز کا مددگار - کلیسا کا ایک

ادنی عہدہ دار (شامیہ) جمع -

شَلَاشِیر - مغرب جا شیر جو جامہ شوسے

دھونے کے قابل کپڑے -

شَلَاطَه - (مغرب ترکی شاتہ) ہنگامہ -

عزوغا - شور و شر -

شَلَاخ - (مولد) (۱) شمدان - چراغدان

(۲) شمع ساز - شمع فروش

شَلَاخ - شتاعہ - کپڑوں کی کھونٹی -

شَلَمُ التَّیْم - فصل کی تعطیل

شَلَمُ التَّهْوَا - (مولد) ہوا کھانا - تفریح کرنا -

شَلَامَا - (مغرب قطبی) وہ غلہ جس کی تخم زریعی

شَلَامَتہ فصل گزرنے کے بعد کی گئی ہوا اور

بخوبی نہ اگا ہو -

شَلَمَبَانِیَا - (مغرب شامپین) ایک قسم

کی شراب کا نام -

شَلَمِیَط - (مغرب فرانسیسی گاروشامپینہ

باغمان - ناطور - نگہبان کشت

جمع - شَلَمِیَط

شَلَمَر - (مغرب مصری قدیم) (۱) تجربہ کار

(۲) سخی (۳) ایک بادشاہ کا نام

جس نے شہر سم قند آباد کیا اس میں

شمر گند ہے یعنی شمر کا کھودا ہوا۔

شمنبیتہ - (مولد) چھتری۔

شمنبیتہ - (مولد) بار بار سونگھنا۔

شمنکھٹ - (مولد) پودے یا بچے کا

یک بیک بڑھ جانا۔

شمنع - (مغرب صمغ یا صمغ) گوند۔

شمنع احمر - لاکھ۔

شمنعدان - (مغرب فارسی) چراغدان

(شناعل) جمع

شمنکۃ - (مولد) چھوٹا عامہ (شکلات) جمع

شمنندرہ - (مغرب شماندرہ) سنگرنا

شمنندور - (نشان لنگر - لکڑی کا ایک

تکڑا جو پانی کی سطح پر لنگرتا بنے

کے لئے تیار ہوتا ہے۔ قدیم

عربی میں (شوامہ) کہتے ہیں۔

شمنندفر - (مغرب فرانسیسی)

شمنندوفر - (انجن - ریل گاڑی۔

شمنموط - (مغرب) گانٹھ - گرہ (شامیٹ)

جمع

شمنمول - (راس بری - جمع شامیل -

شمنندرہ { سنگرنا -

ششان - سفون

ششان - دریا کو عبور کرنے کا ڈونگا۔

ششباب - موچھج اسشاب

ششبر - دائرہ - سیاہ ریشمی رد مال جو عرب

عورتیں یا بعض مرد سر پر باندھتے ہیں

ششبل - ایک آلہ پیمائش - (ششابل) جمع

ششنتہ - چرمی بیگ -

ششنتیان - زمانہ گھیر دار پانسجامہ

ششندئی - ابھی - فوراً

ششندہ - باندھنا

ششندہ - دیکھو ششندہ

ششندق - پھانسی دینا

ششنگ - پرہیز کرنا - باز رکھنا

ششنگان - ایک خانہ بدوش قوم

ششنگل - ہب، مچھلی کے شکار کا کاٹنا

ششنگلہ - ہب لگا کر کسی چیز کو جوڑنا۔

ششنگ - آتش بازی

ششنگول - سکہ مسادی پانچ فرنگ

ششنگ - اظہار خوشی کے لئے

چند توپوں کا یکبار

سربھونا۔

شہیتہ - اشتہار - کھانے کی بھوک

شہیالہ - پیشہ مزدوری -

شہتیاں - مزدور - قلی -

شہیت - چھینٹ

شہراز - جامہ اوڑھ -

شیش - سیخچہ - توپ بھرنے کا گز -

جھلملی -

شیش خانہ - بوج لوڈر (توپ)

شیشہ - تبا کو پینے کا کاغذ کا پائپ

شینک - بل - چک

شینک قابل تحویل - وہ ہندی جو

بج و شرا (خرید - عودت) کے

لائق ہو -

شینک مسطر - چک جس پر نام اس

شخص کا درج ہو جس کے حق میں

منتقل کیا گیا ہو -

شیکاگو - چیکاگو (شہر)

شیلی - چلی - امریکہ کا ایک ملک -

باب الصاد

صاحب - (مولد) تازہ تازہ رودنی

شہیرہ - کسی سکہ کا سفروب کرنا -

شہیف - گھاس وغیرہ کا گھارا یا جالی

شہوال - بڑا تھیلا ج شوالات

شہوسب - گرمی - حرارت

شہو بصری - پاسبان، کھیتوں کا محافظ

شہو باتش { شادو باتش، مرجبا

شہو باتش

شہو بصرہ - پاسبان مقرر کرنا -

شہو حیتیہ - کڑی، دہنی ج شہو اچی

شہو باجہ - شوربا -

شہورہ - کار چوبی کار و مال

شہوری الدولہ - کونسل آف اسٹیٹ

شہو کہ - کانٹا جس سے یورپین کھاتے ہیں -

شہو تہ - گدام، مخزن - تشوین

شہو افہ - جھاوا -

شہادۃ - سند - سرٹیفکٹ

شہادۃ استحقاق - سند افتخار

شہادۃ النفی - وجہ تردید

شہنہدر - سفیر کونسل

شہرہ - عرت - قدر

شہریتہ - بازنہ تنخواہ - مشاہرہ

صاحب السَّعَادَةِ - (مولد) ایک معزز
ملکی خطاب -

صاحبُ الشَّانِ - فریق متعلقہ -

صاحبُ الشَّرْكَه - ہڈ مارشال

صاحبُ المَحَلِّ - پروپرائٹرز - مالک

صاحبُ المَلْکِ - مالک اراضی -

صاحبُ المَنَاصِبِ - وہ شخص جسکے

ذمہ کسی خاص فرض کا انجام ہو -

(أصحاب المناصب) جمع -

صاحبُ الوَدِيعَةِ - امانت دینے والا

صاحبیہ - نوز یا بڑے دن کا تحفہ

صَاخِرَه - عرب فارسی (ساغر) - پیالہ -

آوند شراب -

صَادِقُو - دیکھو (صارتو)

صَادِر - برآمد - اکسپورٹ -

صَادِر - (مولد) - (۱) برآمد - اکسپورٹ

(۲) آمدنی پیداوار (صَادِرَات) جمع -

صَادِرَات - برآمد مال - نکاسی

صَادِرَاتِ عُمُومِيَّة - عام برآمد اشیاء -

صَادِرُو وَاوِرُو - برآمد و درآمد

صَارِتُو - (عرب ایتالیائی سازتو) خیاط

صَابُورَه - (عرب لاطینی سبترہ) - (۱)

ایک قسم کی زنبیل - ٹوکرا (۲) توفہ

خاک جس سے جہاز کا وزن برابر

کرتے ہیں -

صَابُورَه وَقَشُوم - پتھر وغیرہ مجامی چیز

جو کسی شے کی مضبوطی یا موزونی

کے واسطے استعمال کیجاتے -

صَابُورِيَّة - ٹوکرا (صابوریات) جمع

دیکھو (صابورہ) -

صَابُون - (عرب لاطینی ساپو) ایوانی

ساپونی (صابن)

صَا حِب - (مولد) (۱) ساتھی - رفیق

(۲) درست (۳) مالک - پروپرائٹرز

(صَوَا حِب) جمع

صَا حِبِ اسْتِقَامَةِ - اصولی آدمی -

صَا حِبُ الْأَرْضِ - زمیندار

صَا حِبُ الْأَيْتِيَّازِ - (مولد) لائسنس دار

پینٹ کرنے والا -

صَا حِبُ الْأَقْلَابِ - ریڈیکل -

صَا حِبُ الْحَرْبِيَّةِ - (مولد) اخبار کا مالک

پروپرائٹرز

صَاوِرِي (بقول بعض مولد و بقول بعض اہل ہند)

صَاوِرِي (جہاز کا ستول (صَوَارِي) جمع

صَاوِرِي

صَاوِرِي (مغرب یونانی سنسلی ایک

صَاوِرِي گھاس ہے

صَاوِرِي

صَاوِرِي (مغرب کلدانی) سلمازون کا ایک

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) - اڈجونسٹ میجر -

صَاوِرِي (مغرب ترکی) (۱۱) صیغ و سالم

صَاوِرِي (مغرب ترکی) - (۲) فوج کا

صَاوِرِي (مغرب ترکی) - (۳) پورا سک -

صَاوِرِي (مغرب ترکی) فوجی

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سنگ شکن آلہ -

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سنگ شکن آلہ -

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سنگ شکن آلہ -

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سکورس - تیر - بزرگ

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سکورس - تیر - بزرگ

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سکورس - تیر - بزرگ

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سکورس - تیر - بزرگ

صَاوِرِي (مغرب لائٹن) سکورس - تیر - بزرگ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي - کسی چیز کا بنانے والا - میکر -

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

صَاوِرِي (مغرب) برآمدہ

سپہ سالار۔

صہبئی۔ (مولد) خدمت گار۔

صحافتہ۔ جرنلزم۔ روزنامہ نویس۔

اخبار میں لکھنا۔ اخبار نویس۔ ایڈیٹر

صحافی۔ (مولد) آڈیٹر۔ اخبار نویس۔

(صحافیوں) جمع

صحیفہ۔ (مولد) پرچہ اخبار یا رسالہ کتاب

صحف جمع۔ اخبار (صحائف) جمع۔

صحیفہ شمشیہ۔ سرکاری اخبار۔ گورنمنٹ

گرت۔

صحن۔ بڑا طبق۔ رکابی۔ پلیٹ۔

صحنا۔ (معرب ارامی) پچھلی کاسالن۔

ماہیانہ۔

صدارة۔ (مولد) دفتر وزارت۔

عمدہ وزارت۔

صدر الاعظم۔ (مولد) وزیر اعظم۔

پرائم منسٹر۔

صدر الصدور۔ وزیر اعظم۔

صدر المجلس۔ میر مجلس۔ صدر نشین۔

صدرة۔ (مولد) ویسٹ کوٹ۔

صدر المدین اموز البحر۔ فرسٹ لورڈ

آیت او میسر لٹی۔ میر بحر۔

صدور۔ (مولد) کسی اخبار یا رسالہ کی جاری

ہونا۔ نکلنا۔

صدریۃ۔ (مولد) ویسٹ کوٹ۔

صرراط۔ (معرب لاطینی شتراتہ) ماہ کوچہ

صراف۔ (مولد) (۱) پیسل (۲) پٹواری

صرافۃ۔ لین دین۔ ساہوکارا۔ تبادلہ

صرافۃ بہ قیمتہ اشمیہ۔ ہنداون برابر برابر

صرافۃ فرقیع۔ چڑھتی ہنداون۔

صرافۃ منقص۔ کھٹی ہوئی ہنداون

صرب۔ (معرب سرویا) یورپ کا ایک ملک

صرتی۔ (معرب) اکادانی

صرد۔ (معرب فارسی سرد) ہند گرم ٹھنڈا

صرم۔ (معرب فارسی چرم) چمڑا۔ دیسی چرتی

صرمائی۔ (معرب) پاپوش ساز

صرمایاتی۔

صرمایہ۔

صرم۔ (معرب فارسی چرم) پاپوش

صرما۔

صرمایہ۔ (معرب فارسی صرمایہ) ایک بابا

جو منہ سے بجایا جاتا ہے۔

صَقْلًاوَمِی - (مغرب) عمدہ اور عالی نسل
گھوڑا۔

صَقْلَب - دیکھو (سقلب)

صِقْلَبِیَّة - (مغرب سسلی) بحیرہ روم میں
ایک جزیرہ کا نام۔

صَنَک - (مغرب فارسی چک) اصل۔
دستاویز۔ مسند۔ (صُکوک) جمع۔

صَنَک - پرامیسری نوٹ۔

صَنَک - بل فرد حساب۔ ہندی۔

صَنَکَاک - بیمہ جان کے متعلق ایک عہدہ دار۔

صَنَکُ الطَّلَاق - طلاق نامہ

صَنَکُ الِکْفَالِہ - ضمانت نامہ

صَنَکُ الوِکَاالَہ - مختار نامہ۔

صَنَکُ شِئْخَہ - کھانوں کی فہرست

صَنَکُو - دیکھو (صاکو)۔

صِلَہُ القَرَابَہ - رشتہ داری۔

صِلَاحُ فَاخِش - شرمناک صلح۔

صِلَاحُ خَز -

صِلَصال - چکنی مٹی۔

صِلَوات - (مغرب) یہودیوں کا

کنیہ۔ معبد۔

صِرِّ نَقْدِیہ - روکڑ (روپیہ۔ پیسہ)۔

صِرِّ نِیْمَہ - دیکھو (صرم)۔ چمڑا۔ تسمہ۔ دوا۔

صِرِّعَتَہ - (مغرب سترتیہ) پودینہ حصہ

صِرِّعید مضر - (مولد) ایک مصر کا بالائی

صَف - (مولد) جماعت۔

صَف - کسی درس گاہ کا کلاس۔ درجہ۔

مناسبت (صفوف) جمع۔

صَفَر - یرقان۔ کنول کا مرض

صَفَر - (مغرب یونانی) سیسٹفریا (خالی

صَفَر الوَا بُوَر - (مولد) ابنجن کا بولنا۔

سیٹی دینا۔

صِفْوۃُ الْأَخْبَار - چیدہ اخبار۔

صِفِیْحَہ - پلیٹ معدنی۔ زنک پلیٹ۔

پتھر۔ تختی۔ (صفاح) جمع۔

صِفِیر - (مولد) سیٹی۔

صِقَال - پولش۔ صیقل گر۔ گھوٹا۔

صِقَالہ - (مغرب) جہاز پر سے اترنے کا

زینہ۔ مچان۔ پاڑھ۔

صِقْر - (مغرب لاطینی سکر) شہد خزا

دیکھو (زیب)

صِقْر - (مغرب فارسی چرخ) ایک شکاری پتہ

صَلْوَر - (مغرب فارسی بواسطہ گلذانی)

مارماہی دریا۔

صَلْبِیْب - (مغرب فارسی چلیپا)

صَمَج - (مغرب رومی) دراصل جمع صمجه)

تَنْدِیل -

صَمَجَه - (مغرب لاطینی سیبا کیوس)۔

بواسطہ گلذانی - تَنْدِیل -

صَنَاب - (مغرب یونانی سنپ) ایک

سالن جو رانی اور زیب سے تیار

ہوتا ہے۔

صِنَار - (بہ تخفیف نیز) مغرب چند اقلاب

ماہی گیر۔

صِنَارَة - (مغرب ارامی) قلابہ۔

صِنَاعَتہ - پیشہ۔ فن۔

صِنَاعِی - حرفی۔ صنعتی

صَنَج - (مغرب فارسی چنگ بواسطہ گلذانی)

ایک باج ہے۔ جس کو چک۔ جلاب۔

صَنَجِی - (مغرب ترکی سنجان) بیزق۔

قلم۔ ضلع۔

صَنَجِہ - (مغرب فارسی سنگ) پتھر کا وزن۔

صَنْدَل - (مغرب اندلسی نوزخانی) ایک

قسم کا ریشم۔

صَنْدَل - (مغرب فارسی سندل) پاپوشن

صَنْدَل - (مغرب فارسی چندل و سنکرت

چندل) ایک قسم کی خوشبودار لکڑی

جو مشہور ہے۔

صَنْدَل - (مغرب فارسی سندل) کشتی۔

صَنْدَلَانِی - (مغرب) دوا فروش۔

صَنْدُوق - (مولد) ٹرنک۔ بکس۔

(صنادیق) جمع

صَنْدُوقِ الْبُوسَطَة - (مولد) ایئر بکس

صندوق خطوط۔

صَنْدُوقِ الْتَحَطَّابَات - صندوق خط

صَنْدُوقِ الدِّین - (مولد) قرض فنڈ۔

صَنْدُوقِ الْمَحَل - دفتر کا نقدی صندوق۔

صَنْدُوقِ مَرَّاسَلَات - ایئر باکس۔

صندوق خط اندازی۔

صَنْقَرَه - وکیمو (سنقرہ)

صَنْم - (مغرب فارسی شمن یعنی بت پرست)

صَنْوَبْرَا - (مغرب) ناز۔ چلنوزہ

صَوْنَج - (مغرب فارسی چوبہ) بیلن۔

صَوْت - (مولد) دوٹ۔ باب (ٹوٹ) جمع

صُوْدَا - (مغرب انگریزی سوڈا)

صُوْرَة - (مولد) نقل - تصویر -

صُوْرَة اَصْلِيَّة - اصل نقل -

صُوْرَة اَنْحِيَّة - خلاصہ شہادت متعلق استحقاق

صُوْرَة الْحَكْم - انتخاب فیصلہ -

صُوْرَة اَمْرِيَّة - فعل کی وہ صورت جس میں

حکم درخواست یا نصیحت پائی جائے

صُوْرَة ثَانِيَّة - ڈوپلیکیٹ - مثنیٰ -

صُوْرَة نَقْفِ اَعْلٰی - کمر سے نصف اوپر

کے دھڑکی تصویر -

صُوْرَة بَنْرَلِيَّة - بچو کی تصویر

صُوْف - (مغرب لاطینی گوسی پی ام الا)

کچی روٹی (۲) پشتم اون

صُوْفَة - (مغرب سریانی) نبات بحری -

خس دریا -

صُوْفِي - بقول بعض مغرب یونانی سوفوس

بمعنی حکیم - فلسفی - مگر اصل میں یہ موت

بمعنی پشتم سے مشتق ہے کیونکہ زاہدون

اور عابدوں کا لباس اون ہوتا ہے

صُوْفِيْرَة - (مولد) سیٹی یا نسری -

صُوْفِيَّة - (مغرب جرمن) شہر صوفیا بلغیریا

کا پائے تخت -

صُوْل - (مغرب ترکی) - (۱) جانب چپ

(۲) فوج میسرہ کا سردار -

صُوْلجَان - (مغرب فارسی چوگان) - (۱)

بیٹ - بلا - ڈنڈا - (۲) نشان

شاہی - جمع صُوْلجَان

صُوْلَق - دیکھو (جولق) -

صہر سرج - دیکھو (صاروج) بڑا تالاب -

حوض بچتہ - (صہار سرج) جمع

صَيْدَلَانِي - (مشتق از صندل بمعنی چوب نشوب)

دوا فروش - عطار - (صیاد لہ) جمع

صَيْدَلَة - (مغرب) دوا فروش - دوا سازی

صَيْدَلِي - دوا فروش - دوا ساز - عطار -

صَيْدَلِيَّة - دوا سازی کی دکان - دوا

فروشی کی دکان - ڈسپنسری -

صَيْر - (مغرب قبلی) - (۱) یہودیوں کا

(۲) مچھلی کا سالن - سالن -

صَيْرَفَة - بل آف آکس پیچ - تباد لہ زرخ

صَيْرَنِي - ساہوکار - بینکر -

صَيْنَس - دیکھو (مشیص) -

صَيْنَسَا - (مغرب فارسی) خرما جو خشہ ہوں -

صیصیہ - ہک، کانٹا -

صیف - (سرب لاطینی ایستوس)

موسم گرما -

صیق - (سرب کلدانی) گرد آلود ہوا -

صیققل - (سرب کلدانی) تیز کفندہ شمشیر -

سان -

صین - (سرب چین) لاک چین -

صینیہ - لاک چین کے برتن فروخت چینی -

صیوان - (سرب فارسی سایہ باد) بڑا ڈیرا -

باب الصاد

صابط - کانسٹبل - چراسی - فوجی افسر -

پولیس کا افسر (صباط) جمع

صابط ارکان الحرب - اساتذہ فیرہ -

صابط البحریہ - بحری افسر -

صابط العسکر - فوجی افسر -

صابط المعاشات - بخشی - فوطہ دار -

تنخواہ تقسیم کرنے والا -

صابطہ - (مولد) بریک -

صابطہ - (مولد) قاعدہ - قانون -

صواب جمع -

صابطی - پولس مین - جمع صابطیہ

صبارۃ - کتابوں کا پارسل -

صنطہ - (مولد) - (۱) درستی - تحقیق -

مخاطبت (۲) قرق کر لینا - (۳)

اعراب لگانا مثلاً کتاب صنبوط

صنبوطیہ - پولیس - کوتوالی -

صنبوطیہ شیمالہ - سوارہ پولیس -

صنیات - (سرب ترکی طیانقلو) مضبوط

اور پانڈا رکپڑا -

صنحاک - (سرب فارسی) آک (نومی)

دس عیب چونکہ یہ بادشاہ دس عیب

(۱) بدشکلی (۲) پست قدم (۳)

بہت عذوب (۴) بے شرمی (۵)

پر بخوری (۶) بدزبانی (۷) ظلم

(۸) کتاب زدگی (۹) جھوٹ کہنا

(۱۰) بدولی (۱۱) رکھتا تھا اس لیے اس

اس نام سے موسوم ہوا

صنرب - (۱) دغما - چلتا مثلاً صرتہ الد

(۲) بچنا - مثلاً صنربت البحرس

(۳) مائل ہونا - لیے ہوئے ہونا

مثلاً صنارب الی السواد -

کھانے سے بہتر سے ڈکھنے لگیں۔ مجازاً
 سوزی۔ کاذب (بربری محاورہ)
 ضیاع التذکرہ۔ ٹکٹ کا گم ہو جانا۔
 ضیاقہ لیلیۃ۔ یونٹگ پارٹی۔ شب کی
 دعوت۔

باب الطاء

طایع سلطانی۔ سلطنت کی مہر
 طایعہ۔ (مولد) ٹاپ رائٹر
 طابقی۔ (معرب فارسی تاہ) تو ایسا مکان
 کی منزل۔
 طاہو۔ (معرب ترکی طاہو) ٹیکس۔ خراج
 مساحت۔ پیمائش۔ دستاویز۔
 طاہور۔ (معرب ترکی) فوج۔ رحمت۔
 (طوار بیر) جمع
 طاہور۔ ہزار سواروں کی پلٹن۔
 طایہ۔ (معرب ترکی طوب یا طوب) (۱) گیند۔ (۲) لٹہ۔ گروگیاں۔
 (۳) غبارہ۔ منطاد۔
 طاہیہ۔ (معرب ترکی) قلعہ۔ گڑھ
 طاہن۔ (دیکھو) طہن)۔

ضربات بوری۔ بگل کی آواز۔
 ضرب التثوق۔ سکہ کی بنوائی یا سکو کی۔
 ضرب خانہ۔ نکسال دار الضرب
 ضربۃ الباب۔ (مولد) کوارٹر کا پٹ
 ضربیہ۔ محصول ٹیکس (ضربا تب) جمع
 ضربیۃ الشخص۔ پال ٹیکس۔ جزیہ
 محصول فی کس یا فی راس۔
 ضربیہ ایراد۔ انکم ٹیکس۔ محصول آمدنی
 ضعف تاہینات۔ دھڑت (امات)
 کی کمی۔
 ضمان۔ (مولد) بیمہ
 ضمان الذرک۔ وارنٹ۔ اشیاء کی
 گرفتاری۔
 ضمانتہ۔ (مولد) گیارنٹی۔
 ضمہ الجرح۔ زخم پرچی باز دھنا۔
 ضمہ۔ (مولد) رتجگا۔
 ضمہ الوفا۔ کفالت کی ادائیگی۔
 ضمیر۔ (مولد) کانشنس۔ اخلاقی قوت۔
 ضمیر اشاری۔ سوہ ضمیر جو اشارہ کرنے
 کی جگہ استعمال کی جائے۔
 ضمیرین۔ منہ توڑ آم۔ ایسا آم جس کے

طَا حُون - آسیا - چکی۔

طَا حُونُ الْبُخَارِ - (مولد) ابن جن کے ذریعے

چلنے والی چکی

طَا حُونُ الرِّبَاجِ - پون چکی

طَا حُونُ الْمَاءِ - پون چکی۔

طَا حُونُ الْهَوَا - (پون چکی) ہوا سے

چلنے والی چکی۔

طَار - (مغرب) دف۔

طَارَةٌ - (مولد) لوہے کا پٹا جو پھیٹے پر چڑھا

ہوتا ہے۔

طَائِرَةٌ - (مغرب ایتالیائی مارگا) سپر۔

دُھال

طَائِرْمَتَةٌ - (مغرب فارسی طارم یا تارم)

لکڑی کا مکان - جہاز کا بالائی کمرہ

طَائِرْتَجْمَةٌ - (مغرب فارسی تانہ) - جدید۔

طَائِرَةٌ - اِنُو - نیا

طَائِرِيٌّ - (مغرب یونانی ستر درخما یا فارسی

تاتاری) ایک نقرہ سکہ ہند کا جو ایک

درہم کے مساوی ہے۔

طَائِقٌ - (مغرب فارسی تاک) محراب۔

طَائِقٌ - سوٹ - سٹ - لڑی

طَائِقَةٌ - (مولد) - (۱) گلہ ستہ - (۲) تھان

طَائِقَةُ ثِيَابٍ - کپڑے کا تھان۔

طَائِقَةُ رِيحَانٍ - (مولد) پھولوں کا گلہ ستہ۔

طَائِقِيَّةٌ - عامہ کے نیچے کی سوتی ٹوپی۔

طَالِبٌ - سائل - عرضی گزار۔

طَالِبُ الْحَجَرِ - گرفتار کرنے والا - حراست

میں لینے والا۔

طَالُونَةٌ - (مغرب لاطینی تالونہ) جوتے

کی ایڑی۔

طَاوِلَةٌ - (مغرب ایتالیائی تاوولا) میز نرو

کھانے کی میز۔

طَاوُوسٌ - (مغرب یونانی تاؤوس) بواسطہ

فارسی تاؤوس فیسا) مور۔ ایک

خوش شکل جانور۔

طَبَّاشِيرٌ - کھرباسٹی۔

طَبَّانٌ - (مغرب فارسی تابان) ردی فولاد

خراب کھیری۔

طَبَّانَجَةٌ - تپنجہ۔

طَبَّاعَةٌ - فن طبع - چھپائی۔

طَبَّاعَةُ عَلِيِّ الْحَجَرِ - پتھر پر چھاپنا۔

طَبَّاعَةُ بِالْحُرُوفِ - ٹاپ سے چھاپنا۔

طباہجۃ - ایک قسم کا فارسی کھانا۔

طیبسی - طشت - سینی۔

طبّیّہ - اڈیشن۔

طبقات الثّاس - لوگوں کے درجے۔

طبقات صّحور - زمین کے طبقے۔ چٹانوں

کی تہیں۔

طبّقہ - مکان کی منزل۔

طبل - (معرب لاطینی تابلہ) (۱۱) دسترخوان۔

طبلہ - (۲) ٹیبل - میز - (۳) -

حلقہ مدور۔

طبوغرافیۃ - (معرب ٹاپوگرافی) علم

تخطیط الارض۔

طبیب الأسنان - ڈنٹسٹ - دندانساز۔

سعالج وندان۔

طحینہ - شیشم کے تیل کا پھٹ۔

طرابزون - (معرب یونانی ترہذیان)

(۱) کھٹرا (۲) جنگلا (۳) بری میز

بڑا اور لمبا دسترخوان

طرابزہ - (معرب یونانی تراپیدزا)۔

مانڈہ - میز۔

طراحتہ - (مولد) مربع توشک - گدا۔

جمع طرایح۔

طراد - (مولد) چھوٹا جنگی جہاز۔

طراوہ -

طراذہ - کواڑ - سنگی۔

طراز - (معرب فارسی تراش) (۱) نقش۔

آرائش - نگار - (۲) زر دوزی۔

چکن - (۳) قسم - طرز - طریقہ۔

طراش - (معرب فارسی تراش) وہ شخص

جو حوض کوئچ اور چونہ لگا کر معنوط

کرتے۔

طراق - (معرب ترکی ایلچی)۔

طراق - (دیکھو) درماق -

دریاق -

طراحتہ - (معرب یونانی) مردم بزرگ۔

طرابوش - (معرب فارسی سرپوش

اور قبول بعض معرب ترکی ترپوش

(تر - خوسے - غرق - پوش کلمہ فارسی)

ترکی ٹوپی - کلاہ پشیمیں -

طرہیزہ - (معرب یونانی) میز

طرہیل - (معرب لاطینی ترہلم) (۱) آہن کو

(۲) سیزاون زراعت کرنے کا آلہ۔

ظفیرہ - نغمہ عرفان - گانے والوں کی جماعت

امتہ - پشتوایان مذہب -

طقس - سوکھی زمین کی گرمی اور رطوبت

- سے مراد ہے -

طقیہ - (دیکھو طاقم)

طقس منغیمہ - ابر و باد کے دن -

طقس مکدر - کچھ پانی کے دن

طلآء - ملمع ساز -

طلآء - دانش - ملمع

طلآء وہ - خوش آوازی - ملائم تلفظ

طلب - درخواست - فرمائش - دعویٰ -

طلب الاستعاذہ - مطالبہ علی

سبیل البدل -

طلب الترفع - مطالبہ کی ادائیگی -

طحیہ - تختہ کاغذ -

طکری - چار شنگ کا ایک سکہ -

طلقہ - بندوق یا توپ کا فیر -

طلبجی -

طلسمیہ -

طلوسیا -

طلونبیہ -

آگ بھجانے کا انجن

(۳) مورج - زمین ہوا کرنے کا آلہ -

طرحتہ - (معرب ترکی) برقع -

طرحیہ - تختہ کاغذ - جمع طراحی

طرحان - افسر - رئیس - شہزادہ - جمع طراخی

طرد - نکالاجانا - نکالنا - پیکٹ - بندل -

بندھا ہوا اسباب -

طر دو بوستہ - پارسل پوسٹ -

طرز - دیکھو (طراز) -

طرشون - صافی - برتن صاف کرنے کا کپڑا -

طرشہ - ترشی کا معرب - اچار

طرف متحارب - جنگ اور جماعت -

طرف متعاہد - قول و قرار کرنے والی جماعت

کنز الکنگ پائی -

طرف متعلق - اہل معاملہ - اہل غرض

طرنبہ - آگ بھجانے کا انجن - پیپ

طرد - گٹھڑی وغیرہ باندھنا - باندھنے

کی اجرت -

طرہ - پھندا - جمع طرز

طغان - ہجو کرنے والا - مذمت کرنے والا -

طعن - لائل - توہین تحریری -

طغرا - شاہی دستخط -

(طاہر فردوس) بھی کہتے ہیں۔

مطوبھی - گولہ انداز۔

مطوغرمی - سیدھا - صحیح - مستقیم

مطوکیو - ٹوکیو

مطورداچنہ - گھریلو پرندے

مطیوری - چڑیا فروش۔

مطولاطہ -

مطونولاطہ -

مطیہ - منساک - موقوف - مع ہذا اس کیساتھ

مطیہ - پاؤں میں باندھنے کی ڈوری۔

بَابُ الطَّاءِ

ظران - چھتاں

ظرف - لفافہ - کیس - خانہ - برتن

ظرف الساعۃ - گھڑی کا کیس

ظرف الشہر - ایک ماہ کی مدت۔

ظرف القہوہ - کافی پینے کی پیالی۔

ظرف الیومین - مدت دو روز۔

ظروف مشدوۃ القہوۃ - مشدود

کرنے والے اسباب۔

ظلم و تعدی - وضع کرنا کسی چیز کا غیر مرغوب

طلوناطہ - ٹن - (۲۸) من کا وزن

طلیان - اٹلی کے باشندے۔

طلیانیہ - اٹالین - اٹلی کی زبان

طلیاتی -

طبار - برش - کھریا۔

طباطحہ - ولایتی بیگن۔

طشان یا طشانہ - دید بے والا - غلتلہ

ڈالنے والا۔

طشطنۃ الأجراس - گھنٹوں کی گڑگڑاہٹ

طنبور - ایک زراعتی آلہ

طنطور - مخروطی شکل کی زنانہ ٹوپی۔

طوب - توپ - جمع اطواب

طوب بچیہ - توپ خانہ - ارٹلری۔

طوقی صحیحی - سنتریوں کا حلقہ

طاولہ - لکھنے یا پڑھنے کی ڈھلوان میز

طوسۃ - دریائے وانوب

طویل البصر - لانگ سائڈ - وہ شخص

جسکو دور سے اچھی طرح دکھائی دیتا۔

طیب الزمانہ - خوشبودار - معطر۔

طیر داچنہ - ایک قسم کا پرند جس کو

عالم معارون - دہاتوں کو جانے پہنچانے والا۔

عالمہ - مغنیہ - رقاصہ - جمع عوالم
عامود - کالم - خانہ - ستون -

عائدہ - محصول جمع عوائد -

عائکہ - خاندان گھرانہ - فیملی - جمع عائلات

عائتہ - اتحاد - اتفاق

عاہتہ - سقم عقلی یا جسمانی - آزار - بیماری

عابت - صدری کی جیب -

عبادۃ الاوثان - بت پرستی

عبادۃ الجنہ پور - عوام کی پرستش

عبادۃ الجنوات - جانور پرستی -

عثال - قلی - مزدور - بے کار - جمع عثالہ -

عثالۃ - بے گاری - مزدوری -

عثمانی - ترکی رعایا - ترک -

عثمانلی - ترکی سوار

عجز - کمی - گھٹانا - کسر - نقص

عجل البحر - سیل دریائی بچھڑا

عجلہ - گاڑی - پھیلا - جمع عجال - عجال

عجلہ رفاق - بلیں ویل -

عجلہ محریک - چلانے والا پھیلا

ظلمتہ - ستم - ظلم

ظلمۃ الحیوۃ - عمر بھر - ظہارۃ - زمین پوش

ظہر الجبل - پہاڑ کی چوٹی

ظہریہ - دوپہر

ظہیرہ - دوپہر - دن کے ۱۰ بجے سے (۱۲) بجے

ظہین - سوکھا آم جس میں مطلق رس نہ ہو -

دہ آم جسکا چھلکا گھٹلی سے علیحدہ

نہ ہو سکے -

باب العین

عادۃ - آیام ناہواری (حیض)

عادی - جمع عادیات قدیم یادگاری چیزیں

عادی - معمولی - مقررہ

عاریۃ الاستہلاک - کسی شے کا ادھار

دینا اس شرط سے کہ لینے والا اسی

قسم کی چیز واپس دے گا -

عازب - کنوارا - مجرد

عازف - گانے بجانے والا -

عاشور یا عشورہ - نوروز - آغاز سنہ

عاصمہ - دار الحکومت (عوالم) جمع -

عاطفہ - جذبہ - میلان - جمع عواطف -

عجلمہ مستنہ - دندانہ دار پھیلا -

عدالت قاسمہ - ڈسٹرپوٹو جسٹس -

ہر شخص کو حصہ متناسب دینا یا سزا یا
تاوان عائد کرنا -

عدۃ الحرب - لڑائی کی پوشاک اور اسلحہ -

عدۃ الطبخ - پکانے کا سامان -

عدو - اخبار کا نمبر

عدلیہ - محکمہ عدالت

عدلیہ - بنڈل - بیگ

عدو مفرو - طاق عدو

عدسیہ - محدب شیشہ

عدسیہ مکبرہ - کلاں ہیں - خوردبین

عدم الثقیہ - بے اعتباری

عدم الحضور - پیروی نہ کرنا -

عدم الدفع - نہ ادا کرنا -

عدم التوافق - تمیل نہ کرنا -

عدم توافق - بعض جانداروں کے ماحول

میں ایسے اسباب موجود ہیں جو ہلاکت

کرتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں اس فعل

کو عدم توافق کہتے ہیں -

عدم شرف - ہنڈی کاروپہ نہ دینا -

ہنڈی نہ سکارنا -

عدومی - نہاسٹ - انارکٹ - جمع عدومیون

عذرا - بیوی مریم سے مراد ہے -

عزائب - گاڈ فادر - مقدس باپ

عزابہ - گاڈ مدر - مقدس مان

عزاد - ایک قلعہ شکن آلہ -

عدوری - جہازی یلاح -

عدم الاستقامت - وہ شخص جس کا کوئی اصول

عزائمین سیاستیہ - ملکی وقتیں - پولیٹیکل

مشکلات -

عزائمہ فادحہ - ہولناک آگ -

عزائمیت - سنگ بلور - ایک قسم کا سخت پتھر -

عربیہ -

عربیہ - گاڑی پیل کا ڈبہ

عربانہ -

عربۃ الاکل - کھانے کی گاڑی -

عربۃ الثوم - سونے کی گاڑی -

عربجی - گاڑی بان - کوچوان -

عربون - نفع - بچت

عربہ سینسہ - ریل کی آخری گاڑی -

عربہ عفش - سفری آبناب کی گاڑی -

عَرْض - پیش کرنا۔

عَرْضُ الْجُنْد - پریٹ فوجی قواعد۔

عَرْضُ الْجُنْد - فوج کا ملاحظہ۔

عَرْضُ بِلَد - خط استوا سے شمالاً یا جنوباً فاصلہ۔

عَرْضُ حَقِيقَتِي - اصلی قیمت یا درخواست۔

عَرْضِي - اتفاقی (مضارادی)۔

عُرْفُ الْبِلَد - مقامی رواج۔

عُرْفُ تِجَارِي - تجارتی رسوم یا عادات۔

عُرْفِيه - کہاوت۔ ضرب المثل۔

عُرُوس - نادل یا قصے کی بیرون جسب۔

عُرَاس -

عُرُوقُ الشَّمَم - سونگھنے والی رگیں۔

عُرُوقُ شَامَه -

عُرُوه - کاج۔ گھنڈی کا سوراخ۔

عُرَيْش - ردی چیز۔ اگر کم بگرام۔

عُرَيْضَه - عرضی۔ گزارش نامہ۔

عُرَيْضَةُ الشُّكُومِي - ناشن نامہ۔

عُرَيْف - خلیفہ (عرفاء) جمع۔

عُرْبَه - گاؤں۔ کھیرا۔

عُرَّةُ النَّفْس - خودداری۔ سلف سیکٹ۔

عُرْتَلُو - معزز۔ محترم۔

عُرْقَلَه - صفائی و خوش نمائی لباس۔ ۲۔

عُرْمِيْمَه - کھانے کی دعوت۔ بلاوا۔ ۴۔

عُرْف - گانا۔ بجاانا۔ ۱۔

عُرْلُ مَوْت - ہنگامی سغلی۔ ۳۔

عَسَاكِرُ الْمُخْتَارِ دِق - سفر و بیجا فوج۔

عَسَاكِرُ الْمُخَاَصِرَه - محاصرہ کرنے والی

فوجیں۔

عَسَاكِرُ اِنْدَادِيَه - وہ فوجیں جو بعد میں

مدد کے لئے روانہ کی جاتی ہیں۔

عَسَاكِرُ ضَبْطِيَه - پولیس کی فوج۔

عَسَاكِرُ مَشَاةٍ خَاصَه - وہ پیدل فوج جو

بادشاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ فٹ گارڈ۔

عَسَاكِرُ مَشَاةٍ مُنْتَحَبَه - شیش کے گولے

پھینکنے والی فوج۔

عَسَاكِرُ نِظَامِيَه - باقاعدہ افواج۔ ریگولر

ٹروپس۔

عَسَاكِرُ نِجَالِ الزَّهْر - پھولوں کا سوت

عَشْر - منصف سہدہ۔ بدبھنی۔

عَشْكِرَةُ الرَّوَيْف - محفوظ فوج

عَشْكِرَةُ مَرْتَب - منتقل یا دوامی فوج

عَشْكِرَتِي - منسپاہی۔

عَضُو حَكْمَةٍ رَحْمَتِي - اہل جوری - شریک بیچ -

عَضُو سَوِيَّةٍ - رکنیت - مہر شیب -

عَدَاوَةٌ - بنیہ کا پیشہ

عَطَّار - بنیا -

عُظْل - نقصان - تاوان

عَطُورَات - عطریات -

عَطْوَس - ناس -

عَطَّارَاتُ الْقَوْمِ - قوم کے اعیان و اکابر -

عَقَارَم - آفرین - شتابش -

عَقَش - اسباب - لگیج - روئی چیز

عَقَش - اسباب سفری -

عَقَابِيل - داد - کھاج

عَقَاء - جائداد غیر منقولہ

عَقَار - اراضی -

عَقَارَات - ملوقات زمین -

عَقَارَات - عارات - مکانات

عَقَارِبُ الشِّتَاءِ - موسم مہرما کی سختیاں

عِقَال - ریشمی ڈوری -

عُقُبُ الْمَوْتِ - وفات کے بعد

عَقْدُ الْأَيْحَارِ - سناہنہ اجرت -

عَقْدُ التَّارِيخِ - انٹورس کنٹراکٹ

عَسْكَرِيَّةٌ - فوجی قوت یا طاقت

عَسَاءٌ مَسْرِيٌّ - مسیحوں کا ایک مذہبی کھانا -

عَشَّةٌ - جمہور پٹری

عَشْتِيٌّ - بادرجی

عَشْتِيٌّ - بادرجی

عَشُورٌ - لٹنار

عَشَارٌ - محصول وصول کرنے والا -

عَصَابَةٌ - مجمع - گروہ -

عَصَبِيَّةٌ - طرف داری - جانب داری - بیچ -

عَصَبِيَّةٌ - پارٹی اسپرٹ -

عَصَبِيَّةُ الْأَقْلَامِ - دفتری پابندی یا لحاظ -

عَضْرُ جَلِيدِيٍّ - وہ زمانہ جس میں پہاڑ کی

اوپرچی اوپچی چوٹیاں برف سے مستور

تھیں - گلشیل ہیرڈ -

عَضْرِيٌّ - موجودہ - حاضری

عَضْرُ وَنَةٍ - وقت عصر کا کھانا -

عَضْوٌ - رکن - ممبر (اعضا) جمع

عَضْوٌ - رکن - ممبر - جمع اعضا

عَضْوٌ مَجْلِسٌ - ممبر کونسل -

عَضْوٌ مَجْلِسِ الشُّورَى - ممبر آف پارلیمنٹ

عَضْوٌ مُشْتَرِكٌ - جوائنٹ ممبر -

عَقْدُ الرَّهْنِ - رہن نامہ -
 عَقْدُ بَيْعٍ - بیع نامہ -
 عَقْدُ تِجَارِيٍّ - تجارتی کتبہ یا تہدہ -
 عَقْدُ رَهْنِيَّةٍ - رہن نامہ -
 عَقْدُ شَرِكَةٍ - قرارداد حصّہ داری
 عَقْدُ شَفْعِيٍّ - زبانی عہد و پیمانہ -
 عَقْرَبٌ - گھڑی کا کاسٹا -
 عَقْرَبُ السَّاعَةِ - گھڑی کی سوئی -
 عُقُودُ الْوَدِيعَةِ - تحویل مانتی
 عَقِيْلَةٌ - لیڈی - شریف زادی -
 عِلَّةُ الْاِحْتِلَالِ - سب سے پہلا واقعہ جس کے
 بعد سب واقعات ظہور میں آئے ہوں -
 عِلْمُ اَشْرَافِ الْبِلَادِ - کسی خاص خطے کے
 فن پر ایشم البیلا و افضتے بنانے کا علم -
 عِلْمُ اَشْرَافِ قَدِيْمِيَةٍ - قدیم یادگار چیزوں یعنی
 کتبوں وغیرہ کا علم -
 عِلْمُ اَحْوَالِ الْقَلْبِ - کارڈی اولوجی
 دل کا حال -
 عِلْمُ اَصُوْلِ حَيَاةِ حَيَوَانِيَّةٍ - زودانوی
 جانوروں کی زندگی کے قوانین کا علم -
 عِلْمُ اَصُوْلِ قَوَانِيْنِ وَحَقُوْقِ جُوْرِسْ پَرُوْدِسْ
 عِلْمُ الْاَدَبِ - لٹریچر - علم زبان -
 عِلْمُ الْاَدْوِيَّةِ - قرا بادین - ٹیسٹیا میڈیکل -
 عِلْمُ الْاَسَاْرِيْرِ - ساد رک و دیا - کف بینی -
 پالمسٹری -
 عِلْمُ الْاَسَاْطِيْرِ - ساد رک - دست شنائی
 عِلْمُ الْاِقْتِصَادِ - پولیٹیکل اکاؤنٹی -
 عِلْمُ الْاِنْسَانِ - انسان اور اُس کی اصناف
 اور اُس کے خصائص کا علم -
 عِلْمُ الْاَنْتِحَالِ - مرکبات کو اُن کے اجزائے
 ترکیبی میں علیحدہ علیحدہ کرنے کا علم -
 عِلْمُ الشَّرِيْحِ - جراحی - چیر بھڑا کا علم -
 عِلْمُ الْاَتِّكَلِمِ بِالْاِشْرَارِ - ہاتھوں اور انگلیوں
 کے اشارے سے گفتگو کرنے کا علم -
 عِلْمُ الْحَيَوَةِ - ہائی آولوجی - جیو بیڈیا -
 عِلْمُ الْاِحْقُوْقِ - علم قانون -
 عِلْمُ الْاِنْخَطِّ - خوشنویسی
 عِلْمُ الْاِنْخَطِّ - علم الزل - زلچہ دانی -
 عِلْمُ رَسْمِ الْاَرْضِ - جغرافیہ
 عِلْمُ الْاِسْتِثْنِيْنِ - عہدوں کا علم - علم اشار
 عِلْمُ الْاِسْتِثْنِيَا - ساد رک - کف بینی -
 دست شناسی - پالمسٹری -

عَقْدُ الرَّهْنِ - رہن نامہ -
 عَقْدُ بَيْعٍ - بیع نامہ -
 عَقْدُ تِجَارِيٍّ - تجارتی کتبہ یا تہدہ -
 عَقْدُ رَهْنِيَّةٍ - رہن نامہ -
 عَقْدُ شَرِكَةٍ - قرارداد حصّہ داری
 عَقْدُ شَفْعِيٍّ - زبانی عہد و پیمانہ -
 عَقْرَبٌ - گھڑی کا کاسٹا -
 عَقْرَبُ السَّاعَةِ - گھڑی کی سوئی -
 عُقُودُ الْوَدِيعَةِ - تحویل مانتی
 عَقِيْلَةٌ - لیڈی - شریف زادی -
 عِلَّةُ الْاِحْتِلَالِ - سب سے پہلا واقعہ جس کے
 بعد سب واقعات ظہور میں آئے ہوں -
 عِلْمُ اَشْرَافِ الْبِلَادِ - کسی خاص خطے کے
 فن پر ایشم البیلا و افضتے بنانے کا علم -
 عِلْمُ اَشْرَافِ قَدِيْمِيَةٍ - قدیم یادگار چیزوں یعنی
 کتبوں وغیرہ کا علم -
 عِلْمُ اَحْوَالِ الْقَلْبِ - کارڈی اولوجی
 دل کا حال -
 عِلْمُ اَصُوْلِ حَيَاةِ حَيَوَانِيَّةٍ - زودانوی
 جانوروں کی زندگی کے قوانین کا علم -
 عِلْمُ اَصُوْلِ قَوَانِيْنِ وَحَقُوْقِ جُوْرِسْ پَرُوْدِسْ

علم التصیّر کہ - علم دواسازی - کمونڈی
 علم الظیور - پرندوں کا علم - اورنیٹو
 پرندنامہ -

علم المعاون - علم معدنیات - دھاتوں کا علم
 علم بولیتیکہ - پولیٹیکل اکنومی - اقتصاد
 علم تجرید الوجود - ادنیٰ ٹولوجی -
 علم موجودات -

علم حوادث الجوّ - میٹھی ریالوجی -
 علم کائنات سماوی -

علم سمعیات - آواز کا علم - شنید بیدیا -
 علم اللہاہوت - علم الہیات
 علم وظائف اعضا - فزیالوجی -
 علمانی - دنیا دار شخص -

علوان - ہڈنگ - عنوان - پیشانی - پتا - ادرس
 علونہ - عنوان لکھنا - پتا لکھنا -

علی التّاقب - بظہر راست
 علیہ رسم - بیرنگ محصول دار

علیہ رسم - قابل ماخوومی - واجب الاخذ

عماد - { اطباغ - پتسمہ
 عمادہ -

عمارة - جہازوں کا بیرو -

عمدہ - گاؤں کا چودھری - معتبر نائب - این
 عماد القوم - کسی جماعت یا گروہ کا سرپرست -
 عمرانیہ - تہذیب و شایستگی -

عمل - اپریشن - چیر پھاڑ - جمع اعمال -

عمل اداری - انتظامی کام

عمل الجسور - پشتہ - بند - کٹا

عمل تجاری - کام - کاج - کاروبار

عمل جراحی - چیر پھاڑ - سرجیکل اپریشن

علمہ ناقصہ - برابریہ (رقم)

عموؤ - (انجلیا کتاب کا) کالم

عمولہ - دلالی - دستوری - کیشن - انجمن جماعت

عملیہ - اپریشن - چیر - پھاڑ

عمومی - { عام - پیلاک - خلقت یا رعایا کے
 عمومیہ -

عمیق - سمندر کا وہ حصہ جو کنارے سے دور ہو

عمیل - گماشتہ - نائب - کارپرداز -

ایجنٹ (علماء) جمع

عناصر البحریمہ - جرم کے اجزا -

عند اللزوم - صورت کے وقت -

عند عدم الوفاہ - عدم پیری میں -

غیر حاضر میں -

عَنْبَر - کارخانہ - انبارخانہ - جمع عنابر -

عَنْشَرِي { صدری - جاکٹ -
عَنْشَرِي -

عَنْصَرَه - عیدِ حسین - یہود کی ایک عید

عَنْق - دختِ کاتنہ

عَنْبِيَنَه - دیکھو عنوان

عَنْوَان - سرنامہ - پتا

عَنْوَانُ الشَّرِكَةِ - کمپنی کا نام

عَوَائِد - محصول

عَوَائِدُ تِجَارِيَّة - تجارتی دستاویزہ

عَوَائِدُ مَجْمُوعِيَّة - محصول کرہ گہری

عَوَائِدُ رَحِيْفَة - گھاٹِ عملی

عَوَائِدُ مَسَاوِل و مَبَوِّت - مکان کا محصول

ہوسٹیکس -

عِيَادَة - حکیم کا مطب -

عِيَار - بندوبست کے مال کا گھیرا گولی -

عَوْنِيَّة - چاقو - کارڈ -

عَوْنِيَّة - عینک - چشمہ -

عِي - بیار - علیس -

عِيَارَاتُ نَارِيَّة - آتشیں اسلحہ -

عِيَارَةُ الشَّجَر - عورتوں کی ٹوپی جس میں

مصنوعی چوٹی لگی ہوتی ہے -

عِيَاش - نان فروش -

عِيَارُ اللَّيْن - دودھ پہچاننے کا آلہ

عِيَارُ اللَّيْن -

عِيْدُ الْبِشَارَةِ - باج پہننے کی پچیسویں تاریخ

جس میں فرشتے نے نبی بی مریم کو حضرت

مسح کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تھی

عِيْدُ الشَّعَائِين - پام - ڈسے -

عِيْدُ الصَّعُود - ہولی ٹھوس ڈسے حضرت

حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کا دن

عِيْدُ الْعِزَّاز - سراج - (مسحی) -

عِيْدُ الْفِصْح - یہودیوں کا ایک تہوار

عِيْدُ الْفِطْرِ - یہود کی ایک عید

عِيْدُ الْغَطَّاس - جنوری میں مسیحیوں کی

ایک عید -

عِيْدُ الْمِيْلَاد - بڑے دنوں کا تہوار - بڑوں کا

عِيْدُ الْوِلَادَة - سال گرہ -

عِيْدُ جَمِيعِ الْقَدِيْسِيْن - انگریزی گیارہویں

واہ کی پہلی تاریخ جس میں بیسریا ولی کی

یادگار میں منیافت کرتے ہیں -

عِيْدُ رَسْمِي - قانونی تعطیل -

عیندیہ - عید کا تحفہ -

عینینہ - نمونہ - ۲ -

عینکہ - فیملی - خاندان - گھرانہ - ۲ -

بَابُ الْغَيْنِ

غالائی - قفل ساز -

غالی - گراں - مہنگا -

غادرہ - وہ بدنی آلہ جس سے جسم کا رقیق مادہ خارج ہوتا ہے -

غراف - پانی کا پھینکا - چرخ آب - پن چکی -

غرامتہ - جرمانہ - تاوان - شے منضبطہ -

غرب - یورپ و افریقہ سے مراد ہے -

غرفۃ التجارہ - چمبر آد کامرس -

غرفۃ المجلسہ - نشست کا کمرہ -

غرفۃ الدلائل - نیلام گھر - آکشن روم -

غوثہ - اخبار - گوٹ -

غش - آمینرش - بلوئی -

غصبت - استحصال بالجبر -

غصیر - گاڑہ - سنتری - محافظ -

غلاف القلم - قلم کا خانہ -

غلط کاتب - سہو قلم - نشی کی غلطی -

غلینہ - صاف اور چکنا پانی -

عندق - بندوق -

عنداق - بندوق -

عنفرتینا - جسم کے کسی حصہ کا مردہ پڑ جانا -

عربی المعانی - وہ طرز عبارت جس میں

معانی کی کثرت اور فراوانی ہو -

عواس - شاگرد پیشہ -

غیرۃ الاممہ - قومی اسپرٹ (روح)

غیر نامون - ناداریا دیوالیہ دیون -

غیر مذکورع - باقی جو ہنوز واجب لادا ہو -

غیر متہلکہ - ناقابل فروخت - ناقابل

تبدل -

غیر مشغول - بے بنا ہوا - خام -

غیر قابل التصرف - ناقابل انتقال -

غیر قانونی - خلاف آئین -

بَابُ الْفَاءِ

فابریقہ - کارخانہ - کوٹھی - تجارت گاہ -

فانورہ - بیجک - چالان - فرد حساب

فل - ان دوائس -

رفحازة - مٹی کے برتن بنانے کا فن۔

کوزہ گری -

فخرانی - کوزہ فروشش - مٹی کے

برتن بچھنے والا۔

فدان - بارگڑ ۴۰ ۴۸ مربع گز زمین۔

ہل - طلبہ (فدا دین) جمع

فراز - وہ تختہ جس پر رقم گنی جاتی ہے۔

فرانک - فرانسیسی تقرنی سکے جو دس

کلدار کے مساوی ہے۔

فرد - پستول - جمع فرد۔

فرس سابق - شرط جینے والا گھوڑا۔

فرشہ - جھاڑنے کا برش - کوپچی۔

فرشہ شجر - بالوں کا برش۔

فربخ - ربائی - برطانی - موٹونی - جہاز

نکالنا یا اتارنا۔

فرعون - ویاگن۔

فرقوی - ملک چین کو کہتے ہیں چینی سلطنت

فرقہ - فوج کا دستہ۔

فرمان فرمائے - گورنر جنرل - ویسٹ

فرتمہ - حرف ابتدائی - نام یا لفظ کا ابتدائی

حرف - گوشت کا ٹکڑا۔

فاتوره مبیعات - فروخت اشیاء کا حساب۔

فاحص - تنقیح ساز۔

فاحص الدفاہر - محاسب - اکونٹنٹ۔

اگر امین آف اکونٹس۔

فاخوری - ظروف گلی بچھنے والا۔

فارقلیط - روح القدس - تجلی بخش حامی۔

فابہانی - میوہ فردش۔

فامیلیا - خاندان۔

فائیکہ - ایک قسم کا ادنی کپڑا - بنیان۔

فانوس الامنیۃ - سیفٹی روم۔

فندیل سلامتی۔

فانوس سحری - سبک لینٹرن۔

فانص تعویض - ہرجہ کا سود۔

فائق التعمین - بیش بہا - گران قیمت۔

فیرائر - فروری - فروری۔

فتاح القال - فال گو۔

فتیل خالد - بہ دیر چنے والی دیاسلانی۔

فتیل شعال - جلد جل اٹھنے والی دیاسلانی۔

فتجاج - لغت تراشش۔

فتمام - کوزہ گھونے والا - کوزہ بچھنے والا۔

فخص - تنقیح کرنا۔

فرمہ - حقہ - چلم -

فروج - دستار فضیلت - علمی اعزاز کا

جیتہ (فرائیج) جمع -

فریق ثانی - لفٹ جنرل - ایک فوجی

عہدہ -

فریق عسکر - لفٹ جنرل

فرز - چیتے کا بچہ -

فسخ الایجار - گتہ کا ٹوٹ جانا -

فسخ شہزادگی - کسی کمپنی کا شکست ہو جانا -

فتق باکراہ - زنا بالجبر -

فضح - یہودیوں کا ایک تیوہار

فضیلہ - سپاہیوں کا علیحدہ دستہ -

فعل مساعد - وہ فعل جو مختلف صیغوں

کے بنانے میں اور فعلوں کی مدد کرتا ہے

فقہ - جوریس پروڈنس - علم قانون -

فقیر المعانی - وہ عبارت یا انشا

جس کا مفہوم عمدہ نہ ہو -

فقیہ - اسکول ماسٹر - درس - (فقہاء) جمع -

فکاهی - خوش طبع - زندہ دل - ہنس مکھ

فلسفہ طبیعی - نیچرل فلاسفی

قلو کہ حارسہ - حفاظت کرنے والی کشتی -

فن الحرب - تدبیر جنگ -

فن الدوالیب - کھوں یا آلات کا علم -

فن رسم - نقشہ کشی - مصوری -

فن ضرب النواقیس - کپاٹو لوجی - گھنٹے

کے بچنے کے اصول -

فنون حربیہ - لڑائی کے اصول -

فوق الحد - انتہا سے زیادہ -

فوضی - بڑ بونگ - بے حکومتی - بے شاہی -

فوضوی - انارکسٹ - وہ فرقہ جو دولت

کو تمام افراد انسانی میں برابر تقسیم کرنا

اور حکومت و شاہی کو مٹا کر مساوات

قائم کرنا چاہتا ہے -

قول - ٹکٹ - ٹپہ

فہرست ہجائی - فہرست مضامین بہ ترتیب

حروف تہجی -

فی الماتہ - فی صدی - سیکڑا

فیضان - طغیان - سیلاب - بارش

فیلق - فوج - فوجی دستہ - لشکر (فیلق)

باب القاف

قارض المبلغ - یا بندہ زر - ہنڈی والا -

قَارَه - خشکی کا بہت بڑا حصہ (قارات) جمع -

قَارَمَه - (مغرب ترکی) تیشہ - کدال - کلند -
قَارَوَزَه - (مولد) - (۱) کاسہ - جام -
(۲) بوتل (قوارزینہ) جمع -

قَاسِيَة - (مادہ مصر) برتن -

قَاشَانِي - (مغرب کاشانی) کاشانی پردہ
قَاصِد - پوپ کا وکیل -

قَاصِدِ سُوْلِي - حواری - حضرت عیسیٰ کے
صحابی -

قَاصِر - نابالغ - خردسال -

قَاصِنِي - (مولد) - (۱) مذہبی حاکم (۲)
حج (قضاة) جمع

قَاصِنِي الْاِحَالَه - حاکم سپردکنندہ - حج ٹے
رہنوی -

قَاصِنِي التَّخْصِيْر - حج پری پیارے رے -

قَاصِنِي التَّحْقِيْق - اگرانگ حج

قَاصِنِي الْقُضَاة - چیف حج - چینسلر -

صدر الصدور - لارڈ چیف جسٹس -

قَاصِنِي اُمُوْر سَتَعْلِيَه - حج ڈسے رفرز -

قَاصِنِي اُمُوْد وُقُوتِيَه - منصرم حج

قَابِلُ الْاِسْتِيْنَاة - قابل مرافعہ -
اپیل کرنے کے لائق -

قَابِلُ الشُّكُوْمِي - قابل الزام یا اعتراض -

قَابِلُ الْمُرَافَعَه - الزام کے لائق - قابل
ماخوذی -

قَابِلُ كَبِيَا لَه - ہندی سکارنے والا -
سکارو -

قَابِلِيَة - (مولد) اشتہار طعام

قَابُوْدَان - (مغرب اطالوی) جہاز کا کپتان -

قَابُرِيَطِيْر - (مغرب یونانی کیشتر) بول کش -

قَابَاتَا طِيْر - اسلامی جس سے پیشاب نکالا
جاتا ہے -

قَابُوْن - (مغرب ترکی) بیگم - خاتون کا
مغرب ہے -

قَاوُودَه - (مغرب فرنج) لیونیڈ -

قَاوِر - (مغرب ارامی) فیر

قَاوِرِب - (مغرب یونانی کاربوس)

چھوٹی کشتی -

قَاوَرَة - (مغرب ترکی) براعظم - اقلیم

(قارات) جمع

قَاوِرَه - ہجو آمیز تقریر - (قوارص) جمع

قَائِمَةٌ - (مغرب ترکی) چھوٹی کشتی جو دریا
نیل میں چلتی ہے۔

قَانُون - (مغرب یونانی قانون) (۱)

رسم و قواعد - دستور - آئین (۲)

بربط (۳) کفارہ گناہ (عیسائیوں کا)

قوانین (جمع) ٹیکس - محصول -

قانونِ اِدَارِی - انتظامی قانون -

قانونِ اَسَاسِی - بنیادی قانون -

سلطنت کے ضوابط ادلیں - اصولی

قوانین -

قَانُونُ التِّجَارَةِ - بیوپار کا ضابطہ

قَانُونُ النِّجْرَاءِ - مجموعہ تعزیرات -

قانونِ اِلْجِنَایَاتِ - فوجداری قانون -

قانونِ تَحْقِیْقِ اِلْجِنَایَاتِ - قانونِ ضابطہ

فوجداری - کریمینل پروسیجر -

قانونِ حَرْبِی - مارشل لا

قانونِ دَوْلِی - انٹرنیشنل لا - مابین

الدولی قانون - قانونِ ملکی - جسکی

روسے سلاطین کے مابین معاملات

ہوتے ہیں -

قانونِ دَوْلِی خُصُوصِی - پریویٹ انٹرنیشنل لا

قَاضِی تَحْقِیْق - اگر امنگ مجسٹریٹ -

قَاضِی صُلْح - جسٹس آف دی پیس

قَاضِی عُرْفِی - ثالثِ منصف - پیج

قَاضِی مَوَادِ جَزَائِیَّة - جج آف سمری

ٹریبیونل -

قَاضِی مَوَکَّل - منصف جج (منصف)

قَاطِرَةٌ - ریلوے ٹرین - انجن - ریل کا انجن -

(قَوَاطِر) جَمْع -

قَاطِعُ وَرَقَةٍ التِّجَارَةِ - ہنڈاؤل یا

بٹہ کاٹنے والا -

قَاعَةٌ - کمرہ - ہال - جہاز کا کمرہ (قَاعَات)

جَمْع -

قَاعَةُ الْمَعْرُضِ - نمائشی کمرہ

قَاعِدَةٌ - قانون (قَوَاعِد) جَمْع

قَاعِدَةُ الْبِلَادِ - { دار الحکومت پائے تخت

قَاعِدَةُ الْمَلْکِ -

قَاعِدَةُ التَّشْرِیْفَاتِ - درباری معاہدہ

یا آداب شاہی -

قَالَیب - حیلہ - بہانہ - بناوٹی مقدمہ -

قَامُوس - (مغرب یونانی اوکیانوس)

لغت - ڈکشنری -

قانونِ رومیۃ الحقیقہ - رومین لا۔

دعا کا قانون -

قانون غیر مذکور - وہ قانون جو ضبط

تحریر نہ ہوا ہو۔

قانون لائسنس - ڈگری - باضابطہ اظہار

فیصلہ۔

قانون مدنی - دیوانی قانون - سیول لا۔

قانون مرافعات تجارتیہ - ضابطہ

تجارت -

قانون مرافعات مدنیہ - ضابطہ دیوانی۔

قانون وضعی - پارلیمنٹ لا۔

قانونی - کونسل - بیرسٹر۔

قائد - سپہ سالار - سینا پتی (قوات) جمع۔

قائد الاول - کمانڈر انچیف - امیر الجیش۔

قائد العام - کمانڈر انچیف۔

قائد العربیۃ - (ع۔م) گاڑی بان

کوچمین -

قائد المشوار - وزیر تجارت

قائد عام - کمانڈر انچیف

قائد لواء - (ع۔م) بریگیڈیئر جنرل۔

قائش - (عرب ترکی) استرہ تیز کرنیکا۔

قاپٹا تاخیر - تعویق مدت کا سود

قائین - (م۔ت) کشتی +

قائم بالحکومتہ - ایجنٹ - نائب سلطنتہ۔

قائمۃ الموتی - اموات کا رجسٹر۔

مردن کا بیان -

قائم مقام - لفٹنٹ کرنل - ایک فوجی

عہدہ - ڈپٹی کمشنر۔

قائم مقام امیر البحر - وائس ڈیپٹی

میر بحری کا نائب -

قائمہ - (ع۔م) - (۱) فہرست رجسٹر۔

بیجک - ہنڈی (۲) تار برقی کا

ستون آدیوں - چیزوں (کتابوں)

ستاروں) وغیرہ کی فہرست -

نوٹ جمع توائم و قائمات -

قائمہ توزیع نہائی - اخیر تصفیہ قطعی

فیصلہ -

قائمہ جزو - فہرست مال و اسباب

قائمہ موجودات - جائداد کی فرد مشرح۔

قائمہ معیاریہ - پوسٹ نوٹ - بینک

کا ایک نوٹ جس کی ادائیگی زمانہ

آینہ میں کی جاتی ہے -

قائمہ نقدیہ - نوٹ وغیرہ جو بادشاہ وقت
کی جانب سے اجراء میں جن کو لگ
سکے کے طور پر لیں۔

قیاق - (مغرب ترکی) جنگی جہاز۔ پال۔
قیان - (مغرب لاطینی کپانہ) بواسطہ
فارسی - (۱) ایک پلہ کی آہنی ترازو
(۲) اسٹیشنوں پر پال تولنے
کی ترازو۔

قیانہ - (ع۔م) تولنے کا کام
قیاتی - (بولد) ترازو والا - تولنے والا۔
قبض فائوڑہ - کشش میں مطالبہ نقدی۔
قبضاب - کھڑانوں۔

قبول عادی - صحبت نامہ۔
قبول کنبیالہ - ہنڈی کا سکارنا۔
قبول کنبیالہ بالو اسٹلمہ - ہا پاس غلط
ہنڈی سکارنے والا۔

قبتہ - کالر - بنار - لاٹ۔
قتف - چمڑے میں سوراخ ڈالنا۔
قدوم - بسولا - کلہاڑی - تیشہ۔

قیدید - کاؤفش - ایک قسم کی مچھلی
قذف - توپیں - ازالہ حیثیت عرفی۔

قراطینس نالیہ - سرکار یا کمپنی کا نوٹ یا
رقمہ مشرقی اقرار قرضہ - ایکٹیو بانڈز۔
ڈبچہ - تسکات۔

قرعہ صنایع استنبولی - ترکی نقری سکہ۔
قرش صنایع مصری - پتھر کا چاندی کا سکہ۔
قرصان - بحری قزاق - (قراصنہ) جمع
قرن الحجیر - زمانہ سنگ - پتھر کا زمانہ جبکہ
انسان پتھروں سے آلات بناتا تھا۔

قرن الحدید - لوہے کا زمانہ جو موجود ہے
اس میں انسان نے پتھر اور پتیل کے
عوض لوہے سے آلات بنانا شروع کیا۔
قرن الرصاص - سیسے کا زمانہ جبکہ
انسان کچھ ترقی کر کے بجائے پتھر کے
سیسے سے اوزار بنانے لگا۔

قرنیہ - آنکھ کی پتلی کا شفاف پردہ۔
قرون متوسیطہ - میڈیول ایجنز۔
قرہ قول - پولیس اسٹیشن۔

قسط مبادلہ - کومیٹیوٹ جیسٹس۔
قسم الادارہ - انتظامی سررشتہ محکمہ
نظم و نسق۔

قسمتہ مختصر - وہ تقسیم جو چھوٹے طریقے

میں کی جاتی ہے۔

قسمت مرکب - کیونڈ - ڈویژن -

تقسیم مرکب -

قسیمہ - نشتے - نقل - کاپی -

قشلاق - بارکس - فوجی چھاوٹی -

قصاص بالموت - سزائے موت -

قصب البرومی - نیزہ جس سے قلم بنتا ہے -

قصبہ - راج: دانی - پائے تخت -

قضائی - عدالتی - جڈیشیل -

قضایا کے تفلیس - دیوالہ کے اسباب -

قضیہ - نالش - مقدمہ -

قضیہ جنائیہ - مقدمہ فوجداری -

قضیہ حلیہ - وہ جملہ بیانیہ جو شرطیہ نہ ہو -

قضیہ مدنیہ - دیوانی مقدمہ

قطار - ریل گاڑی کی ٹرین (سلسلہ)

قطار البصانعة - مال گاڑی - گڈز ٹرین -

قطار البصناع - گڈس ٹرین - مال گاڑی

قطار خصوصی - اسپیشل ٹرین -

قطار الركاب - مسافر گاڑی - پاسنجر

ٹرین - گاڑی بغرض ملازمان ریل -

قطار السیارة - تفریح کرنے کی ریل -

اکسکریژن ٹرین -

قطار مسرعیج - تیز ریل گاڑی

قطار عادی - معمولی گاڑی -

قطار مخصوص - اکسپرس ٹرین -

قطار مستعجل - تیز ریل گاڑی -

قطع - خلاف ورزی - نقص

قطع وزیر - ایک تختے کے آٹھ ورق کی بنی

ہوئی کتاب -

قطنیج - گلہ

قطن غیر مشغول - خام روئی

قفال - قفل بنانے والا -

قفل التحقیق - تحقیقات کا سدباب کرنا -

قلقلیل - مٹی کا ڈھیلا -

قلقلیل بشیرید - مٹی کا ڈھیلا -

قلم - صیغہ - محکمہ - سررشتہ -

قلم التبدیلات - میونسپالٹی -

قلم التجارة - جماعت تنظیم تجارت

قلم التشاریر - وہ دفتر جہاں حفظ حق کی

کارروائی ہوتی ہے - پیٹنٹ آفس -

قلم التلغراف - تار برقی کا سررشتہ

قلم السحوالات - اکس چینج ڈپارٹمنٹ

قنصل - کار پر دوازہ - ایجنٹ (مفصل) جمع -

قنطرہ - پل

قنطورس - ایک روشن ستارہ جو

کرہ فلک میں روشنی کے لحاظ سے

تیسرا ہے - یہ نزدیک ترین ستارہ ہے -

قواس - بندوق کی گولی -

قوآس - پولیس کا ادنیٰ عہدہ دار -

قوآئد الاممہ - قومی اصول

قوآئد اساسیہ - بنیادی اصول -

قوآئد عمومیہ - اصول عامہ -

قوآئیر - بہادر - پہلوان

قوآئین جزائریہ - قوانین فوجداری -

قوآئم نالیہ - دستاویزات خزانہ -

قوآہ اداری - انتظامی اقتدار

قوآہ الحصان - گھوڑے کی طاقت -

نور اسپ -

قوآہ المحاکمہ - دو فریق کے مابین فیصلہ

کرنے کا اقتدار -

قوآہ تشریعیہ - اقتدار وضع قانون

قوآہ قانونیہ - رجسٹریٹور - اقتدار

قانون سازی -

ہندی کے لین دین کا دفتر -

قلم الرصاص - پل -

قلم الرذائب - سررشتہ دغا لاف -

قلم القضا یا - سررشتہ قانونی -

قلم القوا تیر - بیجاک کا دفتر -

ان داسنگ ڈپارٹمنٹ -

قلم المتجاسبہ - کنٹرول آفس -

قلم المرما جعہ - دفتر تنقیح - آڈٹ آفس -

قلم المر اقبہ - ٹرافک آڈٹ پرائنج -

قلم النشر - اشتہار کا دفتر -

قلم توزیع - دفتر تقسیم - وہ دفتر

جس میں جنس کی الگ الگ تقسیم

کی جاتی ہے -

قلم کتاب - جبری

قلم کور فرم - بے ہوشی کی دوا -

قماش التصویر - تصویروں کا نواس

قمرانی - شیشہ جوڑنے والا - شیشہ

جوڑنے والا -

قناصل قاطبہ - قنصل کی جماعت

قناصل کا قہ - قنصل کی جماعت

قنڈاق - عیسائیوں کی دعاؤں کی کتاب

کتاب التوفیق - اخبار نویس - وقائع نگار -
 کتاب بسیط - جونیر کلارک -
 کتاب شجیل - جبرئیل کلارک
 کتاب حسابات - نیب - بک کپیر -
 کاترکتا - بو تیا بندھ -
 کا تم الہ استراز - معتمد صیغہ راز -
 کاتولیک - مسیحوں کا وہ فرقہ جو پوپ
 کا پیرو ہے -

کارت - گزٹ سرکاری اخبار -
 کبیر تھی - دیا سلائی بنانے والا -
 کبیل - سوراخ - چھید - منہ -
 کبیلہ - گولے یا ہم داغے کی مالی
 کبیلہ - دشمن کی آمد کی خبر - خوف کا شور
 کبیر المہا فطین - لارڈ وارڈن -
 یونیورسٹی کا صدر ناظر -

کبیر المخطہ - سٹیشن ماسٹر -
 کبیر المنار والتنزل - سد کا صدر ناظر
 کتاب اذرق - سرکاری رپورٹ
 کتابت مختصر کہ - فن مختصر نویسی -
 سکشیت لکھن -
 کتابت زوج - فہرست

قوت متباعد المرکز - وہ زور جو کسی
 چیز کو مرکز سے ہٹا دے -
 قوت متجاذب المرکز - وہ کشش
 جو مرکز کی طرف اثر دے کرے - وہ قوت
 یا زور جو کسی شے کو مرکز کی طرف
 کھینچے میل مرکزی -

قوت مطلقہ - شاہی اقتدار -
 قوت نظریہ - اقتدار تہنری -
 قومندان - کمانڈر (کمانڈر کا عرب)
 سپہ سالار -

قومہ - بغاوت - فساد - غدر -
 قہوہ خانہ - کافی ہوس -
 قیاس الاضماہ - وہ پوشیدہ شکل جو
 محقق قیاس کی تکمیل کے لئے ضروری ہو
 قین - لوہار - کاریگر (اقیان) جمع -

باب الکاف

کتاب استراخصوصی - پرائیویٹ سکری -
 کتاب الرسائل - رسالہ نویس - بظلمت -
 کتاب الشطب - یہی کھاتا رکھنے والا -
 کتاب الخکمة - جبرئیل -

کتاب تعلیمیہ - طرز تعلیم کے متعلق

نصیحت خیر کتابیں -

کتابی - کتاب فروش - کتابیں پچھنے والا -

کتابچہ - حسا کر خاصہ - محافظ جان فوج -

کشم - چیتا پلنگ -

کثیر مطالب - مانگ کی زیادتی

کراس - رسالہ - چھوٹی کتاب

کراکے - بانی کی تہ کی مٹی کے اجزائے

ترکیبی معلوم کرنے کا آلہ - ڈرجہ

یا جرافہ -

کرکدن البخر - دریائی گینڈا -

کرہ مصنوعہ - وہ گولا جو آسمان یا

زمین کی شکل کا بنایا جاتا ہے -

کرید تو - کریدٹ کا عرب - اعتبار -

دیکھو (امنیہ) -

کرینہ - گارن - گلنے والی -

کسہ اہم - وہ عدد جو پورا تقیم نہ ہو سکے -

کسٹر صحیح - عدد متداخلہ

کشف اقدوسیتہ ضباط -

فوجی افسروں کی

فہرست -

کشوفہ - فہرستیں - فہرستیں -

کفیل - امانت حوالہ کرنا - ضمانت پر

رہا کرنا -

کلاب - کیل وغیرہ نکالنے کا آلہ (کلاب)

جسوع -

کلداتی - قدیم بابل کا باشندہ یا زبان -

کل فرد - نی براس -

کلجی الا کرام - موسٹ ریورنڈ - برٹس

پادری کا خطاب -

کلیل البصر - وہ شخص جسکو دھندلا نظر آتا ہو

کلیہ - کالج - برادر (کلیات) جمع -

کماؤہ سپوشس - پلاسٹر -

کماؤہ - زخم دبانے کی گدھی -

کمیالہ خازجیہ - بل آف آکس پیج جو

ایک ملک میں تحریر کیا گیا ہو دوسرے

ملک میں واجب الادا ہو -

کمیالہ صوریہ - ہنڈی جس کے

ذریعے روپیہ قرض لیا جاسکے -

کمیالہ مزفوضہ - وہ ہنڈی جو زرکاری

گئی ہو -

کمیالہ مفقودہ - گم شدہ ہل -

گمشدہ - ناشپاتی -

گمنجہ - سازگی - دو تارہ -

گنیشہ مجاہدہ - لڑائی مصروف گر جا -

گو میو بچی - کیشن ایجنٹ -

گو نشلاریتہ - مشیر سلطنت کا دفتر

گوٹہ - کھڑکی

گٹے - استری کرنا -

گیلو میٹر - مسافت کا پیمانہ $\frac{5}{8}$ میل

گیناومی - علم کیمیا کا ماہر علم کیمیا سے متعلق

گینیا - عناصر کا علم جس میں اشیاء کی

ترکیب اجزائی اور تغیرات سے

بحث کی جاتی ہے -

گجنتہ - کیٹی -

گجنتہ اداری - انتظام کیشن یا مجلس -

گجنتہ استشاریہ - مشورے کی کمیٹی

گجنتہ انجمن کارک - کیشن کروڈ گیری -

گجنتہ بلدیہ - میونسپل کمیٹی -

گجنتہ عمارتہ ڈھانچہ - کمیٹی آف

جوڈیشل انسپکشن -

گجا - چھال - پوست -

لسان الفدان - قلیہ کا دستہ -

لسان الوطن - ملکی زبان

لسان وارج - ملکی بولی -

لسان سماعی - لغوی - وارج یا متداول

روزمرہ بول چال -

لصوق و انضمام - کو بیٹرن - مادہ کال

ایک ہو جانا -

لعب الثقلینہ - اناٹک میں کھیل انجام دینا

لعب الشخصیض - ایکٹ کرنا -

لعب الصونجان - ایک کھیل جس میں

گیند کو بلے سے لہے کے حلقے سے

نکالا جاتا ہے - پیل میل -

لغو - تیغ - تیغ -

باب اللام

لامعی - کا عدم - باطل -

لامحہ - سیاسی چھٹی - ملکی رو بکار

لامحہ جمہوریہ - مسودہ قانون جو عامتہ

اناس سے تعلق ہو -

لامحہ فروریہ - مسودہ قانون خانگی -

لائقبل النقص - ناقابل منسوخی -

لباس قادی - سیول یونی فارم -

جسکو ناپولین کہتے ہیں۔

باب اہم

نابین - پیش دالان - ڈیوڑھی -

اینٹی چیمبر - سلطان اور وزیر کا

ایک درمیانی عہدہ -

نابین الدولی - مختلف ریاستوں یا

قوموں کے درمیان -

ناجورہ - میجر

ناحورہ - فوجی کیمپ -

ناحوالات - جمع (ماحول) ارد گرد کے

حالات موثرہ -

ناخرہ - اسٹیٹ - جمع مواخر -

ناخورہ - شراب خانہ - بیت الفواحش -

ناؤبہ - ساتھ کھانے والوں کی جامعہ -

ڈز پارٹی -

ماؤہ - غرض - نشا - شرط دفعہ جمع مواد -

مادرید - میڈرڈ (شہر)

مارش - مارچ -

مادس - کھیت

مارستان - دو خانہ - شفا خانہ -

لقح - نطفہ یا تخم ڈالنا -

لوا - برگیڈ - فوج کا بڑا دستہ جس میں

کئی پلیٹیں ہوتی ہیں -

لوا - ضلع - ملک کا ایک حصہ - (لوادات -

آویہ) جمع -

لوازم المعیشہ - اسباب زندگی -

لواح - احکام و ادھر -

لوح استود - بلاک بورڈ - سیاہ تختہ

لوحہ عملانات - نوٹس بورڈ -

لوحہ شمات - علم ریاضی کا ایک شعبہ

لوگنڈہ - ہڈی - دارالطعام

لوگو کذاب - جھوٹا موتی -

لون غامق - گہرا رنگ -

لون فاتح - ہلکا رنگ

لون معتم - تاریک رنگ - مدغم رنگ

لہجہ - زبان - فرع زبان - بولی - ڈائلکٹ

(لہجات) جمع -

لہستان - پولینڈ

لیرہ - مصری پونڈ

لیرہ انجلیزہ - انگریزی پونڈ

لیرہ فرانسووی - یورپ کا ایک سکہ

مارسنت - مارسینٹ -

مارغریٹ - جرمنی کا شاہی خطاب -

مارکہ - ٹریڈ مارک - تجارتی نشان -

مارکوئی - ایک مسیحی فرقہ - جمع موارنہ -

ماری - دلی - بزرگ (عیسائی) -

ماریہ - ماری کی نانیٹ -

ماسورہ - بندوق کی نالی - سگریٹ کا

پاپ - پانی کاٹل - جمع موارسیر

ماگل - کھانے کا کمرہ -

مال احتیاطی - وہ رقم جو اتفاقی صورتوں

میں صرف کرنے کیلئے محفوظ رکھی

جاتی ہے - کنٹینٹ

مال مدفون - گڑا ہوا خزانہ

مالیۃ الدولۃ - سرکاری خزانہ - خزانہ

ماتور - افسر

ماتور الاحساب - مال گزاری کا افسر

ماتور التصفیہ - بہتم ترکہ

ماتور الثقلیۃ - جج کیسری -

ماتور الضابطیۃ - پولیس کا افسر -

ماتور الضبطیۃ - آپولیس اینٹ -

کوٹوالی کا کارپرداز - سیول محسب

جسٹس -

مأمور المعاشات کا قہ - بے اسٹریٹ

صدر بخشی -

مأمور سیاسی - پریٹیکل اینٹ - سیاسی

کا کارپرداز -

مأمور ضبطیۃ قضائیۃ - عدالتی پولیس

کافر -

مأمور عمومی - ساڈجونٹ جنرل

مأمور مخصوص - کنسرج -

مأموریتہ - مستقر صدر مقام - کمیشن

مأموریتہ الدولۃ - سرکاری وفد یا نیاٹ

مأموریتہ رشیمیۃ - گورنمنٹ مشن -

مأموریتہ القاضی - منصف کا عہدہ -

مأموریتہ تحفیۃ - وفد بصیغہ راز -

مأموریتہ سفارۃ - سیاسی وفد -

مأموریتہ فوق العادۃ - غیر معمولی وفد

یاد پریشی -

مأموریتہ مخصوصہ - اسپیشیل مشن -

خاص وفد -

مأموریتہ وقتیۃ - ہنگامی وفد - ٹپورل

مشن -

مُبَاشِرَة - منتظم - مستم - سربراہ کار - اسپیشل
کسری (رسد کا افسر خاص) -

مُبَاشِرَة - انتظام - نظم و نسق - سربراہ کاوی
مُبَاشِرَة التَّجَارَة - تجارتی انتظام -

مُبَايَعَة الْمَلِك - بادشاہ کی اطاعت
کا حلف -

مُبَايَعَة مُسْتَحَقَّة - واجب الملادار قوم -
مُبْتَدِئِي بِالْعِلْمِيَّة - یونیورسٹی کے پہلے

سال کا طالب علم -
مُبْتَدِئِي - پریشان - بکھر ہوا -

مُبْعُوث - نماندہ - وکیل -
مُبْلَغ كَلِمِي - مجموعی رقم -

مُبْلَغ مَلْفِي الْقَرْض - وہ روپیہ جو سرکاری
مَبِيَعَات بِالنَّقْد - نقد بکری -

مُتَاخِرَات - بقایا - باقیات
مُتَاع الْبَيْت - گھر کا سامان

مُتَجَسِّس الصَّخُور - چٹانوں یا احجار کا مکمل کرنا
جنس ہو جانا -

مُتَّجِد التَّعَالِي - وہ عمل یا کام جو ناکامش
کے کیا جاوے -

مُتَّجِد الْمَرْكَز دَوْلِي - وہ دائرہ جس کے

مُتَّجِدِينَ دَوْلَةً - سلطنت کے ارکان یا اعضا -
مُتَّجِدِينَ دَوْلَةً - ایک دستاویز جس میں مال اور

اسباب کا کل جہاز اور وہ مقام جہاں
جہاز جاتا ہے -

مَاهِتَاب الْمَدْفِع - بندوقی یا کانوں کے
سلگانے کا توڑا یا دیا سلانی -

مَاهِيَةُ الشَّرْكَاء - شریکوں کی تنخواہیں -
مَاءُ الْمَحْرَمَةِ - یونڈر واٹر -

مَاءُ الرَّهْرِ - آب گل نارنج -
مَاءُ الْعَيْن - چشمہ کا پانی -

مَاءُ الْوَرْد - گلاب کا عرق -
مَاءُ رُق - پایاب پانی

مَاءُ عَذْب - بیٹھا پانی -
مَاءُ عَمِيق - گہرا پانی -

مَاءُ قَيْصُونِي - کھاری پانی -
مَاءُ مَارِح - کھاری پانی -

مَاءُ مُتَّصِب - بیٹھا پانی -
مَاءُ مُسْتَقِي الظُّلْمَةِ - پپ واٹر -

مَاءُ مُكَرَّس - مقدس پانی -
مَاءُ نَارِم - بدبو پانی -

مَاءُ يَوْسَعِي -

مُبْتَدِئِي بِالْعِلْمِيَّة

مرکز ایک ہی ہوں۔

مُتَّحِدُ النُّوعِ - مطلق اجزایا ایک ہی جنس

کا بنا ہوا۔

مُتَّحِرُكَ النَّقَالِ - خود روکل۔

مُتَّسِرُومِ السَّاقِیْنِ - وہ جس کے دو ضلع

برابر ہوں۔

مُتَّسِلِمٌ - ڈپٹی گورنر

مُتَّشَرِّعٌ - مقنن۔ قانون ساز۔

مُتَّصِرِفٌ - صوبہ دار۔ فرمانروا سے صوبہ

مُتَّصِرِفٌ - مینجر۔ منتظم۔ ضلع دار۔

مُتَّصِرِفٌ اَلْکَلْبِیُّ - برٹش رزیدنٹ۔

مُتَّصِلَعٌ کَالِیَّہ - امور فینانس سے ماہر۔

مُتَّعَاقِدِیْنِ - طرفین

مُتَّعِدٌ - سد یا خوراک ہم پہنچانے والا

مُتَّفَالِسٌ - دیوالیہ۔ نادار۔ جھوٹا دیوالیہ۔

مُتَّقَلِّبٌ - کمی۔ بیشی والا۔

مُتَّنَاظِرُ الْقَدَمِ - ہارے پیروں تلے

کے ٹھیک مقابل طرف کے باشندے

یالاک۔

مُتَوَظَّفٌ - افسر۔ عمدہ دار۔

مُتَّهَمٌ مَجْبُورٌ عَلَیْہِ - ملزم شخص کی ممانعت

مُشْرِئٌ - دولت مند۔

مُشَقَّبٌ - برے سے سوراخ کیا ہوا۔

مُثَلَّثٌ حَادَّةُ الزَّوِیَہِ - وہ مثلث

جس میں ایک زاویہ ہو۔

مُثَلَّثٌ مُتَّسَاوِیُّ الزَّوِیَاہِ - وہ مثلث

جس کے سب زاوے آپس میں

برابر ہوں۔

مُشَاجِحٌ - برف کا کڑاڑا۔ برف کے انبار

کا ڈھلکنا۔

مُشَمِّنٌ - تشخیص کرنے والا۔ ناپنے والا۔

جا بچنے والا۔ آنکھنے والا۔

مُشَمِّنٌ - ہشت پہلو۔ آٹھ پہلو

مُشَمِّنٌ الزَّوِیَاہِ - آٹھ کونیا۔ آٹھ زاویہ

مُشَمِّنٌ اَلْہِجَاہِ - آٹھ جز کا لفظ

مُجَازِ ثَمَانِیِّ عِلْمِ الْفِقْہِ - بیچار آف لاز۔

مُجَازِ ثَمَانِیِّ عِلْمِ اللّٰہِوتِ - علم الہیات

میں بی۔ اے۔ بیچار آف ڈیونٹی۔

مُجَازِ ثَمَانِیِّ عِلْمِ طِبِّ بَیْجِلَرَاتِ مَدِیْنِہ -

مُجَازِ ثَمَانِیِّ عِلْمِ اَدَبِیَّہِ - بی۔ اے۔

مُجَازِ عِلْمِ الْفِقْہِ - بیچار آف لاز۔

مُجَازِ عِلْمِ اَدَبِیَّہِ - ایم۔ اے۔ اسٹراڈ آرٹس

مجانا - مفت -

مجاہدۃ الکلام - صاف تقریر - ہنر
مہینچر - ہڈی جوڑنے والا حکیم - ہڈی باند
اور شکستہ استخوان کا معالج -

مجمع - کمیونٹی - گروہ -

مجلات - رسال - پرچے -

مجلس احکام الدولہ - پرووی کونسل -
انجمن مشیران سلطنت -

مجلس الاجراءات - اگزیکوٹو کونسل -

مجلس الادارۃ - بورڈ آف ڈائریکٹرز -
جماعت منتظین -

مجلس الافلاس - دیوالہ کا انتظام
کرنے والی انجمن -

مجلس الامراء - اپر ہوس - پارلیمنٹ
کا دیوان اعلیٰ -

مجلس الامراء والاساقفہ - اپر ہوس -
ہوس آف لارڈز -

مجلس السجریۃ - کورٹ آف اڈمیریٹی -

مجلس التجار - بورڈ آف ٹریڈ - تاجرو
کی انجمن -

مجلس التشریح - ایجسلیٹو کونسل -

مجلس شورعی - پارلیمنٹ

مجلس الوزراء - کینٹ کونسل

مجلس الشوری - ڈیلیبریٹو کونسل -

مجلس القضا - کورٹ آف جسٹس -

مجلس المنہاجین - بحث کرنے والی انجمن
ڈبٹنگ سوسائٹی -

مجلس النظر - وزیروں کی کمیٹی

مجلس الثواب - ہوس آف کامنز -

بیت القوام -

مجلس الوكلاء - پارلیمنٹ کا دیوان
ادنے یا عوام -

مجلس انتخابی - پسند کرنے والی کمیٹی -
الکلیو کمیٹی -

مجلس بلدی - میونسپل کونسل -

مجلس خبری - کونسل آف وار - جنگی انجمن -

مجلس شورعی القوانین - مجلس وضع قوانین -
ایجسلیٹو کونسل -

مجلس عدلیہ - صدر دیوانی - صدر عدالت
چینسری -

مجلس عسکری - کورٹ مارشل -
عدالت جنگ -

مجلس منبوتین - ہوس آو کا منزہ دار العوام -
 مجلس محلی - مقامی انجمن - لوکل کونسل -
 مجلس محلّیہ - لوکل کمیشن
 مجلس مدیریہ - ضلع کی کونسل -
 مجلس ملی - مذہبی انجمن -
 مجلس نظارتیہ - لیجسلیٹو اسمبلی - انجمن
 یا مجلس وضع قوانین -
 مجلس وکلاء - کونسل آف منسٹر -
 مجمع الصّور - تصویر خانہ -
 مجمع المدافع - بھاری توپ خانہ
 مجمع حزبی - کونسل آف وار
 مجمع عسکری -
 مجمع خاص - پریوی کونسل -
 مجمع عمومی - ایکونومک کونسل - تمام مسیحی
 دنیا کے وکلاء کی مجلس -
 مجتبیہ - ہراؤل - آگے کی فوج -
 مجیدی - ترکی نقری سیکہ جو دو روپیہ آمدانہ
 کے مساوی ہے -
 محارَبہ بحرّیہ - دریائی لڑائی -
 محارَبہ چہارہ تیہ - کھلی لڑائی -
 محارَبہ خارجیہ - غیر ملکی لڑائی -

محارَبہ داخلّیہ - خانہ جنگی -
 محارَبہ دفاعی - روک تھام کی لڑائی -
 محاسب المالّیہ - کنٹرول آف فینانس -
 مال کا صدر دفتر -
 محافظہ - گورنر -
 محافظہ - گورنری صوبہ -
 محافظہ - ملک کی بڑی تقسیم -
 محاکمہ اذکار تیہ - انتظامی عدالتیں -
 محاکمہ اقتصالیہ - کانسلوں کی عدالتیں -
 محاکمہ امور بحریہ - اختیار یا حد سماعت
 صیغہ بحری -
 محاکمہ امور چناریہ - کریمنل پروسیجر -
 صنابطہ فوجداری -
 محاکمہ عادیہ - سیول جوسڈ کٹن - حد سماعت
 یا اختیار سماعت دیوانی -
 محالّفہ - اتحاد - اتفاق - سمندہ -
 محالّفہ خصیہ - سازش - بندش - تدبیر -
 محالّفہ دفاعی - دشمن کی روک تھام کرنے
 کے لیے اتحاد -
 محالّفہ مؤقتہ - ہنگامی یا عارضی اتحاد -
 محالّفہ مجموعی - کسی پر حملہ آور ہونے یا

چڑھائی کرنے کے لئے اتحاد۔

محاماة - وکالت -

محامی - بیرسٹر - وکیل - مختار

محاوہ - لیت و لعل - آسے پالے -

مختصر نم - ریورنڈ - پادری کا خطاب -

مختصر - اجابہ دار - ٹھیکہ دار -

مختصر و القصبی - قرنطینہ - کوارنٹائن

مختصر - پیشہ کی کوڑی جو بیگی لگانے میں

استعمال کی جاتی ہے -

مخجوزات - قرتی قرضہ جات

مخجوز لڈیہ - جس کو گرفتار کریں -

مخذب - ابھروان -

مخترات رسمیتیہ - سرکاری مراسلات

مخترات مخصمہ - سندات اختیار -

مختر سند - نوٹ بنانے والا -

مخرق - کاسک - جلانے والا کھارہ - تنزہ -

مخصول - پیداوار

مخصولات طبیعیہ - قدرتی پیداوار

مخصولات عرضیہ - اتفاقی پیداوار

مختصر - گرفتار کنندہ

مختصر المجلسہ - رویداد کی کمیٹی - تحقیقات

مخطہ - ریلوے اسٹیشن -

مخطہ سیکٹہ السجیدہ - ریلوے اسٹیشن -

مخطوطات تاجرہ - بیوپاری کا دفتر

مخکمتہ ایجنایات - عدالت فوجداری -

کریمنل کورٹ - عدالت سشن انگلستان

اسٹار کورٹ - کریمنل ٹریبیونل -

مخکمتہ الحقوق - عدالت دیوانی - سیول کورٹ

مخکمتہ الضبطیہ - دفتر کوٹوالی - پولیس

مخکمتہ الشرطہ - اکورٹ -

مخکمتہ العدالة - کورٹ آف چیفس جی

لارڈ چیفس کی عدالت -

مخکمتہ المخالفات - عدالت خلا و زری

کانٹران نیشنل کورٹ

مخکمتہ ابتدائیہ - مرافعہ اول - کورٹ

آف فرسٹ انسٹنس -

مخکمتہ ابتدائیہ چٹائیہ - ٹریبیونل آف فرسٹ

انسٹنس

مخکمتہ استیناف - کورٹ آف ایپل

مخکمتہ اہلیہ - نیو کورٹ -

مخکمتہ بھرتیہ - اوڈارٹی کورٹ - میربحری کا دفتر

مخکمتہ تحقیق - پنج - جوری

محکمہ تدبیر امور البحر - اڈمارلٹی کورٹ
امیر البحر کا دفتر -

محکمہ جزائریہ - عدالت فوجداری -

محکمہ شرعیہ - ریویو ناف حبشس
محکمہ نظامیہ -

محکمہ عادیہ - دیوانی
محکمہ نظامیہ - سیول کورٹ - عدالت

محکمہ علیا جنایات - عدالت سشن
عدالت داروسائر -

محکمہ کلیہ واجیدہ - سنٹرل کورٹ -

محکمہ مال الخزانہ - کورٹ آف اسپیکر

محکمہ مدنیہ - سیول کورٹ - عدالت دیوانی

محکمہ نظامیہ - سیول کورٹ - عدالت دیوانی

مخلووم علیہ - جس شخص پر جرم لگایا گیا ہو -
مجرم - قیدی -

محکمہ - شدتی کارخانہ - فرم -

محکمات سقائہ الریاحۃ - غیر کافی علمہ -

محکم الرقص - بال روم - ناسج کاکوہ -

محکم الضبطیہ - پولیس کانسٹبل -

محکم المقامرہ - جواخانہ - قمارخانہ

محکم بورصہ - صرافہ - ساہوکارہ -

محکم تجارتی - کارخانہ تجارتی کوٹھی - فرم -
محکم حقیر - آثار قدیمہ کے کھودنے کی

جگہ -

محکورہ - وہ فرضی خط جس پر اجرام آسمانی
گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں -

محکورہ اصغر - دائرہ کی چھوٹی دہری -

محکول - ہنڈی بیچنے والا -

محکول الیہ - جس کو تعویض کیا گیا ہو -
جسکو منتقل کیا گیا ہو -

محمیل - انتقال کنندہ -

محکول -

مخابرة - معاملہ کرنا - لین دین کرنا -

مخابرة سیاسیہ - پولیٹیکل خط و کتابت

مخاطبہ - خط و کتابت کرنا -

مخاطبہ رسید - رسید -

مخاطبہ - تصفیہ حساب کرنا -

مخاطبہ - چھٹکارا

مخالفات - جرائم پولیس

مخالفت المشریعتہ - خلاف قانون -

مخالفتہ شروط العقد - شکست معاہدہ
خلاف ورزی معاہدہ -

مختلط الاشجار - شکاری

مختلس - خان -

مختلف النوع - غیر مطابق اجزا -

غیر جنس کا بنا ہوا -

مخرج مشترک - نسب نامہ کا من ونا

سینیئر -

مخترط - خزاو -

مخزن - گودام -

مدافعہ - رد عمل - ری ایکشن

مداوکتہ - غور - خوص -

مدبر - یونیورسٹی کا ناظر - وارون

مدبرین مملکتہ - کینٹیشن سلطنت

مدخول الشطان - سیول سٹ -

مدرسة البنات - لڑکیوں کا مدرسہ -

مدرس علوم فقہیہ - ڈاکٹر آف لاز

مدرسة اقتصادى - اکنامکل اسکول

مدرسة معاشی -

مدرسة خارجیه - دو مدرسہ جس میں

بورڈنگ ہو -

مدرسة داخلیه - وہ مدرسہ جس میں طلبہ

رات دن رہتے تھے ہیں -

مدعى عليه بالاستئناف - مرافعہ علیہ -

جس پر اپیل کیا گیا ہو -

مذفوع - ادا کیا ہوا - پیڈ

مذکال - پانی کا چڑھاؤ -

مدنی - دیوانی - الی - سیول -

مدنی - ملکی -

مدیر - کمپنی بہیہ کرنے والا -

مدیر - مدرسہ کا افسر - اکثر - گورنر - حاکم -

مدیر - ڈائرکٹر - ناظم

مدیر ادارہ - ڈائرکٹر آف ایڈمنسٹریشن

مدیر الادارة - سینیجنگ ڈائرکٹر

مدیر التعمیر - محصول لینے والا -

مدیر التصنیطیہ - ہائی کانسٹیبل - پولیس

کامین -

مدیر عام خزائن - ڈائرکٹر جنرل -

مدیر عموم الحساب - ڈائرکٹر جنرل

اسٹیٹ اکونٹس

مدیر عموم الحسابات - صدر محاسب -

مدیر عمومی - جنرل میجر -

مدیر سحرہ - فری پورٹ - آزاد

مذاکرات سیاسیہ - ملکی عہد و پیمان
یا معاملات -

مذاکرہ تحفیہ - پوشیدہ مراسلت
مذراہ - بالوں میں لگانے کی پن -
مذنب - مجرم - قیدی -

مذنب - مدار ستارہ - دنبالہ دار سیاہ
جھاڑو تارہ -

مذہب - سنار - زرگر -
مذہبات - کارروائی - دستور العمل -
مناظرہ -

مذہبی - مرنی کی جمع بندگاہیں -

مذہب - تنقیح کرنے والا - ادیٹر

مذہب الضابطیہ - پولس کی نگرانی

مذہب حسابات - کنٹرولر اکاؤنٹس
محاسب اعلیٰ -

مذہب تجارتیہ - تجارتی جہازات

مذہب کبی - کشتی بان مابھی

مذہب - بازی بدنا - شرط لگانا -

مذہب السقن - جہاز کو گھڑا کرنے اور

طوفان سے بچانکی جگہ بندرگاہ -

مذہب - کمزور صنایعی -

مذہبات - تجویز - تقریر - تنخواہ - مشاہیرہ -

مذہبات مینریہ - سرکاری محصولات

مذہب الملک - سیول سٹ -

عہدہ داران ملک کی فہرست -

مذہب شخص - ستایا ارزاں کرنے والا

مذہب - نائیک -

مذہب - پادری - مشنری (مہلین) جمع

مذہب البصاعہ - مال باہر بھیجنے والا -

مذہبات - منسلکات

مذہب - بے قاعدہ -

مذہب الحزب - لڑائی کا میدان

مذہب الشرطة - پولیس کا ٹھکانہ

مذہب عساکر - فوجی جھاوٹی - فوجی

مذہب عسکریت - اسٹیشن -

مذہب عمومی - صدر دفتر -

مذہب المقاطعہ - ضلع شہت کا حصہ -

مذہب متقلع - جہاز -

مذہب - ولایت میں امر کا ایک خطاب -

مذہب - مارکیوس -

مذہب - ماشین کی دوا

مذہب العذرا - حضرت مریم کا لقب

مُتَنَافِعٌ عَلَيْهِ - مدعی علیہ عدالت پیل

مُتَحَقِّقُ الْوَقَا - واجب الادا -

مُتَحَدِّمٌ - ملازم رکھنے والا -

مُتَحَدِّمٌ - ملازم - مامور -

مُتَشَارِكٌ - جلسہ یا مجلس کا ممبر یا مشیر -

اڈوائزر - صلاح کار -

مُتَشَارِكُ الْأَشْقَف - جنرل و کار

مُتَشَارِكُ الدَّوْلَةِ - انڈر سکرٹری آف سٹیٹ

مُتَشَارِكُ خَدَوِي - خدیو مہر کا کونسلی -

یاشیر

مُتَشَارِكٌ دَاخِلِي - وہ شخص جو عدالت کو تہلی

اور شہر کے اندرونی امور میں راستے دے

مُتَشَارِكُ قَضَائِي - مشیر قانونی عدالتی -

جڈیشل اڈوائزر -

مُتَشَارِكِي - فینانشل اڈوائزر -

مشیر فینانش

مُتَشَارِكُ مَمَالِكٍ تَابِعَةٍ - نوآبادیوں کا

سکرٹری -

مُتَشَارِقٌ - ایشیا کی کسی زبان مثلاً

فارسی - عربی کا عالم -

مُتَشَارِكٌ تِجَارِيَّةٌ - تجارتی دستاویزات -

جو کنواری تھیں -

مُزَايِدَةٌ - بولی بولنے والا - مزاج کر نوالا -

مُزَايِدَةٌ - نیلام - مزاج -

مُزَلَقَانٌ - سطح مائل - ڈھلوان سطح -

مُزَوَّلَةٌ - بادنا - مزع بادنا - وہ آلہ جس سے

ہوا کا رخ معلوم ہوتا ہے -

مُزَيِّنٌ - مجام - ناکی - خلیفہ -

مُضَابَقَاتٌ - مقابلہ - ہمسری - برابری -

مُضَاسٌ - کجک - آنکس

مُضَاعَدَةُ مَالِيَّةٌ - امداد سرکاری

مُضَاعٌ - حکم دیہی

مُضَاعٌ شَرْعِيٌّ - قانونی وارنٹ

مُضَاوَفَةٌ - عہد و پیمانہ - معاہدہ -

مُضَاوَمٌ - مشتری - خریدار

مُضَاوَمٌ - بائع -

مُضَاهَمَةٌ - قول و قرار - معاہدہ

مُضَاهَمَةٌ - جس کو بیچ یا تکلیف پہنچی ہو

مُضَاهَمَةٌ - عیسائیوں کی تسبیح

مُضَاهِرٌ سَفِينَةٌ - جہاز کا کرایہ لینے والا

مُضَائِفٌ - مزاج - اپیل کرنے والا

مُضَائِفُ الدَّعْوَى - اپیل کرنے والا -

مستودع - مال خانہ - محافظ خانہ
 مستودع - منتقل الیہ - مفوض الیہ -
 کارکن -
 مستوفی - کنٹرولر - صدر محاسب -
 مستہزی - ہجو کی تصویر بنانے والا
 مستحل - رجسٹرار
 مستحل الصلحہ - ہنڈی اور دیگر
 نوشتہجات کا تصدیق کرنیوالا -
 مستحوب علیہ - ہنڈی کاروپہ لینے والا -
 مشرب - بدررو - گزآب
 مسک الدفاتر - یہی کھاتہ - حساب کتاب
 مسکب - فلزی اسباب ڈھالنے کا
 کارخانہ - فونڈری -
 مسلف النقود - پیشگی رقم دینے والا -
 مسلم - حوالہ کرنے والا -
 مسئلہ - سوا (مسائل) جمع -
 مشہب - وہ عبارت یا افتا جو حبت نہ ہو
 مسؤل - جواب دہ - ذمہ دار -
 مسؤلیہ - ذمہ داری -
 مسؤلیہ جناریہ - ذمہ داری - مجرمانہ -
 مسؤلیہ مدنی - دیوانی ذمہ داری -

مشاة - الفنٹری - پلٹن -
 مشارطۃ الشکرۃ - یادداشت شرکت -
 مشارکۃ - ممبر شیب -
 مشترک فیہ - مقسوم علیہ -
 مشترک فیہ الآخر - مقسوم علیہ اعظم -
 مشترکات - بکریاں - خریداریاں -
 مشتملی - مدعی
 مشتملات الحکم - مضمون فیصلہ -
 مشخص - نامک میل ایکٹ (کمیل)
 کرنے والا - بھانڈہ - نقال - نٹوا -
 مشرطہ - نشتر -
 مشرحة الحیوانات - علم حیات حیوانی
 کا عالم -
 مشروع - مہم - جو کھوں - تجویزہ منصوبہ
 اختیار - اقتدار -
 مشروع تجاری - بیوپاری کاروبار -
 مشقۃ - بالوں میں لگانے کی پن
 مشمش - زرد آلو - خوبانی -
 مشفق - پھانسی دینا
 مشیر - مارشل - فیلڈ مارشل -
 مشیمہ - درختوں کے بیجوں کا اندرونی حصہ -

مَصَادِرَةُ الْأَمْوَالِ - قرقی - ضبطی جائیداد -

مَصَادِقَةٌ - منظوری - پسند - مقبولی -

مَصَادِمَةٌ - ٹگر - دمکا -

مَصَارِيفُ - اخراجات -

مَصَارِيفُ التَّارِيفِيس - اخراجات عملہ

ابتدائی اخراجات -

مَصَارِيفُ التَّسْلِيمِ - اخراجات تحویل -

مَصَارِيفُ الْحُكُومَةِ - سرکاری مجموعی

آمدنی -

مَصَارِيفُ الرَّجُوعِ - ری آکس چینج -

فرق بل آف آکس چینج کا

مَصَارِيفُ جُزْئِيَّةٌ - اتفاقی یا عارضی

اخراجات -

مَصَارِيفُ قَبْضِيَّةٌ - اخراجات مقدمہ

مَصَارِيفُ كَتَبٌ - اخراجات دفتر

مَصَارِيفُ مَنْزِلِيَّةٌ - خانگی اخراجات -

مَصَارِيفُ الدَّوْلَةِ - ملکی امور

مَصَارِيفُ الدَّوْلَةِ الْأَنْكَلِيرِيَّةِ - برٹش

سلطنت کے اغراض -

مَصَارِيفُ حُكُومَتِ - مجالس یا انجمن کا

انتظامی -

مَصَارِيفُ عُمُومِيَّةٌ - فوائد عامہ -

مَصَارِيفُ عُمُومِيَّةٌ - عام صلح -

مَصَارِيفُ قَطْعِيَّةٌ - آخری صلح

مَصَارِيفُ قَوِيَّةٌ - یقینی صلح

مَصَارِيفُ مُؤَبَّدَةٌ - دائمی صلح

مَصْرِيفٌ - بینک -

مَصْرِيفٌ خُصُوصِيٌّ - پروٹ بینک -

مَصْرُوفٌ - خرچ - ذر صرف شدہ

مَصْرُوفَاتُ حُكُومَتِ - سرکاری مالگزاری

مَصْلُوحَةٌ - انتظام - اہتمام - سررشتہ -

صینہ - محکمہ - علاقہ - عہدہ -

مَصَالِحُ الْبُيُوتِ سَطْلَةٌ - پوسٹ آفس - کا

مَصَالِحُ الرِّسَالِ - سررشتہ آب پاشی -

مَصَالِحُ حَفْرِ سَوَاحِلِ - ساحلی حفاظت

کا انتظام -

مَصَالِحُ رِيْمَانَاتِ وَفَنَارَاتِ - بندرگاہ

اور لائٹ ہوسوں کا انتظام

مَصَارِيفُ - وہ حصہ دار جس نے کسی کا خانہ

میں روپیہ دیا ہو لیکن وہ انتظام

میں شریک نہ ہو - اسٹیننگ پارٹنر

مَضْبُطٌ مُشْتَبِتٌ - حقیقی بل (سودہ قانون)

مَطْرَقَةٌ - مارٹول - ہتوڑا -
 مَطَالِبٌ - دعویٰ دار - دادخواہ
 مَطْلُوقٌ - طلاق دینے والا -
 مَطْلُوبٌ - دعویٰ بہ - جس چیز کے متعلق
 دعویٰ کیا گیا ہو -
 مَطْمُونَةٌ - سردابہ -
 مَعَارِضٌ - فریق مخالف -
 مَعَارِضَةٌ - مقابلہ - مقاومہ
 مَعَارِفٌ - تعلیمات
 مَعَاشٌ - وظیفہ
 مَعَاشُ التَّقَاعُدِ - ترک خدمت کا وظیفہ
 وظیفہ معذوری -
 مَعَاشٌ ضَعْفٌ - غیر معمولی تنخواہ -
 مَعَاشٌ عَادِمٌ - کال تنخواہ - پوری تنخواہ
 مَعْلَلٌ - بیج کرنے والا - بیوپاری -
 مَعَالِمَاتُ تِجَارِيَّةٌ - بیوپاری کام -
 مَعَاوِنُ التَّجَارِبِ - سائس چیمبر لین -
 مَعَاوِنُ التَّنَاطُرِ - وائس چینسلر -
 مَعَاوِنُ كَثِيرَةُ الْمَنَازِلِ - ڈپٹی کمشنر
 جنرل -
 مَعَاوِنُ بَدِيرَةُ التَّنَزُّلِ - ڈپٹی اسسٹنٹ

کمشنری جنرل -
 مَعَاهِدَةُ الْمَجَاحِقَةِ - کسی پر حملہ آور ہونے
 کے متعلق قرارداد -
 مَعَاهِدَةُ خَفِيَّةٌ - پوشیدہ عہد و پیمان
 مَعْبُدُ الْمُحِبُّوَاتِ - سب دیوتاؤں
 کا مندر -
 مَعْتَدِيٌّ - حملہ کرنے والا - ضرر رسان -
 مَعْتَدِبَابًا - پوپ کا وکیل -
 مَعَدَاتُ عَسْكَرِيَّةٌ - فوج کا ساز و سامان
 مَعْدَلٌ - اوسط -
 مَعْدَلُ الْقَاعِدَةِ - شرح سود -
 مَعْرِضٌ - نمائش - اگزیبیشن -
 مَعْرِضٌ عَاقِمٌ - بین الدولی نمائش
 انٹرنیشنل اگزیبیشن -
 مَعْرُقٌ - چولہا - چوہٹا -
 مَعْتَبِرٌ - نادار - دیوالیہ -
 مَعْتَكِرَةٌ - کنٹونمنٹ - چھاؤنی کیمپ
 پڑاؤ - لشکر گاہ -
 مَعْتَشَرٌ - ڈھ گوشہ - دس کونے کی شکل -
 مَعْتَشَرُ الْمَرْقَرِيْنِ - مونڈیکل پارٹی -
 گانے بجانے کا جلسہ -

مَقْتِشِ عُمومِ السَّجُونِ - انسپیکٹر جنرل
محاسب -

مَقْتِشِ عُمومِ حسابات - انسپیکٹر جنرل
آف اکاؤنٹس -

مَقْتِشِ عُمومِ رے - انسپیکٹر پبلسٹی -
مَقْتِشِ عُمومِ رے قسم اول - سررشتہ
آب پاشی حلقہ اول کا انسپیکٹر

مَقْلِس - نادار - دیوالیہ
مَقْلِسِ مَقْصَر - دیوالیہ مستلزم جرم -
مَقْوَّہ - نصیحت آتش بیان -

مَقَاصِد - مکافات - جزا - عوض -
مَقَاطِع - کسی ملک کی چیزوں کو خریدنے
سے انکار کرنے والا -

مَقَاطِع - کسی ملک کی چیزوں کو خریدنے
سے انکار کرنا -

مَقَالَةُ الْمُنْشِئِ - ایڈیٹر کا مضمون -

مَقَالہ - ایچ - تقریر (مقالات) جمع -

مَقَالہ بَکَر - اچھوتی تقریر - نیا لکچر

مَقَامِر - جو اکیلے والا -

مَقَامِرہ - جو اکیلے والا -

مَقَامِ مَشْرُک - عام شہ نامہ - کان

مَعْصَار - پریس - شکنجہ

مَعْطَى - عطا کرنے والا - بخشش دینے والا

مَعْطَى لَہ - جسکو عطیہ دیا جائے -

مَعْلُ الثَّقِیْمِ - شراب کی بھٹی -

مَعْبِیر - قرض دینے والا -

مَعَاصُ اللُّوْلُو - (۱) وہ ساحل (بحر)

جہاں موتی نکالنے کے لئے جاتے

ہیں (۲) موتی نکالنا -

مَعْتَصِب - بے دخل کرنے والا

مَعْرَہ - گہرو -

مَعْرَزُ الدَّبَابِئِس - پن کشن - پنوں

کا تکیہ - سوئی گدھی -

مِعْص - درد شکم - پیٹ کا درد -

مِعْنَطِيس - مقناطیس - سنگ چھماق

مِعْنَبِيَا - ایک قسم کی سفید مٹی -

مِقَاوَصَه - کانفرنس -

مِفْتَاحُ الْاَنْبُوَاب - وہ کنجی جس سے

بہت قفل کھلتے ہوں -

مَقْتِشِ - انسپیکٹر

مَقْتِشِ صِنَابِطِيَّة - پولیس انسپیکٹر -

مَقْتِشِ عُموم - انسپیکٹر جنرل -

مَقَامَہ - قومی گیت -

مُقَاوَل - ٹھیکہ دار - مستاجر - قہودار -

مُقَاوَلہ شِفَاہِیَہ - زبانی اقرار -

مُقَاوَلہ مُحَرَّرَہ - تحریری عہد و پیمانے

مُقَايَسَہ - (مولد) چھت کی کڑی درست کرنا -

مُقَايَسَنہ - مبادلہ - بارٹر - عوض معاوضہ

کے ذریعہ تجارت -

مُقَبَض - دستہ -

مُقَبَض - قبضہ - دستہ

مُقَبُول - سکاری ہوئی -

مُقَبَس - کسوی - پیدا کی ہوئی -

مُقَبَرَض - قرض لینے والا -

مُقَدَّمَات الصَّلَاح - ابتدائی صلح -

مُقَدَّم البَلَاغ - رپورٹ -

مُقَدَّم العَرِيضَہ - عرضی گزار - درخواست

مُقَرَّر بالبَیِّنَاتِیَہ - وہ الونس

(گنجائش) جو بیٹ میں رکھا جائے -

مُقَطَّوَعِيَّہ - مال کی مانگ - طلب - ڈانڈ -

مُقَلِّقُ النَّاسِ - لوگوں کا امن ترانے

والا -

مُقَيَّاسُ البُعْد - پرامیولیر مسافت

کی پیمائش کا پھیلا -

مُقَيَّاسُ الحَرَارَۃِ ہَوَائِی - وہ تھرمیاٹر

جس میں ہوا کے پھیلاؤ اور سکرٹنے

سے گرمی کی شدت معلوم کی جاتی ہے

مُقَيَّاسُ الشَّرَعِہ - وہ آلہ جس سے ہوا کی

جہت اور سرعت دریافت کی جاتی ہے

مُقَيَّاسُ السَّمْتِ - ہوا کی جہت دریافت

کرنے کا آلہ -

مُقَيَّاسُ المِسَاحَہ - پیمائش کا پیمانہ -

مُقَيَّاسُ النُّور - اکتومیٹر -

مُمَكَّاتِبَہ - مراسلت - خط و کتابت

مُرْكَانُ التَّسْلِيمِ - ڈیلیوری کا مقام

مُكْتَبُ دَفْعِ المَعَاشَاتِ - بخشہ خانہ

وہ شہر شہتہ جہاں سرکاری دیون

ادا کئے جاتے ہیں -

مُكْتَبَہ - کتب خانہ

مُكْتَسَب - فائدہ مند - مفید -

مُكْتَسِب - مفید - نفع بخش -

مُكَلَّف - غیر سلیس اور محنت سے کمی

ہوئی طرز عبارت -

مُكَيَّالُ المَوَاحِ - سیالات کا پیمانہ -

مَنَافِرَةُ الْأُمَّةِ - قومی کراہیت -
 مَنَافِسَةٌ - کاسپیٹیشن - ہمسری - برابری
 مَنَافِعُ الْأُمَّةِ - قومی فوائد -
 مَنَافِعُ وُورِلْتِیَّةِ - ملکی فوائد -
 مَنَافِعُ سِیَاسِیَّةِ - پولٹیکل انٹرسٹ -
 فوائدِ ملکی -

مَنَافِعُ مِثْرِیَّةِ - پہلک و رکس تعمیرات عامہ -
 مَنَاقِصَةٌ - تجویز فیصلہ -

مُنَشَّرٌ - پت جھڑ دخت
 مُنْجِدٌ - فرس و فرنیچر کا سوداگر
 مُنْجِحُ الْأُمُورِ - عثائے ربانی کے
 متعلق انتظام - اصطباغ کی انجام دہی

مُنْدُوبٌ - ایجنٹ - گماشتہ
 مُنْزَرٌ - سمندر کے قریب آمد و رفت
 کا مقام -

مُنْجِمٌ - وہ زبان یا اثنا جس میں سکتا
 ہو - سلیس - رواں -

مُنْشُورٌ - گشتی - سر کیولر -
 مُنْشِی جَرِیدَہ - اڈیٹر اخبار - منْصِبٌ - فیس
 مَنَاطِقٌ مُنْجِدَہ - زمین کا وہ سرو حصہ
 مَنَاطِقٌ مُجْتَمَہ - سا جو خط سرطان اور

کِیْنِیَّةٌ - انجن
 کَلَامٌ بَیْسٌ مَحْکَمٌ رِسْمِیَّةٌ - عدالتی ڈریس (پوشاک)

مَلَا حَطَاتٌ - کیفیت

مَلَا زِمٌ أَوَّلٌ - لفٹنٹ - نائب

مَلَا صِیْقٌ - ملا ہوا - لگا ہوا -

مَلْتَحِمٌ - آنکھ کا ایک پردہ

مَلْحَقَاتٌ - شرکائے جرم

مَلْحُوظَاتٌ - ہدایات -

مَلْحٌ - بہترین کام - اعلیٰ تصنیف (مخ)

مَلْحُصٌ قِصْصِیَّةٌ - کیفیت یا خلاصہ مقدمہ

مَلْزَمَةٌ - سکہ مسکوک کرنے والی جچی -

مَلْعُوبٌ - اپریل فول - ہولی کا بھڑوا -

مَلِکَةٌ نَائِبَةٌ - کوئین بیچنٹ - بادشاہ یکم

جو باستحقاق خود حکمراں ہو -

مَلِکِیَّةٌ مَصْنُوعَاتٌ - کاریگری کا سامان -

مَمَّاسٌ - لگاؤ - میل

مَمَّا لَکٌ غَرْبِیَّةٌ - غربی بلاد -

مَمْتَلِکَاتٌ - جائداد

مَمْلُکَةٌ أَعْجَبِیَّةٌ - غیر ملک - پردیس -

مَمَّارٌ - روشنی گھر - لائٹ ہوس -

(مَمَّارٌ جَمْعٌ -

قطب شمالی اور خط جدی اور دائرہ

قطب جنوبی کے مابین واقع ہے

مَنْطَرِيهٔ يَهْنِي - ساحل بحر کاسین -

مَنْقَاح - دھونکنی - دم کش -

مَنْفِي - شہر بدر کیا ہوا - جلا وطن کیا ہوا -

مَنْقَرَض - معدوم - مٹا ہوا - مفقود -

مَنْقُولَات - فرنیچر -

مَنْقُولَاتُ الْمَلِكْتَب - دفتر کافر نیچر -

مَنْقُولَاتُ الْمَنْزِل - گھر کافر نیچر -

مَنْكِرُ الثَّالُوْث - تری مورتی (مثلیٹ)

پر اعتقاد نہ رکھنے والا -

مَوَانِي - بندر گاہیں -

مَوَاجِر - مزارع -

مَوَادُّ التِّجَارَةِ - تجارتی ایشیا -

مَوَازِنُهُ دَوْلِيَّةٌ - پولیسکل ایکویلبرم -

مَوَازِنُهُ سِيَّاسِيَّةٌ - ملکی مساوات -

مَوَاصِلَات - وسائل حمل و نقل -

مَوَاصِلَاتٌ وَحَرَكَتٌ - فریوز و روانگی ریل

مَوَاعِيْدُ - ریل کے اوقات

مَوَافِقَةُ الْأَصْوَات - ہم آہنگی

ہم آوازی -

مَوَاقِعُ - کانگریس - کانفرنس -

مَوْجِزَةٌ - منظور کرنے والا - جائز قرار

دینے والا -

مَوْجِزَةُ الْبَحْثِش - رپورٹ - چنڈول -

مَوْدِعٌ - امانت رکھنے والا -

مَوْدِي الرِّيَّة - جس شخص کو روپیہ دینا چاہیے

مَوْتَسِسٌ - بانی - فونڈر

مَوْتَسِسِيْنٌ - کسی کارخانے یا کمپنی کی

بنا ڈالنے والے -

مَوْصِلٌ - وہ جس کے اجزائیں گرمی منتقل

ہو سکے - کانڈکٹر -

مَوْصِلِي لَهٗ - موہوب لہ - وصیتی -

مَوْطِفٌ - سرکاری عہدہ دار

مَوْطِفٌ حُكُوْمَتِيٌّ - سرکاری افسر -

مَوْطِفٌ عُمُوْمِيٌّ - پبلک افسر

مَوْقِعُ الْمَجْرِمِيَّة - موقع واردات

مَوْقِفٌ - اسٹیشن

مَوْقِفُ التَّلَاغِرَات - تار گھر -

مَوْكَلٌ مِّنْ الْأَصْلِ - وہ شخص جو دوسرے

کو انتظام کرنے کے لئے مقرر کرے -

مَوْلِدُ الْجُمْهُوْرَةِ - اوکسیجن - ایک لطیف

عنصر جو ہوا اور پانی کا جز ہے۔
 مَوَلَدُ الْمُحَضَّرَةِ - کلورین۔
 مَوَلَدُ النَّظَرُونِ - نائٹروجن۔
 مَوَلَدُ بَارِعِ - جمید نشی
 مَوَسِّنٌ لہ - بیمہ شدہ۔
 مَوْبُوبٌ لہ - بخشش پانے والا۔
 مَہر وَاہ - لاہور پریوی - انگلستان کے
 اعلیٰ وزیر کا خطاب۔
 مَہَمَاتُ الْحَرْبِ - جنگی سامان۔
 مَہِنْدِسٌ - مہر عمارت - معمار۔ انجینیر
 ماہر علم تعمیرات و آلات۔
 مَہِنْدِسُ الْأَبْنِيَةِ - سیول انجینیر
 مَہِنْدِسُ مَرَكَزِ - ڈسٹرکٹ انجینیر
 مَہِنْدِسُ مَنُوطِ بَعْلِ - وہ انجینیر
 جس کے تقویض کام اور انتظام ہو
 مِیَاہِ مَعْدِنِيَةٍ - فلزاتی پانی
 مِیْرَالَامِی - کرنل - ایک فوجی افسر
 مِیْرَالُوَا - فوج کا ایک بڑا افسر جس کے
 ماتحت کئی پلٹنیں ہوتی ہیں۔ برگڈیر
 مِیْرَانُ الْأَدْوَانِ - اولیو میٹر۔
 تیل کے جانچنے کا آلہ۔

مِیْرَانُ الْأَسْحَابِ - آند و خرچ کی فو۔
 مِیْرَانُ الزَّمَانِ - وقت کے اندازہ
 کرنے کی گھڑی۔ کروٹو میٹر۔
 مِیْرَانُ الشَّعَاعِ - کرن کی شدت اور خفت
 معلوم کرنے کا آلہ
 مِیْرَانُ الْغَازِ - گیس میٹر۔
 مِیْرَانُ الْمَاءِ - پیمانہ آب
 مِیْرَانُ الْهَوَا - ویدر گیج۔
 مِیْرَانُ بَيَانِ الرَّصِيدِ - واصل باقی۔ فرو
 مِیْرَانِيَّةٌ - بجٹ آند و خرچ کا تخمینہ۔ موازنہ
 مِیْرَانِيَّةٌ عُمُوْمِيَّةٌ - واصل باقی۔
 مِیْلَانٌ - جھکاؤ۔

بَابُ النَّوْنِ

نَادِيٌ خُصُوصِيٌّ - پریویٹ کلب۔
 نَارِيَّةٌ - حَقَّةٌ - نَارِكِيلَةٌ - حَقَّةٌ -
 نَارِيَّةٌ - آتش بازی۔
 نَارِيَّةٌ التَّرَاتِيْلُ - گرجے کا اسباب کھنے والا۔
 نَارِيَّةٌ - جدیدہ موجودہ
 نَاصِعُ الْبَيَانِ - مرصع طرز تحریر۔ مزین بیان
 رنگین عبارت۔

ناظر النظر - صدر اعظم - وزیر اعظم
پرائم منسٹر -

ناظر امور الہند - سکریٹری آف اسٹٹ
فار انڈیا -

ناظر امور خوارچہ - وزیر ممالک غیر
فارن منسٹر -

ناظر امور مالیہ - فنانس منسٹر
ناظر بحریہ - سروسز جنک بحری کا
اعلیٰ افسر -

ٹائٹل - مقدس قربانی

ناموس {
ناموس { پچھ

ناموسیہ - مجمردان مسہری -

نادلون - محمولہ اسباب - بھرتی -

جہاز کا کرایہ

ٹائی - بانسی جمع نلیات

ٹائیپ - ولادوغہ - گماشتہ - قائم مقام

پارلیمنٹ کا ممبر -

ٹائیپ آف آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

ٹائیپ آفیسر - ڈائریکٹ

نموج - (ناروے جو یورپ کا ایک ملک
نموج - ہے۔

نمزل - ہوٹل - سڑک
نمزع الترمینہ - سقوط استحقاق الفکا
راہن -

نمزع الملکیہ - اراضی کا بہ اغراض سرکار
جبراً حاصل کرنا۔

نمزل تعینات - رسد رسانی کا گودام -
نمزل القیمہ - مالیت گھٹانا۔

نسخہ - کاپی - مجلد - جمع نسخ
نشاط - توانائی - کام کرنے کی طاقت

نشان افتخار - آرڈر ایک مرتبہ -
نشان حاتم - آرڈر آف دی ہاتمہ -

ایک خطاب -
نشر - اجزا کا جدا جدا کرنا -

نشرۃ - اعلان - اشاعت - گشتی پروانہ
نصاب - کورس - اتنے اشخاص جو

اجراے کار کے لئے کافی ہوں -
نصب و اختیال - دعو کا وہی - فریب

نصف جاہلیہ - نصف تنخواہ -
نفسہ - علم تعریف الامراض - پیتھالوجی -

نائب رستولی - اسقف کا مددگار -
اپوسٹولک وکار

نائب فضل - وائس کانس -
نائب مدیر - اسٹنٹ جنرل منیجر -

نائب مساعد - نائب مددگار - ڈپٹی
اسٹنٹ -

نائب وکیل - ڈپٹی ریپر پرنٹیو -
نیمتون - نیچون - ایک جدید سیارے کا نام -

نیشروجن - نیشروجن -
نتیجہ صحتیح - کسی مقدمہ یا شکل سے

لازمی نتیجہ نکالنا -
نجیمہ - سیارچہ چھوٹا سیارہ -

نکاس - کسارتا بنے کے برتن بنانے والا -
نخب - جام صحت

ندی - مجلس - جماعت - جمعا - سبھا -
کونسل -

نذیر - یہودی جو نہایت پاکیزگی کا دعویٰ
کرتا ہے - (نذر) جمع

نموج - نیچہ
نمزع الماء - (وہ قطعہ ملک جس کا پانی

کشع الماء - کسی دریا میں گرتا ہے -

نظارة - وزارت -

نظارہ - دورہ - عینک -

نظارۃ اشغال العمومیۃ - وزارت

تعمیرات عامہ -

نظارۃ البحریۃ - سمندر کی وزارت -

نظارۃ المحرریۃ - منسری آف وار -

وزارت جنگ -

نظارۃ المالیۃ - وزارت فیانس -

نظارۃ المعارف - وزارت تعلیمات -

نظارۃ حقانیۃ - کورٹ آف جسٹس -

نظارۃ واجلیۃ - کسی ملک کے امور داخلی

کے انتظام کا دفتر -

نظارۃ و خولیۃ - آبکاری کا صدر دفتر -

نظامت آبکاری -

نظارۃ صغیرہ - چھوٹی دورہ میں جس سے

ناہک کا تماشا دیکھتے ہیں -

نظارۃ عمارات میریۃ - بورڈ آف

پبلک ورکس - مجلس تعمیرات عامہ -

نظارۃ مالیۃ - اسپیکر - فیانس کا اعلیٰ دفتر

نظام - رگیولیشن - آئین - قانون -

قانون ذیلی - قاعدہ مخصوص - قواعد

مرتبہ جماعت مجاز -

نظامات الضبطیۃ - قوانین پولیس -

نظامات المطبوعات - چھاپے خانے

کے قوانین -

نظامات بلدیۃ - نیونسپل قوانین -

نظامات تجارتیۃ - تجارتی قوانین

نظامات جاریہ فرعیۃ - قوانین نافذہ

نظامات حقوقیۃ - دیوانی قوانین -

سیول لاز -

نظامات زاجرہ - اتنماعی احکام

نظامات مؤسسہ - قانون پرنسپلٹی

قانون موضوعہ -

نظامات میریۃ - قوانین صیغہ مال

نظام الحکومتہ - طرز حکمرانی - طریقت

فرمان روائی -

نظام عام - پبلک پالیسی -

نظام قضائی - عدالتی بندوبست

کیا تنظیم -

نظام نامہ شرکتہ - کمپنی قائم ہونے کے

شرائط -

نظر - معاینہ کرنا - تنقید کرنا - ریویو -

نفاخہ - پھلکا

نقدہ - مد - آٹم - رقم -

نقر قرعہ - حیرا بھرتی کیا ہوا سپاہی -

نقر نوبختی - اڑولی - ہمراہی -

نفظ خالص - کامین - پٹرول سے منقطع

کیا ہوا ٹیل -

نققات - اخراجات -

نققہ - خرچ -

نقوذ - اثر - حکومت - انقلونس -

نقوذ سیاسی - ملکی اثر - ملکی اقتدار

نقوذ کللی - پورا اثر - پورا اقتدار -

نقفی - جلا وطن - دیس نکالا -

نقفی اداری - انتظاماً جلا وطن کرنا -

نقبات العمال - دوستانہ صحبت یا مجمع

نقار الخشب - کٹھ پھوڑا - ہد ہد -

نقاط اصلی - قطب نما کے اصلی جہات

یعنی شمال - جنوب - مشرق - مغرب -

نقالہ - اسپتال کی ڈولی یا گاڑی -

نقص ابرام - منہج -

نقل یا عزول تراب - اراضی کا مساف

کرنا جو سفر میں کا فریضہ ہے -

نقل العقار - انتقال جاہاد -

نقود عین - حقیقی رقم -

نقود ناقصہ - محرف یا مٹے ہوئے سکے -

نقرہ - عدد (نقرا) جمع -

نواحی برزانیہ - ممالک غیر

نوباتی - گویا - معنی -

نوباتیہ - طائفہ - گویوں کی جماعت - بنیڈ

نوزی - ملاح جہازی - کشتی بان -

نوائی (جمع) -

نوٹیر - ایک عہدہ دار جو ان امور کی

یادداشت لکھتا ہے جس سے عوام کو

تعلق ہوتا ہے - نوٹیری سپاک -

نوز دنجی - ناروسے کا باشندہ

نوع رومی - ادنیٰ قسم -

نول - جلاہے کے بننے کا راجہ -

نولون - جہاز کا کرایہ -

نہار زائل - ڈھلتا دن -

نہر جلید - محرک میدان برف - گلپشیر -

نوع زار -

نہر مید - باج گزار دریا

نوز - بادوزاں کا موسم -

نِیَابَةُ السَّلْطَنَةِ - بادشاہ کی قائم مقامی
نِیَابَةُ عُمُوْمِیَّةٍ - دُولتی قائم مقامی -

باب الواو

وَابُوْر - اسٹیمر - دخانی کل - آلہ بخار
وَابُوْر البَیْر - ریل -

وَابُوْر البَیْحَر - جہاز و دخانی جہاز - اسٹیمر
وَارِجِبَاتٌ نَسْبِیَّةٌ - فرائض متناسبہ
وَاِجْبِیَّةٌ - عمارت کار و کار -

واحد - { نخلستان - جمع واحات
واح -

وَارِثُ الذِّكْرِ - وارثِ زینہ
وَارِثُ الْمَلِکِ - ولی عہد
وَارِدٌ - درآمد - جمع واردات
وَارِدَاتٌ - درآمد -

وَارِدَاتٌ مِیْرَتِیَّةٌ - سرکاری مالگزاری -
وَارِکُو - محصول مالگزاری -

وَأَشْشَنْطُن - شہر واشنگٹن
وَأَصِلْہ - جوڑنے یا لانے والا حرف
وَأَصْنَع - لگانے والا -

وَأَصْنَعُ الْقَوَائِمِینَ - قانون ساز -

وَأَصْنَعُ الْکَیْدَ - قابض

وَأَطِش - سرود کینسہ - گرجا کا گانا -
وَأَقْد - نایب - ڈپٹی -

وَالِدَةُ السُّلْطَانِ - بادشاہ مرحوم کی
بیگم جو سلطان یا سلطانہ وقت کی ماں
بھی ہو -

وَالِیٌ - گورنر - حاکم
وَالِیُ وِلَاةِ الْہِنْدِ - گورنر جنرل -
وَابُوْرِی - اونٹ کے بال کا کپڑا
وَاتْرٌ - زاویہ قائمہ کا مقابل ضلع -

وَاتْرٌ - کمان کی ڈوری -

وَاتْرٌ - مستطیل یا مربع کا ترچھا خط -

وَأَثِیْقَةٌ - نوٹ - تحریر - چٹھی - عہد نامہ -
فرد حساب - سند - سارٹیفکٹ -

پرائمری نوٹ جمع ہتائی -

وَأَجَاقٌ - اکیٹھی - جمع وجاقات -

وَأَجِبٌ - کتاب کا صفحہ - جمع وجود

وَأَجِبْہ قِبْلِی - جنوبی مصر کا جنوبی حصہ -

وَأَجِبْہ بَحْرِی - شمالی مصر کا شمالی حصہ

وَأَمِنٌ - امین امانت دار

وَأَرَاقٌ - کاغذ - قلم - وراثت بیچنے والا -

وَرَقُ الْمَكَاتِبِ - خط لکھنے کا کاغذ
وَرَقِ نَشَافٍ - جاذب کاغذ۔

سیاہی چٹ۔

وَرَقِ مُنَشَفٍ - جاذب کاغذ

وَرَقِ التَّنْصِيبِ - لاٹری کی چٹھی۔

وَرَقَةُ الْإِتِهَامِ - فرد قرار داد جرم

وَرَقَةُ التَّنْصِيبِ - اصطلاح پانے کی سند۔

وَرَقَةُ الطَّلَبِ - سمن طلب نامہ

وَرَقَةُ بِنِیْکٍ - بیک نوٹ۔

وَرَقَةُ تَهْمَتِهِ - فرد قرار داد جرم

وَرَقَةُ حَوَالِهِ - { منی آرڈر۔
وَرَقَةُ تَحْوِيلِ -

وَرَقَةُ نَالِیْتِهِ - سپر منی - سرکاری نوٹ۔

وَرَقَةُ مُزَوَّرَةٍ - جھوٹی دستاویز

وَرَقَةُ مُضَرَفٍ - نوٹ کاغذی اسکے۔

وَرَقَةُ مُضَرَفٍ - ہنڈی - چک

وَرْنٌ - ورنہ - گرگٹ۔

وَرْنِیْشِشٌ - روغن - وارنش

وَرَارَةٌ - وزیر کا عہد یاد دہنہ۔

وَرَارَةُ خَارِجِیَّةٍ - وزیر بیرونی کا دفتر

وَرَارَةُ دَاخِلِیَّةٍ - وزیر داخلی کا دفتر

وَرَبٌ - اریب - کج - ترجحاً۔

وَرَبِیَّةٌ - چھوٹا عامہ۔

وَرْدَةٌ - ہشیار - خبر دار۔

وَرْدِیَاں - محافظ - سنتری - کروڑ گیری

رچنگی کا سپاہی۔

وَرَسَلٌ - شکر یہ - تمینک۔

وَرَسْمَةٌ - کارخانہ - کوٹھی۔

وَرَقٌ - سند - دفتر - نوٹ - کارڈ - نوٹ

وَرَقٌ مُوسَطَہٌ یَا وَرَقٌ یُونٌ - پوسٹل

اسٹامپ - ڈاک خانہ کا اسٹامپ۔

وَرَقٌ تَحْوِيلِ - ہنڈی۔

وَرَقُ التَّنْصِیْفِ - بلائنگ پیپر - جاذب

وَرَقُ الرَّسْمِ - ڈرائنگ کاغذ - نقش

کھینچنے کا کاغذ۔

وَرَقُ الرَّفَاعِ - نوٹ پیپر - خط لکھنے کا کاغذ

وَرَقُ الزَّیَارَةِ - ملاقاتی کارڈ۔

وَرَقُ الْکَرْمَلِیُونِ - کابان پیپر - سیاہ کاغذ۔

وَرَقٌ خَشِنٌ - کھرا کاغذ۔

وَرَقٌ رَقِیْقٌ - شہر جنوا کا بنا ہوا کاغذ۔

وَرَقٌ نَدْبُونٌ - تیلیا کاغذ

وَرَقٌ مَصْقُولٌ - چکنا کاغذ

وَسَام - فرمان سلطنت - نشان - علامات
دَفْتَرِ جَمْعِ اَوْ بِمِثْلِهِ -

وَمُسْتَعْنَى - میدان - کھلا مقام - اسکویہ
وَمُسْتَقْبَل - جہاز کا بار - کھیپ یا بھرتی -

وَمُسَيِّبٌ - زمین - جاہداد - شاملات وہ
وَمُسَيِّطَةٌ - درمیانی آدمی یا چیز - بھوت
پَرِيتِ كَاتِمَاتِ شَاوِ كِهَانِے وَالَا -

وَمُسْرَكَاءُ - اینڈ کمپنی -

وَمُتَشَى - رنگ (وشاء) جمع

وَمُضَفَةٌ - نسخہ دوار

وَمُضَلٌّ - رسید کا ترجمہ - رسید

وَمُضَوَّلٌ - رسید - جمع وصولات

وَمُطَاوَلَةُ أَعْضَاءٍ - فریالوجی

وَمُضَوَّلٌ وَقِيَامٌ - فیوزوروانگی

وَمُضْعُ الْأَخْتَامِ - مہرین لگانا -

وَمُضْعُ الرَّسْمِ - محصول لگانا -

وَمُضْعُ الْبَيْدِ - لاخراج - زمیں داری از

تصرف - استعمال - قبضہ - قابو -

وَمُطَاقٌ - خیمہ - ڈیرا جمع و طاقات

وَمُطَوَّأَةُ الْبَحْرِ - آرٹس والی مچلی

وَمُطَى قَهْرِي - زتابا لجر -

وَزْرَةٌ - نگلی - چھوٹی چادر جمع درمات -

وَزْنٌ - تقسیم -

وَزْنَةٌ - روپیہ یا اشرفیوں کی ایک بڑی مقدار
جو ۳۹۶ پونڈ کے مساوی ہوتی ہے

جمع وزنات -

وَزِيرُ التِّجَارَةِ - منسٹر آف کمرس -

وَزِيرُ الْحَرْبِ - منسٹر آف وار -

وَزِيرُ الْخَارِجِيَّةِ - منسٹر آف فارن آویزر -

وزیر امور ممالک غیر -

وَزِيرُ الْمَالِ الْخَلِيَّةِ - منسٹر آف ہوم ڈپارٹمنٹ -

وَزِيرُ الدَّوْلَةِ - فرسٹ لارڈ آف دی

ٹریزری -

وَزِيرُ الْعِبَادَاتِ - منسٹر آف ورشپ

وَزِيرُ الْأَدْيَانِ - انڈیہی امور یا سرپرستہ

کا وزیر

وَزِيرُ الْعَدَلِيَّةِ - منسٹر آف جسٹس

وَزِيرُ الْمَالِيَّةِ - منسٹر آف فینانس

وَزِيرُ الْمَنَافِعِ - درر تعمیرات عامہ -

منسٹر آف پبلک ورکس -

وَزِيرُ بَالِيَّةِ - چینسلر آف دی اکسچینجر -

مہتمم اعلیٰ خزانہ شاہی -

ایجنٹ - گماشتہ - نائب - سلطنت کا

وکیل یا ایچی - جمع کوکلا -

وکیل اللہ وکٹہ - ریڈنٹ

وکیل اللہ وکٹہ - اثرنی جنرل - سولیسٹر جنرل

وکیل و نہاشی - ایک فوجی افسر - سکٹ

کارپورل -

وکیل بالعمومہ - آرٹھتیہ گماشتہ کمیشن

وکیل تجارتی - سکرٹل ایجنٹ - بیوپار کے

متعلق گماشتہ

وکیل خراج - خانسامان - داروغہ

وکیل رسمی - اثرنی - مختار -

وکیل سیاسی - پولیٹیکل ایجنٹ

وکیل شہزعی - سرکاری مفوض الیہ

وکیل شہزادہ تائین - انشورنس ایجنٹ -

وکیل شہزادہ تائین - انشورنس ایجنٹ -

ادورٹائزنگ ایجنٹ -

وکیل عام - جنرل ایجنٹ

وکیل عرفی - ثالث ایپارٹر

وکیل عموکہ النقل - فارورڈنگ ایجنٹ

وکیل متصرف - قائم مستسام گورنر -

منفرد گورنر -

وظیفہ - تنخواہ - عہدہ - فرض - فریضہ

جمع و طاعت -

وظیفہ محالیہ - خالی جایاد -

وفا - معاہدہ یا شرط کی تعمیل - قسط

وفاؤ النیل - دریائے نیل کا سب سے

بڑا سیلاب -

وفر - پس انداز رقم

وقعہ - ایک دفعہ کی غذا - روٹی جو ایک مرتبہ

کھائی جائے -

وقوف انحال - سردبازاری - کساد

بازاری -

وقوف الساعۃ - گھڑی کا بند ہو جانا -

وکالہ - سیاحت ایجنسی - ایجنٹ کا دفتر

سراشے ہوٹل -

وکالہ تجارتیہ - ٹیکسٹی - کارخانہ -

وکلاء اللہ وکٹہ - ناظمان و سربراہ کاران

سلطنت -

وکلاء الممالک - سیاسی جماعت

ایچیوں کی مجلس -

وکلاء و وکٹہ - سلطنت کے وزیر و امیر

وکیل - وصیت کی تعمیل کرنے والا -

وکیل مفوض - کشنر

ولایت - صوبہ گورنری کا عہدہ (ولایات) جمع
و کد - چھوکر - خادم - لڑکا - جمع ولدان -
اولاد -

ولی الأفر - سرپرست - نگہبان
و سنج - ایک ساز - چنگ

و و کدہ - اینڈسٹری
ویانہ - شہر وانا آسٹریا کا پائے تخت -
ویہ - غلے کا پیانہ -

ویر کو - { مال گزاری - خراج زمین
ویر کی -
ویرا - کسی ملک میں جانے کی اجازت

باب الہاء

ہا ثور - نوبہ

ہا جر - چھوڑ کر بھاگ جانے والا -

ہا رب - مغرور سپاہی یا ملاح

ہا ل - الاچی - ریل -

ہا لکی - ہتیار ہمان کرنے والا - صیقل گر -

ہا میش - کتاب کا حاشیہ - جمع ہوا مش

ہا تم - خانم - خاتون -

ہینو ترم - تنویم - سمر ترم کے ذریعے سلانا -
ہینو ترم - کتے کا بھونکنا -

ہجان - شتر سوار - سانڈنی سوار -

ہتک الغرض - گستاخانہ جملہ -

ہانت - اسٹنٹ -

ہجائنت - سانڈنی سواروں کی فوج

ہتر سواروں کی پلیٹن -

ہجو - لائیںبل - ازالہ حیثیت عرفی -

ہجوری - دوپہر کا ناشتہ

ہجوم - حملہ کرنا -

ہجومی - جارحانہ - حملہ آور - چڑھا کی کرنوا

ہجومی و دفاعی معاہدہ - آفنیو و

ڈفنیو اتحاد -

ہر دم - (ہدم کی جمع) پتے کے کپڑے -

ہر تہہ الو ذراع - وہ تحفہ جو وقت بجدائی

دیا جاتا ہے -

ہر بڈہ - کپڑے کو چاک کرنا -

ہر سٹک - کپڑے - اسباب - برتن وغیرہ

ہر تہ جمع ہر تہ تک

ہر زو بخت - ہجوم - بھیڑ - ہر دم جمع -

ہر شش - بوڑھا - کھوسٹ

ہر طبقہ - الحاد - بے مذہب ہونا -

ہر طوفانی - بد مذہب - لحد - زندگی - جمع

(ہر اطقہ)

ہر سکلہ - کم زور ہونا - ضعیف ہونا -

ہر گنہ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا - پارہ پارہ کرنا -

ہر مان - مصر کے مخروطی مینارے -

ہزار - بلبل - جمع ہزارات -

ہزاریکہ - ایک ہزار سال -

ہزیرا - جون -

ہزیرلیتہ - ہنسور - ٹھنڈل

ہفت - درد تکلیف

ہلال - { جملہ معترضہ - بریکٹ - بریکٹس
ہلالان - }

ہلال - کان صاف کرنے کا آلہ

ہلام - ایک قسم کا مہرباجیلی -

ہلس - خرافات - پوہرات

ہلمولہ - چھیرتا -

ہلیلہ مشکک - استنبولی مسی سکہ جو

آرہ آنے کے مساوی ہے -

ہمایون - {

ہمایونی - { سفاہی

ہمچیتہ - وحشت

ہمکشت - چرمی موزہ -

ہمشوز - پھیلا - گاڑی

ہمساب - لگن -

ہمشکاریا - {

ہمنکاریا - }

ہندسہ - انجینرنگ -

ہندسہ الالبینیہ - { سیول انجینرنگ -

ہندسہ البناء - { فن عمارت

ہندوس - ہندو کی جمع ہنود -

ہوا جس الناس - سارے عامہ - پنہاک

اوپینین

ہواری - بے قاعدہ فوج - والنٹیر فوج

ہوای الاصفہ - ہیضہ -

ہوری - چھوٹی گشتی

ہوس - بندرگاہ -

ہوشکی - وِسکی شراب -

ہولاندہ - {

ہولاندہ - { ملک ہالینڈ

ہومیرئوس - ہومر (شاعر)

ہویس - بھنی ہوئی بوٹ - ہولے -

ہونیس - حوض -

ہونجان - آتش خیز پہاڑوں کا چھوٹا ٹکڑا۔

ہونچین - فن حفظان صحت

ہوسر و عیسیٰ - مصر کی قدیم تصویری زبان۔

ہویکار - ایکٹر

ہیلیم - ایک جدید عنصر کا نام جو غاز ہے

ہیلوم -

ہینتہ - مجلس - شکل - وضع - کورم -

جمع ہنیات -

ہینتہ اجتماعی - سوسائٹی -

ہینتہ استعمال - مستقل عملہ

ہینتہ حکمرانہ استثنائیہ - عدالت

مرافعہ کا اجتماع -

ہینتہ وکالتہ الاممہ - قومی نیابت -

ہینول - ذرہ - جزو صغیر

بَابُ الْيَاءِ

یابان - جاپان

یابرسہ - خشکی - بڑا عظم

یاقوسی - کاش - اسے کاش - خدا کرے -

یاخور - اسطبل -

یارج - ہاتھ کے زیورات - جمع یوارج

یارق - دیوارق -

یاشا - زندہ رہے - بادشاہ سلامت -

کلمہ و حاجو بادشاہوں کے لئے استعمال ہے

یا شمشق - ترکی غورتوں کا مہنغ - روئے بند -

یائغی - آواز بازگشت - صد گونج -

جمع یواغی -

یافتہ - کاغذ - اشتہار - تختہ اشتہار

یافطہ -

یاقہ - کار -

یالوق - جوانی کا مخرب - تھیلا - بورا -

جمع یالوق و یوالوق -

یامیش - میوہ جات

یانصیب - لاٹری

یانہ - غلات تکیہ

پاور - ایڈیکانگ - مددگار

پاور حزب - ایڈیکانگ - سپاراکامصا

یامی - کلمنی - اسپرنگ - جمع یایات

یہترق - بیک قسم کا ترکی کھانا -

یختت - کشتی زورق

کوئل گھوڑا۔

۱۔ ہاتھ کے زیورات۔

گز۔ یارڈ۔

سج۔ جوتے کی سیاہی۔ سیاہ چمڑا

۲۔ سپاہی۔ سنتری۔ چوکیدار

۳۔ برسات۔ بارش

۴۔ وہ مال جو محصول چنگی نہ ادا کرنے کی

وجہ ضبط کر لیا گیا ہو۔

۵۔ بی یا ایسا فحی۔ سفر کے چیراسی

۶۔ اور اولی۔

۷۔ ع مسیح۔ حضرت عیسیٰ

۸۔ عیسیٰ۔ مسیحی۔

۹۔ عیسائی مذہب۔ مسیحیت

۱۰۔ گدھا۔

۱۱۔ منافہ لوجہ المصلحت۔ سررشتہ

محسوب ہو جائے گا۔

۱۲۔ محافظان شاہی۔ باڈی گارڈ۔

۱۳۔ طاقان۔ خنجر۔ پیش قبض

۱۴۔ قاریہ۔ شاہ جیس دوم کے طرفدار

۱۵۔ سائن بورڈ۔

۱۶۔ قاتلہ۔ گلے کا کار۔

یکٹ۔ تاش کایکہ

یکین۔ بھانچہ۔ بھتیجہ

یکلی۔ نیا آدمی

یکلی دُنیا۔ نئی دنیا۔ امریکہ

یکلی جبری۔ نیگیجری فوج۔ ترکوں کی

یکیشری۔ ایک فوج کا نام جو اب

موقوف ہو گئی ہے۔

یکاک۔ ویسٹ کورٹ۔ صدری۔

یکیکنجی۔ دیدبان۔

یکلیحق۔ مکتوب الیہ جہاں ہو وہیں پہنچا دیا

یکلیحق۔ اتاری لباس۔

یکم۔ جانب۔ حصہ۔ جمع یوم

یکم۔ کامل طور پر کما بینغی

یکماق۔ خدمت گار۔

یکمین خاسمہ۔ قطعی یا ناطق قسم۔

یکمین کا ذبہ۔ جھوٹی قسم۔ دروغ حلفی

یکسائر۔ جنوری

یکسٹری۔ ترکوں کی پرانی فوج

یکوسٹیل۔ جوبلی کا معرب جشن

یکوزبانشی۔ کپتان وارنٹ آفیسر فوج

کاکپتان۔

یوڈ بائیسٹیہ - وارڈن روم - ناٹس
یونیورسٹی کاکہ -
یوسف آفندی - سنگتہ
یوک - خواب گاہ - جمع یوکات
یولیو - جولائی -
یوم آلا شہسحاق - میعاد کے پورے
ہونے کا دن - روز ادائیگی -
یوم انعقاد محکمہ - عدالت کے اجلاس
کا دن -

یوم بظاہر - { تعطیل کا دن
یوم عطیہ -
یوم شغل - کام کا دن
یومیہ - روزینہ - ہر دن کی مزدوری
رہسٹر - روز نامہ - اخبار
یونیو - { ماہ جون - حزیران -
یونہیہ -

س م ت

از راہِ کرم کتاب ملاحظہ کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل غلطیوں کی تصحیح کر لیجئے

صفحہ	صحیح	غلط
۱۹	اقہ	اقہ
۲۰	اکثر	اکثر
۲۰	الارادۃ السنیۃ	الارادۃ الشنیۃ
۲۱	التلعوف بغير سلك	التلعوف بغير سلك
۲۱	الرقۃ	الرقۃ
۲۳	المدرسة الاجزائية	المدرسة الاجزامية
۲۵	مکر	امیر لویا
۲۶	انعام الامت	انعام الامت
۳۸	بروتانت	بروتانت
۴۴	بضاص	بضاص
۴۵	بطریک	بطریک
۴۵	بعید الساد	بعید الساد
۵۰	کرر	بوستہ عمومیہ
۵۶	تیسبی	تیسبی
۵۶	تیغ	تیغ
۶۲	تسجیر	تسجیر

٦٣	تصينات	تفقات
٦٥	تقويض الخماره	تقويض الخماره
٦٦	تقويم سنة	تقويم السنة
٨٤	حاكم الضبطية	حاكم الضبطية
٨٩	اكرر	مجرية
١٠٩	دوائر جنابات	دوائر جنابات
١١٠	دجاج	دجاج
١١٣	كرر دوبار	دقتر نوميت
١١٣	كرر	دوره مصرف
١١٣	كرر	وزير ماليه
١١٤	الدولة السامويه	دولة ساديه
١٣٤	كرر	سجنجل
١٦٦	طالب الحج	طالب الحج
١٤٥	كريد	عليه رسم
١٩١	متجنس الصنوبر	متجنس الصنوبر
١٩٢	كرر	مصرف
١٩٣	مخبر	مبخر
١٩٤	مدير الضبطية	مدير الضبطية
٢٠٩	تزوج	زوج
٢١٠	كرر	نظاره ماليه

فہرست فارسی جدید

جس میں جدید فارسی کے تقریباً دس ہزار الفاظ جو فی زمانہ آباد ایران میں بولے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں فارسی اور علوم و فنون کی صدائے کتب و جرائد و رسائل سے سا لہا سال کی محنت و مشقت سے جمع کر کے اُنکے معنی اردو زبان میں شرح و بسط لکھے گئے ہیں چھپکریا ہے جسکی قیمت (۱۰) ہے

مجمع الالفاظ

جس میں زبان اردو - فارسی اور عربی کے مروجہ اور نادر الفاظ تمام و کمال طلباء کا نیز فائدہ عام کے لئے یکجا جمع کئے گئے ہیں قیمت (۱۰)

یہ کتابیں پتہ ذیل پر دستیاب ہیں

- (۱) راجہ راجیو راؤ اصغر (اوبانغ) اسٹیشن روڈ حیدرآباد دکن
- (۲) مکتبہ اہمیدگار - اسٹیشن روڈ حیدرآباد دکن

